

بیت الاحزان

مصنف

محدث اکبر شیخ عباس قمی
(صاحب مفتاح الجنان)

حَسَنَ عَلِيَّ بَکِّ طَبُو

بالمقابل بڑا اماں باڑہ۔ کھارادر۔ کراچی۔ فون: ۲۴۳۳۰۵۵

E-mail: hassanalibookdepot@yahoo.com

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

بیت الاحزان	کتاب
شیخ عباس قمی	تالیف
محمد حسن جعفری	ترجمہ
سید فیضیاب علی	تصحیح
۲۰۰۳ء	طبع اول

فہرست

۳۶	مصحف فاطمہ	۹	عرض ناشر
۳۹	بہشت میں مقام زہرآ	۱۱	مقدمہ
۴۰	فاطمہ کی گفتگو نشاط پیغمبر کا ذریعہ تھی	۱۳	محدث قمی ایک نظر میں
۴۱	زہرآ کی فاتحہ کشی اور دعائے پیغمبر	۱۵	تالیفات محدث قمی
۴۲	شوہر کا لحاظ	۱۷	عرض مؤلف
۴۳	تقسیم کار		حصہ اول
۴۳	فرشتے اور خدمت زہرآ	۱۸	حضرت زہرآ کی ولادت باسعادت
۴۳	پیغمبر اکرمؐ خود اپنی بیٹی کی مدد کرتے ہیں	۲۱	حضرت خدیجہ کی زبانی اس شب کی روداد
۴۵	غذائے زہرآ کی برکت	۲۲	قول مؤلف
۴۶	عبادت زہرآ	۲۳	ولادت حضرت زہرآ
۴۸	کنیز کا مطالبہ	۲۶	شرح اسمائے فاطمہ
۵۰	حضرت زہرآ کی کنیز کا تکلم باقرآن	۲۹	شوہر سے ہمدردی کا نمونہ
۵۳	حضرت زہرآ اور ان کے شیعوں کا مقام	۳۰	حضرت زہرآ کی اولاد پر شفقت کا نمونہ
۵۵	حضرت سلمانؓ کے سوال کا جواب	۳۱	ابن عثین شاعر کا واقعہ
۵۶	زہد فاطمہ کی ایک جھلک		حصہ دوم
۵۹	پیغمبرؐ اور بنت پیغمبرؐ کا زہد	۳۳	حضرت زہرآ کے فضائل
۶۰	سیدۃ اور نوشتہ پیغمبرؐ کا احترام	۳۵	محبت برائے خدا

- ۶۱----- مصائب زہرا کی پیش گوئی
- ۶۲----- حضرت زہرا کا عقد
- ۶۳----- سیدہ کا حق مہر
- ۶۴----- سیدہ کا جہیز
- ۶۶----- سیدہ کی رخصتی اور ولیمہ عروسی
- ۶۹----- رخصتی
- ۶۹----- پیغمبر اکرم کی آمد اور زوجین کو مبارکباد
- ۷۲----- پیغمبر اکرم کی سیدہ کو چند نصیحتیں
- ۷۳----- پیغمبر اکرم کی حضرت علی کو نصیحت
- ۷۳----- کینر کا تقاضا اور تسبیح کی تعلیم
- حصہ سوم**
- ۷۵----- روداد ستیفہ بعد رحلت پیغمبر
- ۷۵----- اجتماع انصار
- شیخین کی ستیفہ آمد اور
- ۷۶----- حضرت ابوبکر کی تقریر
- ۷۸----- چند دیگر افراد کی گفتگو
- ۸۰----- بیعت ابوبکر
- ۸۱----- سعد کی تند و تیز گفتگو اور بیعت سے انکار
- ۸۳----- افسانہ طرازی
- ستیفہ کے متعلق ابن ابی الحدید کی
- ۸۳----- ایک اور روایت
- ۸۵----- کچھ حوادث اور ستیفہ کے عواقب
- ۸۵----- علی اور بنی ہاشم کی ستیفہ سے لا تعلق
- ۸۶----- گفتار علی
- ۸۶----- ابوسفیان کی پیشکش کو ٹھکرانا
- ۸۸----- مشورہ اہلبیس
- ۸۹----- ابو ذویب ہذلی کی عجیب روایت
- ۹۱----- شعراء کی طرف سے ستیفہ کی مذمت
- ۹۹----- علی کی طرف سے انصار کا دفاع
- ۱۰۱----- ام امین کے اشعار
- حضرت ابوبکر کا اسامہ کے نام خط
- ۱۰۲----- اور اس کا جواب
- ۱۰۵----- واقعات ستیفہ کی مزید تحقیق
- اکثریت پیغمبر کے جنازے میں
- ۱۰۵----- شریک نہ تھی
- ستیفہ - براء بن عازب صحابی پیغمبر
- کی نظر سے
- ۱۰۸----- بیعت بنی ہاشم
- خانہ علی و بتول پر یلغار
- ۱۱۰----- بیعت علی اور علمائے اہلسنت
- ۱۱۲----- بیعت ابن قتیبہ وینوری کی نظر میں
- ۱۱۲----- انصار سے نصرت طلبی
- ۱۱۷----- ابوبکر کی سیدہ سے گفتگو
- ۱۱۹----- ابن عبد ربہ اندلسی کا قول

۱۵۳	وصیت پیغمبر کی یاد دہانی	۱۲۰	مشہور مورخ مسعودی کی گفتگو
۱۵۳	بھائی سے ملاقات	۱۲۱	چند شیعہ علماء کی گفتگو
	حضرت ابو بکر کا پیغام اور	۱۲۲	سید ابن طاووس کی گفتگو
۱۵۴	حضرت علی کا جواب	۱۲۳	ایک عجیب داستان
۱۵۶	خانہ بتوں شعلوں کی لپیٹ میں	۱۲۶	خطبہ ششقیہ
۱۶۰	بددعا کا فیصلہ	۱۲۶	خلافت کا حقیقی آئینہ
۱۶۲	واقعات بیعت ابن ابی الحدید کی زبانی		علامہ ابن ابی الحدید کے استاد کی
۱۶۴	سیدہ درودیوار کے درمیان	۱۳۱	خوبصورت گفتگو
۱۶۷	فُتُوْد کی قدر دانی	۱۳۱	ابن عباس کے سامنے درودِ دل کا اظہار
۱۶۷	امام حسن کی مغیرہ بن شعبہ سے گفتگو	۱۳۶	بارہ افراوی حضرت ابو بکر پر تنقید و احتجاج
۱۶۸	حضرت علی کے لئے سیدہ کی حمایت	۱۳۷	حضرت علی سے مشاورت
۱۷۱	بیعت سے انکار	۱۳۹	چوتھے دن کی کشمکش
۱۷۲	اقرارِ جرم	۱۴۰	مسلمان کی گفتگو اور بلز بازی
۱۷۵	داستانِ مظلومیت بزبانِ زہر آ	۱۴۱	امیر المؤمنین کا خطبہ طالوتیہ
۱۷۶	شبِ معراجِ مظلومیت سیدہ کی پیشگوئی	۱۴۴	دوستوں کا امتحان اور ان کی عدم توجہی
۱۷۶	زہر آ کو اذیت لینے والوں پر کیا غضب ہوگا؟		مہاجرین و انصار سے نصرت طلبی اور
۱۷۷	قیامت میں علی کا خزانہ	۱۴۵	معاویہ کی طعنہ زنی
۱۷۸	قولِ نظام	۱۴۶	مالک بن نویرہ کی تنقید
	پیغمبر اکرم نے خون ”بہار“ کو	۱۴۸	مالک بن نویرہ کا انجام
۱۷۸	مباح کیوں کیا تھا؟	۱۴۹	علی کی زبانی مالک کا مرثیہ
۱۸۰	مصائبِ زہر آ سے ائمہ کو کتنا دکھ پہنچا	۱۵۰	ابوقادہ کی ناراضگی اور شیخین کے نظریات
۱۸۰	امام محمد تقی کا دکھ	۱۵۱	قرآن کی جمع و ترتیب

۲۱۳	توحید رسالت کی گواہی	۱۸۱	امام باقر و امام صادق کا دکھ
۲۱۶	حفاظت قرآن کی طرف توجہ دلانا	۱۸۲	بشار مکاری کی داستان
۲۱۷	احکام اسلامی کا فلسفہ سیدہ کی زبانی	۱۸۳	مصائب کربلا سے موازنہ
۲۱۸	اپنا تعارف اور خدمات پیغمبرؐ	۱۸۶	مظلومیت علیؑ
۲۲۰	دفاع اسلام کے لئے علیؑ کا کردار	۱۸۷	تاریخ اسلام کا پہلا مظلوم
۲۲۱	لوگوں کی بے وفائی پر تنقید	۱۸۸	سوگ زہراؑ کے متعلق چند اشعار
۲۲۳	مطالبہ فدک	۱۹۰	واقعہ بیعت مسعودی کی زبانی
۲۲۶	انصار کے غیر جانبدارانہ رویے پر تنقید		حضرت علیؑ نے جنگ نہ کر کے
۲۲۷	تعمیل خطبہ	۱۹۱	پانچ انبیاءؑ کی پیروی کی
۲۳۱	اس موقع پر شیخ ازری کے اشعار	۱۹۳	دو معجزات
۲۳۳	سربراہ حکومت کا جواب	۱۹۶	قضیہ فدک
۲۳۴	حضرت سیدہ کا جواب	۱۹۶	مطالبہ فدک اور گواہی
۲۳۵	سربراہ حکومت کا جواب	۱۹۸	حضرت علیؑ کا استدلال
	حضرت سیدہ کا جواب اور لوگوں کی	۲۰۱	قتل علیؑ کا منصوبہ
۲۳۵	بے وفائی کا شکوہ	۲۰۳	ابن ابی الحدید کے استاد کا جواب
۲۳۶	رسول خداؐ سے خطاب	۲۰۶	حضرت علیؑ کا تحریری خط
۲۳۸	گھر والہی اور شوہر سے گفتگو	۲۰۹	حضرت ابو بکرؓ کی پریشانی
۲۳۹	حضرت امیرؓ کی طرف سے سیدہ کی دلجوئی	۲۱۰	حضرت عمرؓ کی طرف سے اظہار ملامت
۲۴۰	اہلبیت طاہرین کے خلاف جسارت	۲۱۱	کامیابی کے تین عناصر
۲۴۲	ام المؤمنینؑ در دفاع زہراؑ	۲۱۲	خطبہ زہراؑ پر ایک نظر
۲۴۳	حضرت سیدہ اور حاکم کی گفتگو	۲۱۲	حضرت سیدہ کا خطبہ
		۲۱۲	حاضرین کا گریہ

۲۷۷ --- مستورات کے ذریعے سے پیغامِ رسائی

۲۷۷ --- ام المؤمنینؓ سے گفتگو

۲۷۸ --- سیدہ کی امیر المؤمنینؓ کو وصیتیں

۲۸۱ --- عباسؓ کا مشورہ

۲۸۳ --- سیدہ کی شہادت اور تدفین

۲۸۳ --- لحظہ شہادت

۲۸۴ --- اسماء بنت عمیسؓ کی روایت

۲۸۵ --- یتیم بچے ماں کے جنازے پر

۲۸۶ --- حضرت علیؓ کو اطلاع

۲۸۷ --- علیؓ جنازہ سیدہ پر

۲۸۷ --- سیدہ کا تحریری وصیت نامہ

۲۸۸ --- مسلمانوں پر سیدہ کی موت کا اثر

۲۸۹ --- غسل و کفن اور نماز جنازہ

۲۹۰ --- بچے ماں کا آخری دیدار کرتے ہیں

۲۹۱ --- سیدہ کا کفن

۲۹۲ --- نماز جنازہ اور تدفین

۲۹۲ --- ذن زہرا کے بعد علیؓ کا رسول خدا پر سلام

۲۹۳ --- قبر سیدہ پر حضرت علیؓ کی ایک اور گفتگو

۲۹۵ --- ناکام جستجو

۲۹۷ --- شیخین کے سامنے حضرت علیؓ کی وضاحت

۳۰۰ --- قاضی ابوبکر کے اشعار

۳۰۱ --- سیدہ کے اوقاف و صدقات

۳۰۲ --- پیغمبر اکرمؐ کے بعد سیدہ کتنے دن زندہ رہیں

”لا وارثی“ حدیث کے متعلق جاہظ کی

۲۳۳ --- فیصلہ کن گفتگو

۲۳۶ --- ایک اہم سوال

۲۳۷ --- جواب بزبان جاہظ

۲۳۷ --- لو! آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا

۲۳۸ --- تاریخ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہی

۲۳۹ --- علیؓ اور ام ایمنؓ کی گواہی

۲۵۱ --- سند فدک کے ٹکڑے ہونا

۲۵۲ --- رسول خداؐ کا طرز عمل

۲۵۵ --- سید جزوی کے اشعار

حصہ چہارم

۲۵۸ --- فرقتِ نبیؐ پر بی بیؓ کا غم و اندوہ

۲۵۹ --- بابا کی قبر پر گریہ و بکا

۲۶۱ --- گریہ زہراؓ اور اہل مدینہ کی جفا

۲۶۲ --- بی بیؓ کے جگر سوز اشعار

۲۶۵ --- سیدہ اور اذانِ بلاؓ

۲۶۵ --- سیدہ شہدائے احد کی قبور پر

۲۶۶ --- جناب سیدہ کی دعا اور ان کی وصیت


آخری ایام

۲۶۹ --- حضرت زہراؓ کی عمر اور ان کی گفتگو

۲۶۹ --- حضرت سیدہ کی شیخین سے گفتگو

۲۷۳ --- تابوت بنانے کا حکم

۲۷۴ --- مستوراتِ مدینہ کی عیانت اور سیدہ کا خطبہ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

مادراں را اسوۂ کامل بتوں
مزرع تسنیم را حاصل بتوں

علامہ اقبالؒ

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ”فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي“ فاطمہؑ میرا ٹکڑا ہے۔

حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اسلامی شخصیات میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ آپ جان رسالت، محور تطہیر اور شریک مہابلہ ہیں۔ آپ کی عظمت و عصمت کی گواہی قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے۔

حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات والاصفات پر علمائے اسلام نے ہر دور میں کتابیں تالیف کی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ ان خوش نصیب مؤلفین میں محدث اکبر شیخ عباس قمیؒ بھی شامل ہیں آپ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور بالخصوص ان کے مصائب پر ایک کتاب تالیف کی جس کا نام انہوں نے ”بیت الاحزان“ رکھا۔

یہ کتاب حضرت سیدہ کی زندگی کے تمام گوشوں کا احوال تو ہرگز نہیں کرتی مگر اس کے ہر وجود نہایت عمدہ و اعلیٰ کتاب ہے۔ ہم اس عظیم المرتبت کتاب کا ترجمہ اسی نام سے اپنے قارئین کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ کتاب قارئین کو متاثر کرے گی۔

اس کتاب کے ترجمے کے لئے ہم محترم جناب محمد حسن جعفری صاحب دامت توفیقہ سے بے حد ممنون ہیں اور خداوند تعالیٰ سے اس خدمت کی قبولیت کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا اور ان کے والد محترم سید الانبیاء اور ان کے شوہر نامدار سید اوصیاء اور ان کے مرج البحرین یلتقیان کے دونوں موتیوں کی نگاہ شفقت کے حسب کار اور فرزند زہرا حضرت بقیہ اللہ علیہا اللہ فرجہ الشریف کی نظر عنایت کے خواستگار ہیں۔

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔

مقدمہ

آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی مدظلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علمائے اسلام میں ہمیں ایسی بہت سی شخصیات دکھائی دیتی ہیں جنہوں نے اپنے پر برکت آثار سے ایک جہان کو متاثر کیا ہے اور لوگ ان کے آثار باقیہ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ معنوی برکات ان بزرگوار افراد کے اخلاص کی دلیل ہیں۔

ایسے ہی بزرگ افراد میں عالم بزرگوار شیخ عباس قمی قدس سرہ کا نام لی جا سکتا ہے کہ ہم سب ان کے آثار باقیہ سے واقف ہیں۔

آپ جہاں علم حدیث کی باریکیوں سے مکمل آگاہ تھے وہاں آپ مملکت نعم کے بھی سربراہ تھے۔ ان کے دل میں اخلاص اور اہل بیت کا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کو قبولیت عامہ کی سند عطا فرمائی۔ آج تمام عام و خاص ان کی کتابوں سے یکساں طور پر مستفید ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کے لئے دعا گورہتے ہیں۔

آپ کی جملہ تالیفات و لایٹ اہل بیت اور احیائے نام و تاریخ و سیرت و سنت آل محمد سے لبریز ہیں اور آپ کی تمام تالیفات سے عشق آل محمد جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی عظیم المرتبت کتابوں میں ایک کتاب ”بیت الاحزان“ ہے۔ اس کتاب میں آپ نے حضرت

سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے وہ دکھ درد اور مصائب بیان کئے ہیں جو انہیں اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد جھیلنے پڑے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے حضرت سیدہ کے فضائل و کرامات بھی اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں۔

اس کتاب کا فارسی ترجمہ دانشمند محترم جناب مستطاب حجۃ الاسلام آقای اشتہاردی (دامت نائیداتہ) نے کیا ہے محترم مترجم ایک تجربہ کار اہل قلم ہیں انہوں نے اس سے قبل بھی بہت سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں اور تفسیر نمونہ میں بھی وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ شریک رہے ہیں۔ چنانچہ موصوف نے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے تاکہ فارسی داں صفتے جو کہ عربی سے نابلد ہیں وہ بھی اس کتاب سے یکساں فائدہ حاصل کر سکیں۔

اگرچہ پوری کتاب کا ترجمہ تو نہیں پڑھ سکا مگر مؤلف کتاب کی عظمت سے واقف ہوں اور مترجم کتاب کی وجہ سے میں مطمئن ہوں اور امید کرتا ہوں کہ محبان آل محمد اسام کی سر باعظمت خاتون کے مقام و عظمتوں سے آشنائی پیدا کریں گے اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔

ناصر مکارم شیرازی

قم۔ حوزہ علمیہ

محدث قلمی ایک نظر میں

یہ کتاب مرحوم محقق مخلص و محدث اکبر شیخ عباس قلمی صاحب مفاتیح الجنان کی کتاب بیت الاحزان فی ذکر احوالات سیدۃ النساء العالمین فاطمة الزهراء سلام اللہ علیہا کا ترجمہ ہے۔

یہ کتاب ۱۳۶۳ھ میں قطع وزیری میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے مؤلف ایک تبحر عالم ربانی تھے۔ ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں اور ایسا کون سا گھر ہے جس میں ان کی کتاب مفاتیح الجنان موجود نہ ہو؟

آپ نے اپنی تمام زندگی علوم اسلامی کی تحقیق و تالیف میں صرف کی اور آپ نے اپنے قلم کو بانیان اسلام اور رہنمایان ملت کے تعارف کے لئے وقف کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کو محدث اکبر اور خاتم المحدثین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

آپ نے ۱۲۹۴ھ میں آنکھیں کھولیں یعنی آپ آج سے ٹھیک ایک سو سولہ سال قبل (اور اردو ترجمہ کے لحاظ سے ایک سو اٹھائیس سال قبل) شہر قم میں پیدا ہوئے اور آپ نے پینسٹھ برس کی عمر میں ۱۳۵۹ھ کو ۲۳ ذی الحجہ کی نصف شب کے بعد نجف اشرف میں وفات پائی۔ آپ کی قبر مبارک امیر المؤمنین کے مرقد مطہر کے ایوان سوم کے مشرقی طرف واقع ہے۔ آپ کی قبر کے ساتھ ہی آپ کے استاد آیت اللہ محدث نوری کی قبر ہے۔

آپ نے تمام ابتدائی مقدماتی علوم قم ہی میں حاصل کئے پھر ۱۳۱۶ھ میں مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے نجف اشرف چلے گئے۔ جہاں اپنے وقت کے بزرگ اور جید علمائے دین سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کی شخصیت کی تعمیر میں آیت اللہ محدث مرزا حسین نوری اعلیٰ اللہ مقامہ نے اہم ترین کردار ادا کیا۔

شیخ عباس قمی اپنا زیادہ وقت محدث نوری کے ہاں بسر کرتے تھے۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی کتابوں کی تحقیق کرتے تھے اور ان کی کتابوں کو نقل کیا کرتے تھے۔

جوانی میں ہی نبوغ و روایت اور مطالعہ کا عشق آپ کے چہرہ سے ظاہر ہوتا تھا۔ آپ اپنی جوانی کے ایام میں ہی پرہیزگاری میں مشہور و معروف تھے۔ قسام ازل نے آپ کی فطرت میں تحقیق اور محبت آل محمدؐ کا جوہر ودیعت کر دیا تھا۔ آپ کو نشر احکام اور اسلامی حقائق کے بیان کرنے اور انہیں لکھنے کا بے حد شوق تھا اسی لئے آپ مختلف شہروں میں جاتے اور وہاں درس دیتے اور کتابیں لکھا کرتے تھے۔ آیت اللہ شیخ بزرگ تہرانی (صاحب کتاب الذریعہ) اور شیخ عباس قمی دونوں بزرگوار نجف اشرف میں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ چنانچہ شیخ بزرگ تہرانی ان کے متعلق یوں رقم طراز ہیں:

میں شیخ قمی سے تین برس قبل نجف اشرف گیا تھا اور ان سے دو برس قبل محدث نوری کے درس سے وابستہ ہوا تھا۔ پھر شیخ عباس قمی بھی نجف اشرف آگئے اور میں ان سے اتنا متاثر ہوا کہ تمام علماء کی بہ نسبت مجھے ان سے زیادہ انس ہو گیا۔ ہم ایک عرصہ تک ایک ہی کمرے میں رہائش پذیر رہے اور میں نے اس تمام عرصہ میں انہیں ایک کامل انسان، دانش مند اور فاضل شخص پایا۔ بلاشبہ آپ صحیح معنوں میں پرہیزگار، متواضع، خوش اخلاق، پارسا اور سلیم النفس تھے۔ ۱۳۲۲ھ میں آپ نے ایران مراجعت فرمائی اور وہاں اسلامی کتب کی تالیف و تصنیف میں مصروف ہو گئے۔ ۱۳۳۱ھ میں آپ نے مشہد مقدس میں رہائش اختیار کر لی اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہمسائیگی میں بیٹھ کر اپنی تالیفات کو جاری رکھا۔

آپ کو تالیف و تصنیف سے اس قدر شوق تھا کہ دنیا کی کوئی بھی مصروفیت انہیں اس کام سے باز نہ رکھ سکتی تھی۔ جب آپ تیسرا حج کر کے تم آئے تو قم کے علماء نے ان سے درخواست کی کہ وہ حوزہ علمیہ قم کے لئے ہی اپنی خدمات مخصوص کر دیں اور حوزہ علمیہ کی سربلندی کے لئے کام کریں تو آپ نے علمائے قم کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے اصرار پر قم میں ہی رہائش اختیار کر لی۔

آپ قم میں آیت اللہ عبدالکریم حائری کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے قریبی ساتھی تھے۔ آپ کو آیت اللہ حائری کے مخلص اور باوفا دوستوں میں شمار کیا جاتا تھا۔^۱

۲۔ تالیفات محدث قمی

خداوند عالم نے محدث قمی کو تالیف و تصنیف اور ترجمہ کا خصوصی ملکہ عطا فرمایا تھا اور آپ کے متعلق یہ کہتا بالکل درست ہے کہ آپ نے اپنے قلم رسا کے ذریعہ سے ایک میراث فرہنگی کی بنیاد قائم کی۔ آپ کی تالیفات کی تعداد تریسٹھ تک بیان کی جاتی ہے اور واضح رہے کہ ان میں سے کچھ کتابیں کئی جلدوں پر مشتمل ہیں۔ ہم یہاں چند کتابوں کا ذکر کرتے ہیں:

- | | |
|--|------------------------------------|
| ۱۔ الانوار السبئیہ | ۲۔ مفتاح الجنان |
| ۳۔ شنبی الآمال (جلد ۲) | ۴۔ تہمتہ التہنئی |
| ۵۔ سفینۃ البحار (جلد ۲) | ۶۔ الکنز والالقباب (جلد ۳) |
| ۷۔ کل البصر | ۸۔ تحفۃ الاحباب |
| ۹۔ فوائد الرضویہ | ۱۰۔ ذخیرۃ العقبی |
| ۱۱۔ ذخیرۃ الابرار | ۱۲۔ سبیل الرشاد |
| ۱۳۔ نفس المہموم | ۱۴۔ ترجمہ مصباح المستعجد لشیخ طوسی |
| ۱۵۔ بیت الاحزان۔ یہ کتاب مؤلف کی وفات کے بعد طبع ہوئی۔ | |

۱۔ طبقات اعلام الشیعہ جلد سوم صفحہ ۹۹۸۔ الکنز والالقباب جلد سوم صفحہ ۲۹۷ تا ۳۱۳

آپ کی باقی کتابوں کے نام ان کی کتاب الکتی والالقب جلد سوم میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔ کتاب ہذا ایک محکم اسلوب کی حامل ہے اور اس میں مؤلف نے حضرت سیدۃ النساء العالمین سدم اللہ علیہا کے فضائل و مصائب بیان کئے ہیں۔ ہم نے اس کتاب کا عربی سے فارسی زبان میں ترجمہ کیا ہے تاکہ ہمارے قارئین جو کہ عربی زبان واقفیت نہیں رکھتے وہ بھی حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے یک گونہ آشنائی حاصل کرسکیں۔ خاص طور پر خواتین اسلام سے گزارش ہے کہ وہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا خصوصی مطالعہ فرمائیں اور ان کی سیرت کو اپنے لئے مشعل راہ بنائیں تاکہ اس ذریعہ سے دونوں جہانوں کی سعادت حاصل کرسکیں۔ یہاں یہ عرض کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم نے کتاب کا حرف بحرف ترجمہ نہیں کیا۔ اس ترجمہ کو آزاد ترجمہ سمجھنا چاہئے۔ بعض مقامات پر ہم نے افہام و تفہیم کی خاطر اپنی طرف سے بھی تصحیف کیا ہے۔ البتہ ہم نے اپنے تصرف کو اوین میں لکھ دیا ہے۔

میں آخر میں استاذ معظم حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری درخواست پر مقدمہ تحریر فرمایا ہے اور ویسے بھی میرے ہاتھ میں آپ نے ہی قلم دیا ہے۔

والسلام

محمد محمدی اشتہاروی

حوزہ علمیہ قم

عرض مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہر قسم کی حمد و ستائش خداوند عالم کے لئے مخصوص ہے اور درود و سلام ہو پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے خاندان پر جو کہ تمام انسانوں کے رہبر ہیں۔

یہ کتاب حضرت سیدۃ النساء العالمین اور ام المانین المعصومین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مختصر سوانح حیات ہے۔ اس کتاب کے چار حصے ہیں اور ہر حصے میں کئی عنوان ہیں۔
پہلا حصہ: حضرت سیدۃ کی ولادت باسعادت، آپ کے اسمائے مبارکہ اور ان کی وجہ تسمیہ پر مشتمل ہے۔

دوسرا حصہ: حضرت سیدۃ کے فضائل اور اخلاقی کمالات اور شادی کی تفصیل پر مشتمل ہے۔

تیسرا حصہ: رسول خدا کی رحلت کے بعد آپ کو جن مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا اور آپ کے عظیم خطبات اور اس سے متعلقہ مطالب پر مشتمل ہے۔

چوتھا حصہ: رسول خدا پر آپ کا گریہ و بکاء اور آپ کی زندگی کے آخری لمحات اور آپ کی اپنے شوہر حضرت علی کو وصیت جیسے امور پر مشتمل ہے۔

عباس بن محمد رضا (عفی عنہما)

حضرت زہراءؑ کی ولادت باسعادت

حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اعلان نبوت کے پانچویں برس جبکہ رسول خداؐ کی عمر مبارک پینتالیس برس تھی، پیدا ہوئیں۔ آپ نے سرزمین مکہ میں آنکھیں کھولیں۔

امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام سے مروی ہے کہ جب رسول خداؐ اپنے ایک سفر معراج کے دوران آسمانوں پر تشریف لے گئے تو انہوں نے جنت میں تازہ خرے اور بہشتی سبب تناول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے غذائے جنت کو صلب پیغمبرؐ میں نطفہ کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ اور جب آنحضرتؐ معراج سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت خدیجہؓ سے مقاربت کی اور اسی طرح سے فاطمہؑ کا نور رحم خدیجہؓ میں منتقل ہو گیا۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہؑ ”حوراء انبیہ“ ہیں یعنی شکل انسانی میں ہوتے ہوئے اور زمین پر رہتے ہوئے بھی جنت کی حور ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلامؐ کو خوشبوئے جنت کا اشتیاق ہوتا تھا تو آپؐ حضرت سیدہ کے جسم اطہر پر خوشبوئے جنت سونگھا کرتے تھے اور ان کے وجود سے آپؐ کو درخت طوبیٰ کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے آپؐ اپنی شہزادی کو زیادہ چوما کرتے تھے۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ بعض ازواج پیغمبرؐ کو آپؐ کا یہ فعل ناگوار گزارا۔

اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت کو ہجرت سے چھ ماہ قبل معراج ہوئی تھی اور ایک قول کے مطابق آپ کو اعلان نبوت کے دوسرے سال معراج ہوئی تھی تو اس صورت میں معراج سے واپسی کے بعد مقاربت کی روایت کیسے درست ہو سکتی ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو معراج صرف ایک مرتبہ ہی نصیب نہیں ہوئی تھی اگر بالفرض آپ کو ایک بار معراج نصیب ہوئی ہوتی تو پھر یہ اعتراض درست قرار پاتا۔ امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے کہ رسول خداؐ کو ایک سو تیس مرتبہ معراج ہوئی اور ہر سفر معراج میں خداوند عالم نے انہیں تمام فرائض و احکام اور علی اور ان کے بعد کے ائمہ کی ولایت و امامت کی تلقین فرمائی۔

علامہ مجلسی نے حضرت سیدہ کی ولادت کی داستان بحار الانوار میں یوں تحریر فرمائی۔ ایک دن حضرت پیغمبر سرزمین ابلح میں (مکہ و منی کے درمیان) تشریف فرما تھے اور حضرت علی، عباس، حمزہ، عمار، یاسر، منذر بن ضحفاح اور حضرات ابوبکر و عمر بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے کہ اسی اثناء میں جبرئیل امین اپنی اصلی صورت میں نازل ہوئے اس وقت ان کے پر شرق و مغرب پر محیط تھے اور انہوں نے آواز دے کر کہا:

”محمد! خداوند عالم آپ پر سلام بھیجتا ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ آپ چالیس دنوں کے لئے خدیجہ سے الگ ہو جائیں۔“

خداوند تعالیٰ کا یہ حکم پیغمبر اسلام کے لئے انتہائی گراں تھا کیونکہ آپ حضرت خدیجہ سے بے حد محبت کرتے تھے (لیکن حکم خدا ہر چیز پر مقدم اور واجب الطاعت ہے) اس حکم کے بعد آپ چالیس دنوں کے لئے حضرت خدیجہ سے الگ ہو گئے۔ آپ ان ایام میں دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی آنحضرت کو یہ حکم دیا تو آپ نے عمار یاسر کو حضرت خدیجہ کے پاس روانہ کیا اور ان سے فرمایا کہ تم خدیجہ تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ۔

”خدیجہ! تم یہ ہرگز گمان نہ کرنا کہ میں تم سے بے اعتنائی اور بے مروتی کرتے

ہوئے جدا ہو رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اس ذریعے سے اپنا فیصلہ صادر کرے اور اس جدائی میں بھی خیر و سعادت کے علاوہ اور کسی چیز کا گمان نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ کئی بار فرشتوں کی بزم میں تمہاری وجہ سے فخر و مہابت کرتا ہے۔ لہذا تم شام ہوتے ہی دروازے بند کر لیا کرو اور اپنے بستر میں آرام کرو۔ تمہیں معلوم رہے کہ میں جدائی کے ایام فاطمہ بنت اسد کے گھر میں بسر کروں گا۔“

حضرت خدیجہؓ نے جدائی کے یہ دن بڑے کرب و اذیت سے بسر کئے۔ جب چالیس دن پورے ہو گئے تو جبریل امین آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔

”خداوند عالم آپ پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ خدائی بدیہ کے لئے آمادہ ہو جائیں۔“

پیغمبر اسلام نے جبریلؑ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہ تحفہ و ہدیہ کیا ہے؟

جبریلؑ امین نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ اسی اثناء میں حضرت میکائیلؑ آسمان سے نازل ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں ایک تھال تھا جو کہ جنت کے سندس یا استمبرق سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ تھال آنحضرتؐ کے سامنے رکھ دیا۔

جبریلؑ امین نے قریب ہو کر عرض کیا: ”اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آج آپ اس غذا سے روزہ افطار کریں۔“

حضرت علیؑ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں آنحضرتؐ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا تو آپ مجھے حکم دیتے کہ میں گھر کا دروازہ کھول دوں تاکہ جو کوئی بھی گھر میں آنے کا خواہش مند ہو وہ آسکے (اور آپ کے ساتھ کھانا کھا سکے) لیکن اس رات آپ نے مجھے دروازے کے کنارے پر کھڑا کر کے فرمایا:

”فرزند ابوطالب! یہ طعام میرے علاوہ باقی لوگوں کے لئے حرام ہے۔“

میں گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور رسول خداؐ اکیلے ہی گھر میں تشریف فرما

ہوئے۔ آپ نے اس تھال سے سرپوش ہٹایا تو اس میں ایک خوشہ خرما اور ایک خوشہ انگور کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے اسے تناول کیا یہاں تک کہ آپ سیر ہو گئے اور آپ نے پانی پیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لئے اپنے ہاتھ دراز کئے۔ جبرئیل امین نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، میکائیل نے ہاتھ دھلائے اور اسرافیل نے رومال سے آپ کے ہاتھ خشک کئے۔ باقی ماندہ غذا برتن سمیت آسمان کی طرف چلی گئی۔

پھر آپ نماز کے لئے اٹھے۔

جبرائیل آپ کے پاس آئے اور عرض کیا:

”اس وقت آپ کے لئے نماز پڑھنا حرام ہے آپ فی الفور خدیجہ کے پاس جائیں اور ان سے تقاربت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے عہد کیا ہے کہ اس شب میں آپ کے صلب سے پاک اولاد کا بندوبست کرے گا۔ چنانچہ چالیس دن کی جدائی کے بعد آنحضرت خدیجہ کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔“

حضرت خدیجہ کی زبانی اس شب کی روداد

حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بیان ہے کہ میں اس مدت میں تنہائی سے مایوس ہو گئی تھی، روزانہ اپنے سر کو ڈھانپ لیتی، اپنے کمرے کے پردے پھیلا دیتی تھی، دروازہ بند کر کے نماز پڑھ کر چراغ بجھا دیا کرتی تھی اور پھر اپنے بستر پر سو جاتی تھی۔ اس رات میں نہ تو پوری نیند میں تھی اور نہ ہی پوری طرح بیدار تھی کہ اچانک پیغمبر اکرم آئے اور آپ نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا: ”دستک دینے والا کون ہے؟ اس دروازے کو محمدؐ کے عدوہ کوئی نہیں

کھٹکتا۔“

رسول خداؐ نے شیریں لہجہ میں فرمایا: ”خدیجہ دروازہ کھولو۔ میں محمدؐ ہوں۔“

میں یہ آواز سن کر خوشی خوشی ابھی اور دروازہ کھول دیا۔ آنحضرتؐ کا گھر میں معمول تھا

کہ آپ جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو پانی طلب کر کے وضو کیا کرتے تھے اور دو مختصر رکعات پڑھتے تھے اور پھر بستر پر آرام کیا کرتے تھے۔ لیکن اس رات نہ تو آپ نے پانی طلب کیا اور نہ ہی نماز ادا کی بلکہ آپ نے میرا بازو پکڑا اور اپنے بستر پر لے گئے۔ جب آپ مقاربت سے فارغ ہوئے اور ابھی آپ مجھ سے دور بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں نے نور فاطمہ کو اپنے رحم میں موجود پایا اور حمل کا وزن میں نے محسوس کیا۔

قول مؤلف

آنحضرتؐ کی چالیس دن کی علیحدگی اللہ کے ہدیہ و تحفہ کی آمادگی کے لئے تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہؑ کی شکل میں اپنا ہدیہ عطا فرمایا۔ اسی لئے حضرت زہراؑ کی زیارت میں یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔

وَصَلِّ عَلَى الْبُتُولِ الطَّاهِرَةِ..... فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِكَ وَبِضْعَةِ لَحْمِهِ وَصَمِيمِ قَلْبِهِ وَفَلْدَةِ كَبِدِهِ وَالتُّحْبَةِ مِنْكَ لَهُ وَالتُّحْفَةِ خَصَّصْتَ بِهَا وَصِيَّهُ.
 خدایا! بتول پاک پر درود بھیج..... فاطمہ زہراؑ پر جو کہ تیرے رسول کی بیٹی اور ان کی پارہ تن اور ان کا سکون قلب ہیں اور تیری طرف سے جو تحقب ہیں اور جو تیرا وہ تحفہ ہیں جس کے لئے تو نے رسول خدا کے وحی کو مخصوص کیا۔

حضرت زہراؑ کے استقرار نور کے لئے خدا کی طرف سے یہ خصوصی اہتمام حضرت زہراؑ کے مقام عظمت کی بہترین دلیل ہے جسے الفاظ سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور شاید خرما اور انگور بھشتی میں یہ راز مضمر ہو کہ دونوں میوے انتہائی بابرکت اور زیادہ فائدہ مند ہیں اور دوسری حکمت یہ ہے کہ مذکورہ دونوں میوے تخلیق آدم کی بچی ہوئی مسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ اس سے قدرت کی طرف سے نسل زہراؑ کی کثرت کا اظہار کرنا مقصود ہو۔ ہم مناسب موقع پر اس کی طرف اشارہ کریں گے۔

روایت بالا میں مذکور ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے خدمت پیغمبرؐ میں عرض کی تھی کہ اس وقت آپ پر نماز پڑھنا حرام ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے نافذ اور مستحی نماز مراد ہے اور واجب نماز مراد نہیں ہے کیونکہ پیغمبر اکرمؐ افطار سے قبل واجب نماز کو ادا کرتے تھے۔
واللہ اعلم بالصواب۔

ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا

شیخ صدوقؒ نے کتاب امالی میں اپنی سند سے مفضل بن عمر سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام جعفر صادقؑ سے پوچھا:

”فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کیسے ہوئی تھی؟“

آپ نے جواب میں فرمایا: ”جب حضرت خدیجہؓ نے حضورؐ سے عقد کیا تو زنان مکہ نے (ازرائے حد و عناد) ان سے دوری اختیار کر لی تھی۔ وہ حضرت خدیجہؓ کے گھر نہیں جاتی تھیں، انہیں سلام نہیں کرتی تھیں اور کسی دوسری عورت کو بھی حضرت خدیجہؓ سے ملاقات نہ کرنے دیتی تھیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہؓ ان کے اس رویہ کی وجہ سے پریشان رہتی تھیں اور انہیں ہر وقت رسول خدا کے متعلق فکر ستائے رہتی تھی کہ لوگ انہیں کہیں گزند نہ پہنچائیں۔ جب حضرت فاطمہؑ نے رحم مادر میں قرار پکڑا تو آپ رحم میں رہ کر اپنی والدہ سے باتیں کرتی تھیں اور انہیں تسلی دیا کرتی تھیں۔ خدیجہؓ اس بات کو پیغمبر سے مخفی رکھتی تھیں کہ ایک دن رسول خداؐ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سنا کہ خدیجہؓ فاطمہ سے محو گفتگو تھیں۔ رسول خداؐ نے فرمایا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ خدیجہؓ نے عرض کیا کہ جو بچہ میرے رحم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور وہ میرا مولیٰ ہے۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے اور وہ مجھے خبر دے رہا ہے کہ تمہارے رحم کا بچہ بیٹا نہیں بیٹی ہے اور وہ بابرکت نسل ہے۔ عنقریب خداوند عالم میری نسل کو اس سے جاری

کرے گا، اس کی نسل سے امام پیدا ہوں گے اور وحی کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں خفاء اور میرے جانشین قرار دے گا۔

حضرت خدیجہؓ اس طرح سے ایام حمل بسر کرتی رہیں یہاں تک کہ حضرت فاطمہؓ کی ولادت باسعادت کا وقت نزدیک آ گیا۔ حضرت خدیجہؓ نے زنان قریش و زنان بنی ہاشم کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ آئیں اور وضع حمل کے لئے میری مدد کریں جیسا کہ عورتیں ان لحاظ میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔

اس کے جواب میں قریش اور بنی ہاشم کی عورتوں نے پیغام بھیجا کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی تھی اور ہماری بات کو ٹھکرا کر ابوطالب کے یتیم بھتیجے محمدؐ سے شادی کر لی تھی جو کہ غریب شخص تھا۔ (ہمیں اس بات کا دکھ ہے) اسی لئے ہم تمہارے پاس آنے کے لئے اور تمہاری مدد کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔

زنان قریش کا یہ جواب سن کر خدیجہؓ بہت غمگین ہوئیں کہ اسی اثناء میں اچانک خدیجہؓ نے دیکھا چار خواتین ان کے گھر میں داخل ہوئی جن کی رنگت گندمی تھی اور بنی ہاشم کی عورتوں جیسی دکھائی دیتی تھیں۔

ان عورتوں کو دیکھ کر خدیجہؓ گھبرائیں تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا: ”خدیجہؓ پریشان نہ ہو۔ ہم خدا کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہیں اور ہم تمہاری بہنیں ہیں۔ میں سارہ (زوجہ ابراہیم خلیلؑ) ہوں اور یہ آسیہ بنت مزاحم ہیں جو کہ جنت میں تمہاری ہم نشین ہوگی اور ایک مریمؑ بنت عمران ہیں اور ایک حضرت موسیٰؑ کی بہن کلثومؑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ وضع حمل کے لئے ہم تمہاری مدد کریں۔“

پھر ان میں سے ایک خاتون خدیجہؓ کے دائیں طرف بیٹھ گئیں، دوسری ان کے بائیں طرف، تیسری سامنے اور چوتھی پشت کی طرف سے بیٹھ گئیں۔ پھر حضرت فاطمہؓ پاک و پاکیزہ صورت میں دنیا میں آئیں۔ جیسے ہی ان کا قدم مبارک زمین پر آیا تو ان کے وجود سے

عظیم الشان نور ظاہر ہوا جس سے مکہ کے تمام گھر چمک اٹھے اور مشرق و مغرب میں کوئی جگہ ایسی نہ بچی جہاں ان کا نور نہ چمکا ہو۔ اس موقع پر جنت سے دس حوریں آئیں کہ ہر حور کے ہاتھ میں جنت کا ایک طشت اور آب کوثر سے بھرا ہوا آفتاب تھا۔

جو خاتون حضرت خدیجہؓ کے سامنے بیٹھی تھیں انہوں نے حضرت فاطمہؓ کو اٹھایا اور آب کوثر سے انہیں غسل دیا اور پھر دو سفید کپڑے نکالے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید اور مُشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھے۔ ایک کپڑا حضرت فاطمہؓ کے جسم پر لپیٹ دیا اور دوسرے کپڑے کو ان کا مقنعہ اور دوپٹہ بنایا۔ پھر فاطمہؓ کو بات کرنے کی دعوت دی۔ حضرت فاطمہؓ نے زبان کھولی اور خدا کی توحید اور رسالت کی گواہی دیتے ہوئے کہا: "اشھد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء وان بعلی سید الاوصیاء وولدی سادۃ الاسباط"۔

میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے والد رسول خداؐ تمام انبیاء کے سردار ہیں، میرے شوہر تمام اوصیاء کے سردار ہیں اور میری اولاد تمام اولاد انبیاء کی سردار ہے۔ پھر انہوں نے ان چاروں خواتین کو نام بنام سلام کیا اور ان خواتین نے بھی خوشی خوشی سلام کا جواب دیا۔ بی بی کی ولادت پر جو نور ظاہر ہوا، حور ان جنت اور اہل آسمان نے اس سے قبل ایسا نور کبھی نہیں دیکھا تھا۔

ان خواتین نے حضرت خدیجہؓ سے کہا: "اپنی پاک و پاکیزہ اور بابرکت نسل کی والدہ کو اب تم اپنی گود میں لو"۔

حضرت خدیجہؓ نے بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کو آغوش میں لیا اور ان کے منہ میں اپنا پستان دیا جس سے دودھ جاری ہو گیا۔

فاطمہؓ ایک دن میں ایک ماہ کے برابر پھلتی پھولتی تھیں اور ایک ماہ میں ایک سال کے برابر پھلتی پھولتی تھیں۔

شرح اسمائے فاطمہؑ

یونس بن ظبیان بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ خدا کے ہاں فاطمہؑ کے نوناں ہیں۔

۱۔ فاطمہ ۲۔ صدیقہ ۳۔ مبارکہ ۴۔ طاہرہ ۵۔ زکیتہ ۶۔ راضیہ ۷۔ مرضیہ ۸۔ محدثہ ۹۔ زہراء۔

پھر آپؑ نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ فاطمہ کے معنی کیا ہے؟

میں نے عرض کیا: میرے آقا آپؑ اسے خود ہی بیان فرمائیں۔

آپؑ نے فرمایا: فُطِمْتُ مِنَ الشَّرِّ وَهُوَ اس لئے فاطمہ ہیں کہ وہ بر شر سے جدا اور

علیحدہ رکھی گئی ہیں۔

پھر آپؑ نے فرمایا:

اگر علیؑ نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک پوری روئے زمین پر آدم کے زمانے سے

لے کر دنیا کے خاتمے تک فاطمہؑ کا کوئی کفو ہی نہ ہوتا۔

کچھ اور روایات میں لفظ ”فاطمہ“ کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے ”فطمت ہی وشبعثها

من النار“ وہ اور ان کے شیعہ دوزخ سے آزاد کئے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس لفظ کی وجہ

تسمیہ میں کچھ دیگر اقوال یہ ہیں:

○ اپنے علم و کمال کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز ہیں۔

○ عورتوں کی عادت (ماہواری) سے پاک ہیں۔

○ لوگ ان کی کامل معرفت سے عاجز ہیں۔

○ اللہ تعالیٰ نے ان کی موحد اور مومن اولاد کو دوزخ سے دور کیا ہے اور اسی

طرح سے ان کے شیعوں کو بھی آتش دوزخ سے آزاد کیا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ لفظ ”فاطر“ سے لفظ فاطمہ کا اشتقاق کیا گیا ہے۔ رسول خداؐ آپ کو لفظ ”طاہرہ“ کے نام سے بھی یاد کرتے تھے کیونکہ آپ ہر طرح کی اخلاقی ناپاکی اور ہر طرح کی جسمانی ناپاکی یعنی حیض و نفاس سے پاک تھیں۔

لفظ ”زہرا“ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ روزانہ امیرالمؤمنینؑ کے لئے آپ کا جمال مبارک تین بار چمکتا تھا۔

ابو ہاشم جعفری بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکریؑ سے پوچھا: حضرت فاطمہؑ کا لقب ”زہرا“ کیوں ہے؟

آپ نے فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت حضرت سیدہ کا چہرہ امیرالمؤمنینؑ کے لئے وقت چاشت کے آفتاب کی طرح، ظہر کے وقت روشن چاند کی طرح اور غروب آفتاب کے وقت آپ کا چہرہ چمکتے ہوئے ستارہ کی مانند چمکا کرتا تھا۔

شیخ صدوقؒ نے اپنی سند سے امام علی رضاؑ سے یہ فقرات نقل کئے۔

جب ماہ رمضان کا ہلال طلوع کرتا تو حضرت زہراؑ کا نور اس پر غالب آجاتا اور آپ کے نور کی تابانی کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ نگاہوں سے چھپ جاتا تھا جب حضرت فاطمہؑ اس کے سامنے سے ہٹ جاتیں تو چاند دکھائی دینے لگ جاتا تھا۔

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: حضرت سیدہ کو زہراء کے نام سے پکارنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بہشت میں یاقوت سرخ کا ایک قبہ بنایا ہے۔ اس کی بلندی ایک سال کی مسافت کے برابر ہے اور خدا کی قدرت سے وہ قبہ فضا میں معلق ہے۔ وہ قبہ نہ تو زمین سے ارتباط رکھتا ہے اور نہ ہی آسمان سے ارتباط رکھتا ہے۔ اس قبہ میں ایک لاکھ دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک ہزار فرشتے بطور دربان متعین ہیں۔ اہل بہشت اس قبہ کو یوں دیکھتے ہیں جیسے تم میں کوئی شخص افق آسمان میں کسی چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتا ہے۔ اور اہل بہشت کہتے ہیں یہ چمکتی ہوئی بارگاہ فاطمہؑ کی ملکیت ہے۔

لفظ زہرا کی وجہ تسمیہ ایک اور روایت میں یوں بیان کی گئی ہے: جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کا ارادہ کیا تو اس نے ان کی طرف ایک تاریک بادل کو روانہ کیا اور اس کی وجہ سے اتنی تاریکی چھا گئی کہ فرشتے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ نہ اول کو آخر دکھائی دیتا اور نہ آخر کو اول دکھائی دیتا تھا، (غرضیکہ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا) فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں تاریکی دور کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخش اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے نورِ فاطمہ کو پیدا کیا جو کہ تقدیل کی صورت میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس تقدیل کو عرش کے اطراف میں آویزاں کیا۔ اس نور کی جگمگاہٹ سے سات آسمان اور ساتوں زمینیں روشن ہو گئیں۔ فرشتوں نے مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا۔

مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! تمہاری قیامت تک تسبیح و تقدیس کا ثواب میں زہرا اور اس کے والد اور شوہر اور اس کی اولاد کے چاہنے والوں کو عطا کروں گا۔

حضرت سیدہ کے ناموں میں سے ”ہِضَان، حُزْه، سیدہ، عَدْرَاء، حُورَاء، مریم، کبریٰ اور بتول بھی ہیں۔

روایت میں ہے کہ انہیں ”بتول“ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی عورتوں کی عادت (حیض و نفاس) ملاحظہ نہیں کی تھی۔ اور حضرت عیسیٰؑ کی والدہ حضرت مریم نے بھی کبھی عورتوں کی عادت نہیں دیکھی تھی۔ اس لئے انہیں بھی بتول کہا جاتا ہے۔

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ ”بتول“ ”بتل“ سے مشتق ہے اور لفظ ”بتل“ کے معنی انقطاع کے ہیں تو حضرت زہرا کو اس لئے بتول کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے منقطع کیا ہوا تھا اور اپنے خدا سے وابستگی اختیار کی ہوئی تھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بتول کا مفہوم یہ ہے حضرت سیدہ (تمام خواتین جہاں سے دین شرف اور حسب و نسب میں) منفرد و ممتاز تھیں۔

مرحوم ابن شہر آشوب کتاب مناقب میں رقم طراز ہیں۔

روایات صحیح میں مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ کے بیس نام ہیں اور ان میں سے ہر نام

ان کی کسی نہ کسی فضیلت و شرف پر دلالت کرتا ہے۔ ان تمام ناموں کو ابن بابویہ نے اپنی کتاب ”مولد فاطمہ“ میں نقل کیا ہے۔

حضرت سیدہ کی درج ذیل کنیات تھیں:

۱۔ ام الحسن ۲۔ ام الحسین ۳۔ ام الحسن ۴۔ ام الامتہ ۵۔ ام ایہا ۶۔ ام المؤمنین

مذکورہ بالا کنیات حضرت سیدہ کی زیارت میں منقول ہیں۔

کتاب مناقب میں مذکور ہے کہ آسمانوں میں حضرت سیدہ کو نور یہ، سادیہ اور حانیہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔

لفظ حانیہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر اور اپنی اولاد کے لیے انتہائی ہمدرد اور مہربان تھیں۔

شوہر سے ہمدردی کا نمونہ

حضرت سیدہ کی شوہر سے ہمدردی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے حق امامت و خلافت کا دفاع کیا اور اسی وجہ سے انہیں تکالیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ امامت علیؑ کے مخالفین نے اس لئے آپ کی اہانت کی اور آپ کے دروازے کو آگ لگائی جب جلتا ہوا کواڑ گرا تو آپ کی کچھ پسلیاں ٹوٹ گئیں نیز آپ کے بازو پر تازیانہ مارا گیا جس کا اثر وفات تک ایک دست بند کی شکل میں باقی رہا۔ غرضیکہ ان مصائب و آلام کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ تمام تر مصائب و آلام امامت علیؑ کے دفاع کی وجہ سے آپ کو سہنے پڑے اور جب آپ کی وفات کا وقت ہوا تو حضرت علیؑ نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علیؑ نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو سیدہ نے عرض کیا:

میں ان مصائب کا تصور کر کے رو رہی ہوں جو میرے بعد آپ پر وارد ہوں گے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: مت روؤ خدا کی قسم یہ مصائب راہ خدا میں ہیں اس لئے

میرے لئے وہ انتہائی معمولی اور بے وقعت ہیں۔

شیخ مفید کتاب ارشاد میں نقل فرماتے ہیں: ”رسول خداؐ نے ہجرت کے آٹھویں برس جنگ ذات السلاسل کے لئے حضرت علیؑ کو دشمن کی سرکوبی کے لئے صحرائے یابس کی طرف روانہ کیا۔

روایات میں ہے کہ حضرت علیؑ کا ایک مخصوص پیلے رنگ کا رومال تھا جسے آپ سخت جنگ کے وقت سر پر باندھا کرتے تھے۔ جب رسول کریمؐ نے انہیں ذات السلاسل کے لئے جانے کا حکم صادر فرمایا تو آپ اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے اور حضرت زہراؑ سے وہ رومال طلب کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ قتل ہو جائیں؟

حضرت علیؑ نے فرمایا کہ رسول خداؐ نے مجھے ریگزار یابس کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت زہراؑ اپنے شوہر کی محبت کی وجہ سے رونے لگیں۔ جب آپ رورہی تھیں تو اس وقت رسول خداؐ گھر میں تشریف لائے اور فرمایا: فاطمہ! آپ کیوں رورہی ہیں؟ اور کیا آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کے شوہر قتل ہو جائیں گے؟ خدا نے چاہا تو علیؑ قتل نہیں ہوں گے۔ حضرت علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ میں شہادت پا کر جنت میں چلا جاؤں؟

حضرت زہراؑ کی اولاد پر شفقت کا نمونہ

حضرت زہراؑ کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہے اس کا اندازہ کرنے کے لئے درج ذیل روایت کافی ہے۔

۱۔ جنگ ذات السلاسل ہجرت کے آٹھویں سال ہوئی تھی۔ اس میں کفار کی طرف سے بارہ ہزار سوار شریک تھے۔ اسلامی لشکر کی قیادت حضرت علیؑ نے کی تھی اور اس میں آپ نے کامیابی حاصل کی تھی۔ سورہ عادیات آپ اور آپ کے دوستوں کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ مجمع البیان جلد دوم، صفحہ ۵۲۸

شیخ صدوق نے حماد سے اس نے امام جعفر صادق سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اولاد زہراً میں سے بیک وقت دو عورتوں سے عقد کرے کیونکہ جب زہراً یہ سنتی ہیں تو انہیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔
 حماد (راوی) نے پوچھا: حضرت زہراً کو اس کی خبر مل جاتی ہے؟
 امام نے فرمایا: ہاں! خدا کی قسم۔

ابن عَنین شاعر کا واقعہ

ابن عنین ساتویں صدی کے شاعر تھے۔ ان کے متعلق عمدۃ الطالب میں ایک عجیب و غریب واقعہ مرقوم ہے۔

ابن عنین نے ایک سال مکہ کا سفر کیا اور اس سفر میں اس کے پاس بہت سا مال و اسباب بھی تھا راستہ میں سادات بنی داؤد نے اس کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور اس بنگامہ دار و گیر میں وہ زخمی بھی ہوا۔ لوٹنے والوں نے اس کے مال و اسباب پر ہی قناعت نہیں کی بلکہ اس کے جسم سے کپڑے تک اتروالئے۔ اور اسے زخمی حالت میں چھوڑ کر خود بھاگ نکلے۔

ابن عنین نے سلطان یمن عزیز بن ایوب کو خط تحریر کیا اور اس سے سادات بنی داؤد کی سرکوبی کی درخواست کی۔ اس وقت سلطان یمن نے اپنے بھائی ناصر کو ساحل سمندر کے ان علاقوں کے انتظام و انصرام کے لئے بھیجا ہوا تھا جسے اس نے تھوڑا ہی عرصہ قبل فرنگیوں سے آزاد کرایا تھا۔ ابن عنین نے سلطان یمن کو مزید ترغیب دینے کے لئے یہ شعر تحریر کئے:

اعیت صفات نداک المصقع اللسنا وجزت فی الجود حد الحسن والحسنا
 ولانتقل صاحب الافرنج الفتحہ فما تساوی اذا قا یستہ عدنا
 وان اردت جہادا فارق سیفک من قوم اضاعوا فروض اللہ والسننا
 طہر بسیفک بیت اللہ من دنس ومن خسامۃ اقوام بہ وحننا

ولا تقل انهم اولاد فاطمة لوادركوآل حرب حاربوا الحسن
 آپ کی نیک صفات اور آپ کی سخاوت نے فصیح و بلیغ افراد کو عاجز کر دیا اور سخاوت و بخشش
 میں آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں اچھائی اور نیکی کی تمام سرحدیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔
 آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے اس ساحل کو فتح کر لیا ہے جس پر انگریز استعمار نے قبضہ
 کر لیا تھا۔ کیونکہ ساحل عدن اور ساحل فرنگ کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔

اگر آپ جہاد کے خواہش مند ہیں تو آئیے اور اپنی تلوار سے ان لوگوں کو قتل کریں
 جنہوں نے خدا کے فرض اور پیغمبر کی سنتوں کو ضائع کر دیا۔

آپ اپنی تلوار سے اللہ کے گھر مکہ کو ناپاکی اور پست اقوام سے پاک کریں آپ یہ نہ
 کہیں کہ یہ اولاد فاطمہ ہیں اس لئے میں ان سے جنگ نہیں کرتا۔ بلکہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ
 اگر اولاد ابوسفیان کے دور میں ہوتے تو امام حسنؑ سے بھی جنگ کرتے۔

ابن عسین نے اپنے خط میں یہ نظم تحریر کی اور وہ خط سلطان یمن کو بھیج دیا۔ تب اس
 نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ کے پاس کھڑا ہے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
 مصروف طواف ہیں۔ وہ بی بی کو سلام کرنے کے لئے آگے بڑھا اور سیدہ کو سلام کیا۔ مگر حضرت
 سیدہ نے اسے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر وہ رونے لگا۔ اور بڑی عاجزی سے کہا: ”سیدہ!
 میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ میرے سلام کا جواب نہیں دیتیں؟

اس کے جواب میں حضرت سیدہ نے یہ اشعار پڑھے:

حاشا نبی فاطمہ کلہم	من خستہ تعرض او من خنا
وانما الايام في غدرها	وفعلها السوء اساءت بنا
وان اساء من ولدی واحد	جعلت کل السب عمداً لنا
فتب الی اللہ فمن یترف	ذنباً بنا یغفرله ما جنی
اکرم لعین المصطفیٰ جدہم	ولاتہن من آلہ اعینا

فكلمانا لك منهم، عنا تلقى به في الحشر مناها

حاشا وکلا کہ تمام اولاد فاطمہؑ پست اور خراب ہو۔ زمانہ کی گردش نے ہم سے برائی کی ہے اور ہم سے مکاری کی ہے۔ اگر میری اولاد میں سے ایک نے برائی بھی کی تو تجھے سب کو گایں دینے کا حق نہیں تھا۔ اپنے اس فعل سے سے توبہ کر کہ اگر کوئی ہم سے برا سلوک کر کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ان کے جد نادر محمد مصطفیٰؐ کی وجہ سے ان کا احترام کر اور ان کی آل میں سے کسی کو مت ستا اور کسی کی توہین نہ کر۔ آل رسولؐ کی وجہ سے تجھے جو بھی تکلیف پہنچے اس کا بدلہ قیامت کے دن ہم تجھے دیں گے۔

ابن عیینہ کا بیان ہے کہ میں روتا ہوا خواب سے بیدار ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ حضرت زہراؑ کی برکت سے میرے جسم کے تمام زخم مندمل ہو چکے تھے اور میرے بدن پر کہیں بھی زخموں کے نشان تک موجود نہ تھا۔ میں اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوا پھر معذرت کے لئے میں نے یہ اشعار کہے:

عذرا الی بنت نبی الہدی تصفح عن ذنب مسی ء جننا
وتوبہ قلبها من احی مقالة توقعه فی العنا
واللہ لو قطعنی واحد منهم بسیف البغی او بالقنا
الم ارما یفعله سینا بل اره فی الفعل قد احسنا

بیغیر ہدایت کی صاحبزادی کے حضور معذرت خواہ ہوں جو کہ گناہ سے درگزر کرتی ہیں اور میں اپنی اس گفتار سے توبہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچی ہے۔ خدا کی قسم! اب اگر اولاد فاطمہؑ میں سے اگر کوئی ظلم کی تلوار یا نیزہ سے مجھے کلڑے کلڑے بھی کر دے تو بھی میں اسے برا نہیں سمجھوں گا بلکہ اسے اچھا کام تصور کروں گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

مادراں را اسوۂ کامل بتوں
مزرع تسنیم را حاصل بتوں

علامہ اقبالؒ

حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ”فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي“ فاطمہؑ میرا ٹکڑا ہے۔

حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اسلامی شخصیات میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ آپ جان رسالت، محور تطہیر اور شریک مہابلہ ہیں۔ آپ کی عظمت و عصمت کی گواہی قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں متعدد مقامات پر دی گئی ہے۔

حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات والاصفات پر علمائے اسلام نے ہر دور میں کتابیں تالیف کی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ ان خوش نصیب مؤلفین میں محدث اکبر شیخ عباس قمیؒ بھی شامل ہیں آپ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور بالخصوص ان کے مصائب پر ایک کتاب تالیف کی جس کا نام انہوں نے ”بیت الاحزان“ رکھا۔

حضرت زہرا کے فضائل

حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کساء اور مباہلہ کے افراد میں سے ایک فرد ہیں نیز آپ کا تعلق ان افراد سے ہے جنہوں نے سخت ترین حالات میں ہجرت کی تھی۔ اور آپ ان پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی طہارت کی گواہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل فرمائی اور جبرئیل امین نے جن کے ساتھ چادر میں شامل ہونے کو اپنے لئے اعزاز تصور کیا۔

آپ کا تعلق صادقین کی اس جماعت سے ہے جن کے ساتھ تمسک کی قرآن نے تاکید کی ہے۔ آپ گیارہ ائمہ طاہرین کی والدہ ماجدہ ہیں اور آپ پیغمبر خدا کی وہ یادگار ہیں جس سے اللہ نے نسل رسول کو قیامت تک لئے جاری فرمایا۔ اور آپ اولین و آخرین کی سردار ہیں۔ آپ گفتار و رفتار میں پیغمبر خدا کی ہو بہو شبیہ تھیں۔ آپ کا کردار پیغمبر خدا کے کردار کا آئینہ تھا۔ آپ کی چال رسول خدا کی چال دکھائی دیتی تھی۔

رسول خدا آپ کو آتے ہوئے دیکھ کر گرجوشی سے آپ کا استقبال کرتے تھے، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے اور اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب رسول خدا اپنی دختر کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ بھی گرجوشی سے ان کا استقبال کرتی تھیں اور ان کے ہاتھوں

فكلمنا لک منهم، عنا تلقى به فى الحشر مناها

حاشا وکلا کہ تمام اولاد فاطمہؑ پست اور خراب ہو۔ زمانہ کی گردش نے ہم سے برائی کی ہے اور ہم سے مکاری کی ہے۔ اگر میری اولاد میں سے ایک نے برائی بھی کی تو تجھے سب کو گالیں دینے کا حق نہیں تھا۔ اپنے اس فعل سے سے توبہ کر کہ اگر کوئی ہم سے برا سلوک کر کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ان کے جد نادر محمد مصطفیٰؐ کی وجہ سے ان کا احترام کر اور ان کی آل میں سے کسی کو مت ستا اور کسی کی توہین نہ کر۔ آل رسولؐ کی وجہ سے تجھے جو بھی تکلیف پہنچے اس کا بدلہ قیامت کے دن ہم تجھے دیں گے۔

ابن عیینہ کا بیان ہے کہ میں روتا ہوا خواب سے بیدار ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ حضرت زہراؑ کی برکت سے میرے جسم کے تمام زخم مندمل ہو چکے تھے اور میرے بدن پر کہیں بھی زخموں کے نشان تک موجود نہ تھا۔ میں اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوا پھر معذرت کے لئے میں نے یہ اشعار کہے:

عذرا الیٰ بنت نبی الہدی تصفح عن ذنب مسی ء جنا
وتوبۃ تقلبها من اخی مقالة توقعه فى العنا
والله لو قطعنى واحد منهم بسيف البغی او بالقنا
الم ارما يفعلہ سینا بل ارہ فى الفعل قد احسنا

چینبر ہدایت کی صاحبزادی کے حضور معذرت خواہ ہوں جو کہ گناہ سے درگزر کرتی ہیں اور میں اپنی اس گفتار سے توبہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچی ہے۔ خدا کی قسم! اب اگر اولاد فاطمہؑ میں سے اگر کوئی ظلم کی تلوار یا نیزہ سے مجھے کلڑے کلڑے بھی کر دے تو بھی میں اسے برا نہیں سمجھوں گا بلکہ اسے اچھا کام تصور کروں گا۔

کے بوسہ لیتی تھیں۔ پیغمبر اکرمؐ ان سے بے حد پیار کرتے تھے۔ جب بھی آپؐ خوشبوئے جنت کے مشتاق ہوتے تو آپؐ سیدۃ کے وجود اطہر کی خوشبو کو سونگھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے:

”فاطمۃ بضعة منی من سرھا فقد سرنی ومن سانھا فقد ساننی“

فاطمہؑ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔

”فاطمۃ أعزُّ النَّاسِ إِلَیَّ“ (تمام لوگوں میں سے فاطمہؑ مجھے زیادہ عزیز ہے) اور کبھی آپؐ اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ سے کیا کرتے تھے ”یا حبیبۃ ابیہا“ (اے اپنے والد کی محبوب ترین شخصیت!)

طبری امامی نے امام محمد باقرؑ سے اور انہوں نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے نقل کیا کہ حضرت فاطمہؑ نے فرمایا کہ رسول خداؐ نے ایک دفعہ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا۔

”یا حبیبۃ ابیہا کل مسکو حرام وکل مسکو حمر“ اے اپنے والد کی محبوب ترین شخصیت! ہر مدہوش کرنے والی چیز حرام ہے اور ہر مدہوش کرنے والی چیز نشہ آور ہے۔

محبت برائے خدا

دوستان خدا اگر اپنے کسی عزیز یا اپنے کسی بیٹے یا بیٹی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت طبعی اور فطری جذبات کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ مقرران خدا کسی سے اگر محبت کرتے ہیں تو بھی اس میں محبت خداوندی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسی لئے حضرت یعقوبؑ اپنے تمام بیٹوں میں سے حضرت یوسفؑ سے زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی اولاد میں سے یوسف ہی خدا کے محبوب ہیں۔ جب کہ حضرت کے دوسرے بیٹے اس بات سے کڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے والد خواہ مخواہ یوسف کی محبت میں دیوانے بنے ہوئے ہیں جبکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں اور ہم اپنے والد کی قوت بازو ثابت ہو سکتے ہیں اسی لئے ہمارے والد کو چاہئے کہ ان

حقائق کو پیش نظر رکھیں اور یوسف کی بجائے ہم سے زیادہ محبت کریں۔

مرحوم کلینی نے محمد بن سنان سے نقل کیا ہے کہ میں امام محمد تقی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا میں نے آپ کے سامنے ان اختلافات کا تذکرہ کیا جو کہ شیعوں میں پیدا ہو چکے تھے۔ آپ نے میری بات سننے کے بعد فرمایا:

اے محمد! خداوند عالم ازل سے واحد لاشریک ہے۔ پھر اللہ نے محمدؐ، علیؑ اور فاطمہؑ کو پیدا کیا اور یہ تینوں پاکیزہ نور کئی ہزار سال تک رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو پیدا کیا اور انہیں اپنی مخلوقات کی تخلیق کا گواہ بنایا پھر ان کی اطاعت کو تمام مخلوقات میں جاری فرمایا اور ان کے امور کو ان کے حوالے فرمایا، پس وہ (محمدؐ، علیؑ و فاطمہؑ) جو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں لیکن وہ صرف وہی کچھ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ پھر امام محمد تقیؑ نے فرمایا:

اے محمد! یہ اصل دین ہے جو اس سے آگے بڑھتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور جو کوئی اس میں سستی کرتا ہے اور پیچھے رہتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور جو دین کے ساتھ چلتا ہے اور ہمیشہ اس سے وابستہ رہتا ہے وہ حق کو پالیتا ہے۔ اے محمد! اس بات کو یاد رکھو۔

مؤلف کہتا ہے کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان افراد میں شامل ہیں کہ امور خلق جن کے سپرد کئے گئے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں (مگر یہ واضح رہے کہ وہ صرف وہی کچھ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور ان کی چاہت خدا کی چاہت کے تابع ہے)۔

مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا

ائمہ ہدیٰ سے بہت سی ایسی روایات مروی ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ مصحف فاطمہؑ ائمہ معصومین کے پاس ہے۔

کتاب بصائر الدرجات میں مذکور ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ”حضرت فاطمہ

نے ایک مصحف بطور یادگار چھوڑا۔ وہ مصحف قرآن نہیں ہے لیکن وہ خدا کے اس کلام پر مشتمل ہے جو اللہ نے فاطمہؑ پر نازل کیا تھا۔ رسول خداؐ نے اسے اٹھا کر لیا اور حضرت علیؑ نے اسے دکھا۔ ابوبصیر کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تو کیا یہاں کوئی اور شخص موجود ہے جو میری بات سن رہا ہو؟ امام جعفر صادقؑ نے اپنے کمرے اور دوسرے کمرے میں پڑے ہوئے پردے کو اٹھا کر دیکھا اور پھر فرمایا: ”ابومحمد! تمہیں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو۔“

میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان جاؤں شیعہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے حضرت علیؑ کو ایک علم کے دروازہ کی تعلیم دی جس سے علم کے ہزار دروازے کھل گئے تھے۔ پھر میں نے کہا خدا کی قسم کیا یہ کامل اور حقیقی علم ہے؟

امام صادقؑ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر فرمایا: وہ علم ہے لیکن پھر بھی وہ کامل علم نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: ابومحمد! ہمارے پاس ”جامعہ“ ہے۔ لیکن لوگوں کو کیا پتہ کہ جامعہ کیا ہے؟۔ جواب میں آپ نے کہا: وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا طول ذراع پیغمبر کے مطابق ستر ہاتھ ہے جسے رسول خداؐ نے اٹھا کر لیا اور حضرت علیؑ نے جسے تحریر کیا۔ اس میں تمام حلال و حرام اور لوگوں کی جملہ دینی ضروریات حتیٰ کہ خراش ڈالنے کے جرمانہ تک کا بھی ذکر ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ میرے بدن پر مار کر فرمایا: ابومحمد کیا تو مجھے اس کی اجازت دیتا ہے؟

میں نے کہا۔ میں آپ ہی کا جزو ہوں آپ جو چاہیں انجام دیں آپ کو اس کا اختیار حاصل ہے۔ پھر آپ نے میرے جسم پر چٹکی کاٹی اور فرمایا کہ چٹکی کاٹنے کی دیت اور جرمانہ بھی جامعہ میں موجود ہے۔

آپ نے یہ الفاظ کہے اور آپ اس وقت غصے میں دکھائی دیتے تھے، میں نے کہا: خدا کی قسم! یہ کامل علم ہے؟

آپ نے فرمایا: یہ علم ہے لیکن یہ بھی کامل نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر تک آپ خاموش

رہے اور فرمایا: ہمارے پاس ”حجر“ ہے لوگ کیا جانیں کہ حجر کیا ہے؟

میں نے کہا کہ ”حجر“ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: وہ چڑے کا ایک مخزن ہے جس میں سابقہ انبیاء و اوصیاء و علمائے بنی اسرائیل کا علم ہے۔

میں نے عرض کیا: یہ علم کامل ہے؟

آپ نے فرمایا: یہ علم ہے لیکن علم کامل نہیں ہے۔ پھر آپ کچھ دیر تک خاموش رہے اور فرمایا: وان عندنا لمصحف فاطمة علیہا السلام: ہمارے پاس مصحف فاطمہ موجود ہے، لوگوں کو کیا پتہ کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟

میں نے پوچھا: مصحف فاطمہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: وہ ایک ایسا مصحف ہے جو تمہارے ہاتھوں میں موجود قرآن مجید سے تین گنا بڑا ہے۔ خدا کی قسم اس میں تمہارے قرآن مجید کا ایک بھی حرف نہیں ہے۔

میں نے عرض کیا: یہ کامل علم ہے؟

آپ نے فرمایا: یہ بھی علم ہے لیکن کامل علم نہیں ہے پھر کچھ دیر تک آپ خاموش رہے اور فرمایا: ہمارے پاس گزشتہ اور قیامت کے دن تک آنے والے حالات کا علم موجود ہے۔

میں نے کہا: یہ کامل علم ہے؟

آپ نے فرمایا: یہ بھی علم ہے لیکن کامل علم نہیں ہے

میں نے پوچھا کہ کامل علم کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: علم کامل وہ علم ہے جو روزانہ دن رات میں ایک موضوع کے بعد

۱۔ یعنی ظاہر قرآن سے جو مطالب ظاہری ہم اخذ کرتے ہیں وہ اس میں نہیں ہیں بلکہ معنوی اور تاویلی اعتبار سے قرآن کے معنی ہیں کہ ہم انہیں سمجھتے ہیں (اور یہ کہ) یہ قرآن کی ایک شرح ہے۔ (اس کی بیشتر تشریح اعیان الشیعہ طبع ارشاد (جلد ۱ میں کی گئی ہے) مترجم فارسی

دوسرے موضوع اور ایک چیز سے دوسری چیز سے تعلق رکھتا ہے اور جو قیامت کے دن تک ظاہر ہوتا رہے گا۔^۱

بہشت میں مقام زہرا سلام اللہ علیہا

چند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدۃ کا شمار ان چار افراد میں سے ہے جو قیامت کے دن سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کی اونٹنی ”غضباء“ پر سوار ہو کر عرصہ محشر میں وارد ہوں گی۔

مرحوم ابن آشوب نے روایت کی ہے کہ جب پیغمبر اکرم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ کی اونٹنی جس کا نام غضباء تھا، نے عرض کیا کہ آپ اپنے بعد کس کو میری وصیت کر رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا: ”غضباء! خدا تجھے برکت دے گا۔ میرے بعد تو میری بیٹی فاطمہ کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ وہ دنیا و آخرت میں تجھ پر سواری کرے گی۔“

پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد رات کو وہ اونٹنی حضرت سیدۃ کے دروازے پر آئی اور کہا: دختر رسول آپ پر سلام۔ دنیا سے میری روانگی کا وقت قریب آچکا ہے۔ خدا کی قسم رسول اکرم کی رحلت کے بعد میں نے نہ تو گھاس کھائی نہ ہی پانی پینا ہے۔ پھر وہ اونٹنی وفات رسول کے تین دن بعد وفات پا گئی۔

فرات بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین نے فرمایا: ایک دن رسول خدا فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور اس وقت فاطمہ غمگین حالت میں تھیں۔ رسول خدا نے قیامت کے حالات کے متعلق کچھ مطالب بیان فرمائے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا:

فاطمہ! جب تم جنت میں پہنچو گی تو ایسی بارہ ہزار حوریں تم سے ملاقات کریں گی جنہوں نے تم سے پہلے کسی سے ملاقات نہیں کی ہوگی اور تمہاری ملاقات کے بعد وہ کسی سے بھی

ملذقات نہ کریں گی۔ ان کے ہاتھوں میں نور کے ہتھیار ہوں گے۔ وہ نورانی اوزنیوں پر سوار ہوں گی۔ ان کی اوزنیوں کے پالان طلّائے زرد اور یاقوت سرخ سے بنے ہوئے ہوں گے اور ان کی مہار مردارید تازہ کی ہوگی۔ ہر ناقہ پر سندس کی چادر ہوگی جس میں آبدار جواہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ جب آپ بہشت میں داخل ہوں گی تو اہل بہشت آپ کی آمد سے خوش ہوں گے اور وہ آپ کے شیعوں کے لئے ایک مخصوص دسترخوان جو کہ کرسی نور پر رکھا ہوگا لے آئیں گے اور وہ اس غذا سے تناول کریں گے۔ جبکہ باقی لوگ ابھی تک حساب و کتاب کے مراحل طے کر رہے ہوں گے اور آپ کے شیعوں کے لئے وہ سب کچھ موجود ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ جب خدا کے تمام اولیاء بہشت میں وارد ہو جائیں گے تو حضرت آدم آپ کی زیارت کے لئے آجائیں گے اور ان کے بعد دوسرے انبیاء آپ کی زیارت کے لئے آئیں گے۔

فاطمہؑ کی گفتگو نشاط پیغمبر کا ذریعہ تھی

جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ (سورہ نور آیت ۶۳)

مسلمانو! خبردار رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیان ہے کہ میں اس آیت مجیدہ کے نازل ہونے کے بعد اپنے والد محترم کو ”یا رسول اللہ“ کہہ کر پکارنے لگی۔ لیکن آنحضرت میری زبان سے ”یا رسول اللہ“ کی بجائے ”یا اہت“ سننے کے مشتاق تھے۔ تین بار تو میں نے انہیں یا رسول اللہ کہہ کر پکارا آپ نے کچھ نہ کہا اور جب چوتھی بار میں نے انہیں ”یا رسول اللہ“ کہہ کر مخاطب کیا

۱۔ یہ حدیث ابن عباس سے مروی ہے اور انہوں نے اس حدیث کو حضرت غلقی سے نقل کیا ہے یہ حدیث کافی طولی ہے جس میں سے یہاں ایک اقتباس نقل کیا گیا ہے۔ مکمل حدیث کے ریاضین شریحہ جلد ۱۷ صفحہ ۲۲۵ تا ۲۲۸ کا مطالعہ فرمائیں (مترجم فارسی)

تو انہوں نے میری طرف رخ انور کر کے فرمایا:

يا فاطمة انها لم تنزل فيك، ولا في اهلك ولا نسلك، وانت منى وانا منك، انما نزلت في اهل الجفاء والغلظة من قريش، اصحاب البذخ والكبر .
فاطمہ یہ آیت تیرے اور تیرے اہل اور تیری نسل کے لئے نازل نہیں ہوئی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ آیت قریش کے بے رحم اور ان جیسے دیگر متکبر اور خود پسند افراد کے لئے نازل ہوئی ہے۔

پھر آپ نے فرمایا: قولی لی یا اباہ! فانہا احببى للقلب، وارضى للرب .
تو مجھے اباجان کہہ کر پکارا کر، تیرا اباجان کہہ کر پکارنا میرے دل کو زیادہ زندہ رکھنے والا اور خدا کو زیادہ راضی کرنے والا ہے۔

مصباح الانوار میں امیر المؤمنین سے مروی ہے کہ فاطمہ زہراؑ نے کہا کہ رسول خداؐ نے ان سے فرمایا: من صلی علیک غفر اللہ له وَالْحَقُّہُ بى حیث کنث من الجنة جو کوئی تجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کی معرفت کرے گا اور جنت میں اسے میرے مقام میں ملحق فرمائے۔

زہراؑ کی فاقہ کشی اور دعائے پیغمبرؐ

فقہ الاسلام کلینیؒ نے امام محمد باقرؑ سے روایت کہ جابر بن عبد اللہ انصاری نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول خداؐ اپنے گھر سے حضرت فاطمہؑ سے ملاقات کے غرض سے روانہ ہوئے۔ میں آنحضرتؐ کے ساتھ تھا۔ جب حضرت فاطمہؑ کے دروازے پر پہنچے تو آپ دروازے پر رک گئے اور دستک دی پھر کہا: السلام علیکم۔

جواب میں حضرت فاطمہؑ نے بھی سلام کہا۔

رسول خداؐ نے فرمایا: کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟

فاطمہؑ نے عرض کیا: رسول خدا! آپ اندر آ جائیں۔

پھر پیغمبر خدا نے فرمایا: کیا میں اور جو میرے ساتھ ہے ہم دونوں اندر آسکتے ہیں؟

فاطمہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ میرے پاس مقعدہ اور روپوش نہیں ہے۔

آنحضرت نے فرمایا: اپنی چادر کے پلو سے اپنے سر کو ڈھانپ لو۔

فاطمہ زہرا نے چادر کے پلو سے اپنے سر کو ڈھانپا۔

پھر رسول خدا نے انہیں سلام کہا اور فاطمہ زہرا نے انہیں سلام کا جواب دیا پیغمبر اکرمؐ نے

داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو حضرت فاطمہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ! آپ چلے آئیے۔

پیغمبر خدا نے فرمایا تو کیا میں اور میرا ساتھی دونوں چلے آئیں۔

فاطمہ زہرا نے کہا۔ جی ہاں آپ دونوں آجائیں۔

جابر کہتے ہیں کہ رسول خداؐ گھر میں داخل ہوئے اور ان کے پیچھے میں بھی گھر میں

داخل ہوا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ فاطمہ زہرا کا چہرہ زرد ہے پیغمبرؐ نے ان سے اس کی وجہ

دریافت کی تو فاطمہ زہرا نے عرض کی: یا رسول اللہ! بھوک کی سختی سے یہ حالت ہوگئی ہے اس

وقت پیغمبر اکرمؐ نے دعا مانگی کہ اے وہ ذات جو بھوکوں کو سیر کرتی ہے اور کمی کی تلافی کرتی ہے

فاطمہ دختر محمد کو سیر فرما۔

شوہر کا لحاظ

ابوسعید خدری سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت علیؑ حضرت سیدہ کے پاس آئے

اور فرمایا: فاطمہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے جس سے میں اپنی بھوک مناؤں؟

حضرت سیدہ نے عرض کیا: اس خدا کی قسم جس نے میرے والد کو نبوت کے مقام

سے سرفراز کیا اور آپ کو مقام وصایت سے مکرم بنایا میرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں بلکہ

اصل حقیقت تو یہ ہے کہ دو دن سے میں نے اور میرے بچوں نے بھی نہیں کھایا البتہ پچھلے دو

دنوں میں تھوڑی سے غذا موجود تھی جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہی اور خود میں اور

میرے حسین فاقہ کرتے رہے۔

دوں میں تھوڑی سے غذا موجود تھی جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہی اور خود میں اور میرے حسین فاقہ کرتے رہے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: تم نے یہ بات خود مجھے کیوں نہ بتائی تاکہ میں طعام کا کوئی بندوبست کرتا؟ حضرت سیدہ نے عرض کی: یا ابا الحسن انی لا استحیی من الہی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیہ (ابوالحسن! مجھے اپنے خدا سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسی تکلیف دوں جو کہ آپ کے بس سے باہر ہو)۔

تقسیم کار

کتاب قرب الاسناد میں امام جعفر صادقؑ سے منقول ہے آپ نے فرمایا کہ امام محمد باقرؑ نے فرمایا:

حضرت زہراؑ اور حضرت علیؑ نے رسول خدا سے گھر کے امور کی تقسیم کار کے لئے درخواست کی تو رسول خداؐ نے گھر کے اندرونی کام حضرت زہراؑ کے سپرد کئے اور گھر کے بیرونی کام حضرت علیؑ کے سپرد کئے۔

حضرت فاطمہؑ فرماتی تھیں کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس تقسیم کار سے میں کتنی خوش ہوئی تھی کیونکہ رسول خداؐ نے مجھے گھر کے کاموں سے آزاد کر دیا تھا۔

فرشتے اور خدمت زہراؑ

قطب راوندی نے کتاب الخراج میں سلمان فارسیؓ سے نقل کیا ہے کہ میں حضرت زہراؑ کے گھر میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ سیدہ چکی پیس رہی ہیں اور جو کا آنا تیار کر رہی ہیں۔ میں نے چکی کے دستے کو دیکھا تو وہ مجھے خون آلود نظر آیا۔ امام حسینؑ جو کہ اس وقت طفل شیرخوار تھے وہ بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے۔ میں نے عرض کی: سیدہ! آپ اتنی زحمت کیوں اٹھا رہی ہیں جب کہ آپ کے پاس آپ کی خادمہ فطمہ موجود ہے؟

حضرت سیدہ نے فرمایا: رسول خداؐ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ گھر کے کام ایک دن میں کروں اور ایک دن فوضہ کرے گی۔ فوضہ نے کل کام کیا تھا اور آج نہ باری ہے۔

سلمانؓ نے یہ سن کر عرض کیا: سیدہ!۔۔ بھی تو آپ کا غلام ہوں۔ میں آپ کی خدمت کے لئے آمادہ ہوں۔ آپ چاہیں تو میں آپ کی بجائے چکی پیسنے کو تیار ہوں اور اگر آپ چکی پیسنا چاہیں تو میں حسینؓ کو اٹھاتا ہوں۔

حضرت سیدہ نے فرمایا: میں حسینؓ کی بہتر طور پر نگہداشت کر سکتی ہوں۔ میں حسینؓ کو اٹھاتی ہوں اور تم میری چکی چلاؤ۔

سلمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دیر تک چکی چلائی اور بخو کا آٹا پیتا رہا پھر نماز کے لئے اذان کی آواز بلند ہوئی تو میں نماز کے نئے مسجد کی طرف چلا آیا۔ رسول اکرمؐ کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے حضرت علیؓ کو ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت علیؓ یہ سن کر رو دیئے اور مسجد سے اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی علیؓ مسکراتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ رسول خداؐ نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا: میں فاطمہؓ کے پاس گیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ فاطمہؓ سوئی ہوئی ہے اور حسینؓ اس کے سینے پر سو رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ یہ سن کر رسول خداؐ مسکرائے اور فرمایا: یا علیؓ اما علمت ان لله ملائكة سیارة فی الارض یخدمون محمد و آل محمد الی ان تقوم الساعة علی! کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ زمین پر پھرتے رہتے ہیں تاکہ وہ محمدؐ و آل محمدؐ کی خدمت کریں۔ اور وہ قیامت قائم ہونے تک خدمت کرتے رہیں گے۔

پیغمبر اکرمؐ، خود اپنی بیٹی کی مدد کرتے ہیں

ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلامؐ حضرت علیؓ کے گھر تشریف لائے تو آپؐ نے دیکھا کہ علیؓ و فاطمہؓ دونوں مل کر چکی چلا رہے ہیں تو پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: تم

پیغمبر اکرمؐ نے سیدۃ سے فرمایا: پیاری بیٹی اٹھو۔ سیدۃ اٹھیں تو پیغمبر اکرمؐ ان کی جگہ پر بیٹھ گئے اور چکی چلانے میں علیؑ کی مدد کرتے رہے۔ (اس روش سے عورت کے رشتہ داروں کو یہ سبق لینا چاہئے کہ اگر وہ دیکھیں کہ گھر کے کام عورت کے لئے زیادہ ہیں اور دشوار ہیں تو وہ ان کا ہاتھ بنائیں۔ اس طرح ان کے کاموں کو تقسیم کر دیں اور گھٹادیں)۔

غذائے زہراؑ کی برکت

بعض کتب مناقب میں جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت منقول ہے:

چند دنوں سے رسول خداؐ مسلسل فاقے کر رہے تھے۔ آپ نے اپنی ازواج سے غذا طلب کی تو کسی بھی زوجہ کے گھر میں خوراک موجود نہ تھی۔ پھر آپ حضرت فاطمہؑ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ میں کئی روز سے بھوکا ہوں اگر تمہارے پاس کوئی طعام ہے تو مجھے بھی کھلاؤ۔

حضرت فاطمہؑ نے عرض کی: میں آپ پر قربان جاؤں! میرے گھر میں بھی فاقہ ہے اور ہمارے پاس کسی قسم کی خوراک موجود نہیں ہے۔

یہ جواب سن کر رسول اکرمؐ واپس تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں کسی ہمسائے نے دو روٹیاں اور گوشت کی تھوڑی سی مقدار حضرت سیدۃ کے گھر میں بطور ہدیہ بھیجی۔

حضرت فاطمہؑ نے اس غذا کو قبول کیا اور ایک برتن میں وہ غذا رکھ کے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور فرمایا: میں رسول خداؐ کو اپنی ذات اور اپنے تمام افراد خانہ پر مقدم رکھوں گی۔

پھر حضرت سیدۃ نے حسنینؑ کو رسول خداؐ کے پاس بھیجا اور انہیں دعوت دی۔ رسول خداؐ تشریف لائے تو حضرت سیدۃ نے تمام واقعہ گوش گزار کیا۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: وہ برتن میرے قریب لاؤ۔ جب وہ برتن آپ کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے اس کے اوپر سے کپڑا اٹھایا تو وہ برتن روٹیوں اور گوشت سے لبریز دکھائی دیا۔

جابر کہتے ہیں جب میں نے کھانے پر نظر کی تو مجھے تعجب ہوا اور میں نے جان سیا کہ یہ آنحضرت کی نبوت کا ایک معجزہ ہے۔ میں نے خدا کی حمد و ثناء کی اور پیغمبر پر درود بھیجا۔ رسول خدا نے اپنی بیٹی سے فرمایا: یہ غذا کہاں سے آئی ہے؟ سیدہ نے عرض کیا: اللہ کی طرف سے یہ غذا آئی ہے۔ یقیناً خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

رسول خدا نے ایک شخص کو حضرت علی کے بلانے کے لئے روانہ کیا۔ تھوڑی دیر میں علی آئے۔ پھر رسول خدا اور علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ اور امام حسن و امام حسین نے وہ غذا کھائی۔ پھر آپ نے اپنی تمام ازواج کے گھروں میں وہ غذا بھیجی سب نے سیر ہو کر کھایا لیکن وہ برتن غذا سے بدستور بھرا رہا۔

حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں نے وہ غذا اپنے ہمسایوں کے گھروں میں بھیجی۔ خداوند عالم نے اس غذا میں برکت ڈال دی تھی جیسا کہ مریم کے لئے برکت نازل فرمائی تھی۔

عبادت زہرا سلام اللہ علیہا

حسن بصری کا قول ہے کہ امت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کوئی بڑا عابد نہیں گزرا۔ آپ اتنی عبادت کرتی تھیں کہ آپ کے پاؤں پر دروم آجاتا تھا۔ رسول اکرم نے ایک بار حضرت فاطمہ زہرا سے پوچھا: عورت کے لئے کیا چیز بہتر ہے؟

حضرت سیدہ نے جواب میں عرض کیا: ان لا توری رجلا ولا یواھا رجل
وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے۔

۱۔ علامہ اقبال نے اسی نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین اسلام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا:

اگر ہندی زردویشی پذیری ہزار امت بمرید تو نیری
تولے باش و پنہاں شو ازین عصر کہ در آغوش شیریے گیری

اگر تو درویش کی نصیحت قبول کرے تو ہزار ایشیہ بر جائیں گی لیکن تو نہ مرے گی۔ بتول بن جا اور اس زمانہ سے چھپ جاتا کہ تیری آغوش میں بھی شیر آسکے۔ (از مترجم)

آنحضرتؐ نے جیسے ہی اپنی دختر کا جواب باصواب سنا تو آپؐ نے انہیں سینے سے لگا لیا اور یہ آیت پڑھی ”ذرية بعضها من بعض“ وہ ایک ایسا خاندان تھا کہ (تقویٰ وفضیلت کے لحاظ سے) وہ ایک دوسرے سے تھے۔ (آل عمران-۳۳)

امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ ایک شب جمعہ میں نے اپنی وادہ ماجدہ کو محراب عبادت میں دیکھا۔ وہ تمام رات رکوع و سجود میں مصروف رہیں۔ یہاں تک کہ سفیدی سحر نمودار ہوگئی۔ اور اس دوران میں میری والدہ موئین و مومنات کے نام لے لے کر ان کے حق میں دعائیں کرتی رہیں مگر انہوں نے اپنے لئے کوئی دعا نہ کی۔ میں نے کہا: اماں جان! آپ نے اپنے لئے دوسروں کی طرح دعا نہیں مانگی؟

حضرت سیدہؑ نے فرمایا: یا بُنْتَى الْجَارِ ثَم الدار: بیٹا پہلے ہمسایہ: پھر اپنا گھر۔ مرحوم صدوق نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہؑ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خداؐ سے سنا۔ ”جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بھی ہے کہ اس میں جو بھی مسلمان اللہ سے کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اور اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔“ میں نے پوچھا کہ وہ کون سی گھڑی ہے؟

آنحضرتؐ نے فرمایا: جس وقت سورج آدھا غروب ہو چکا ہو اور آدھا ظاہر ہو۔ حضرت فاطمہؑ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ چھت پر چڑھ جاؤ اور جب دیکھو کہ سورج افق مغرب میں آدھا ڈوب جائے اور آدھا ظاہر ہو تو مجھے اطلاع دینا اس وقت خدا سے دعا کروں گی۔

روایات میں ہے کہ جب حضرت سیدہ محراب عبادت میں مصروف عبارت ہوتی تھیں تو آپ کے نور کی کرنیں اہل آسمان کے لئے جگمگاتی تھیں جیسا کہ ستاروں کا نور اہل زمین کے لئے جگمگاتا ہے۔

کنیز کا مطالبہ

شیخ صدوق ”رقم طراز ہیں: امیر المؤمنین نے بنی سعد کے ایک شخص سے فرمایا:

کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے فاطمہ کی گڑہستی کے کچھ حالات سناؤں؟

فاطمہ! اگرچہ رسول خدا کی محبوب ترین شخصیت تھیں مگر اس کے باوجود انہوں نے اس

قدر مشک اٹھائی کہ ان کے سینہ پر مشک کے نشان پڑ گئے اور انہوں نے اتنی بار جھڑو دی کہ ان

کے کپڑے غباراً لود ہو گئے اور انہوں نے چولہے میں اس قدر آگ جلائی کہ ان کے کپڑوں کی

رنگت دھوئیں سے تبدیل ہو گئی۔ الغرض انہوں نے میرے گھر میں رہ کر بڑی تکلیفیں جھیلیں۔ میں

نے ان سے کہا: آپ اپنے والد کے پاس جا کر ایک کنیز کا مطالبہ کریں جو کہ آپ کے کاموں

میں آپ کا ہاتھ بنا سکے تو یہ بہتر ہوگا۔

فاطمہ زہراؑ والد کے پاس گئیں۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ رسول اللہؐ

کے پاس بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ وہ کچھ کہے بغیر گھر واپس آ گئیں۔

حضرت رسول خداؐ نے محسوس کیا کہ فاطمہؑ کسی ضرورت کے سلسلہ میں آئی تھیں لیکن

اپنی ضروریات بیان کئے بغیر واپس چلی گئیں۔ پھر دوسرے دن آنحضرتؐ صبح کے بعد ہمارے

گھر تشریف لائے اور عادت کے مطابق سلام کیا۔

میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا ”یا رسول اللہ! آپ پر سلام ہو۔ تشریف لے

آئیں۔“ آنحضرتؐ تشریف لائے اور ہمارے قریب آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: فاطمہ! کل تم

میرے پاس آئی تھیں۔ بتاؤ تمہیں کیا ضرورت درپیش تھی؟

فاطمہؑ نے حیا کی وجہ سے کچھ نہ کہا۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے جواب نہ دیا

تو آنحضرتؐ واپس چلے جائیں گے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں آپ کو بتاتا ہوں۔

فاطمہؑ نے اتنا پانی بھرا کہ ان کے سینہ پر مشک کے داغ ثبت ہو گئے اور انہوں نے اتنی چگی

چوٹی کے ہاتھوں پر آبلے پڑ گئے اور انہوں نے اتنی جھاڑو دی کہ ان کا لباس غبار آلود ہو گیا اور انہوں نے اتنا چولہا جلایا کہ ان کے کپڑوں کا رنگ بدل گیا۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے اپنے لئے ایک کینفر طلب کرو تا کہ تمہیں امور خانہ داری میں سہولت ہو جائے۔

یہ سن کر پیغمبر اسلامؐ نے فرمایا: کیا تم چاہو گے کہ میں تم کو ایسی چیز کی تعیم دوں جو تمہارے لئے خدمت گار سے بہتر ہو؟ اور وہ یہ ہے کہ جب تم سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہو۔

اس وقت فاطمہؑ نے سر اٹھایا اور تین بار کہا ”رضیت عن اللہ ورسولہ“ میں خدا اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔

کتاب مناقب میں ابوبکر شیرازی (جو کہ علمائے تسنن میں سے تھے) سے منقول ہے۔ جب حضرت زہراؑ نے اپنا حال پیغمبر اسلامؐ کی خدمت میں بیان کیا اور ان سے کثیر کا تقاضا کیا تو پیغمبر اکرمؐ رو پڑے اور انہوں نے فرمایا:

فاطمہ! مجھے خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اس وقت مسجد میں چار سو ایسے افراد (اصحاب صفہ) موجود ہیں جن کے پاس کھانے کے لئے غذا نہیں اور پہننے کے لئے لباس موجود نہیں ہے۔ اگر مجھے تمہاری فضیلت کے ضائع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری درخواست ضرور قبول کر لیتا۔ فاطمہ! میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا اجر و ثواب تم سے جدا ہو جائے اور تمہارے بجائے تمہاری کینز کو نصیب ہو۔

تفسیر نقشبلی میں امام محمد باقر سے اور تفسیر قشیری میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فاطمہؑ کو موٹا اون کا لباس پہننے سے منع دیکھا۔ وہ چکی چداری تھیں اور اس عالم میں اپنے ایک بچے کو دودھ بھی پلا رہی تھیں۔

یہ منظر دیکھ کر آنحضرتؐ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا ”با بنیانا تعجسی

مسرارة الدنيا بحلاوة الاخرة“ پیاری بیٹی! آخرت کی حلاوت کے لئے دنیا کی تخی کو برداشت کرنے میں جندی کرو۔

حضرت سیدۃ نے یہ سن کر کہا: ”یا رسول اللہ الحمد للہ علی نعمانہ والشکر للہ علی الائنہ“ یا رسول اللہ! اللہ کی نعمات پر حمد ہے اور اس کی عطا پر اس کا شکر ہے۔

حضرت زہرا کی کثیر کا تکلم باقرآن

ابوالقاسم قشیری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زہرا کی کثیر حضرت فضہؓ سفر حج میں اپنے کاروان سے پھڑکنیں اور انہیں بیابان میں تنہا سفر کرنا پڑا۔ عبداللہ بن مبارک جو کہ ان کی طرح سے قافلے سے پھڑ گئے تھے اتفاق سے ان کی حضرت فضہؓ سے ملاقات ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیابان میں ایک خاتون کو دیکھا تو میں نے ان سے کہا: تم کون ہو؟

خاتون۔ وقل سلام فسوف يعلمون (زخرف ۸۹) آپ سلام کہیں پھر عنقریب وہ جان لیں گے۔ اس آیت سے میں نے سمجھ لیا کہ خاتون سلام کا مطالبہ کر رہی ہے۔ عبداللہ نے خاتون پر سلام کیا اور پوچھا: آپ بیابان میں تنہا کیا کر رہی ہیں اور کیا آپ کو اپنے بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہے؟

خاتون: ومن يهد الله فماله من مضل۔ (زمر۔ ۳۷) جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے مجھے پتہ چلا کہ خاتون کا خدا پر گہرا یقین ہے۔
عبداللہ: آپ کا تعلق انسانوں سے ہے یا جنات سے ہے؟

خاتون: یا بنی ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ (اعراف۔ ۳۱) اے بنی آدم ہر نماز کے وقت زینت کرو۔ اس آیت سے میں نے سمجھ لیا کہ خاتون کا تعلق بنی آدم سے ہے۔
عبداللہ: آپ کہاں سے آرہی ہیں۔

خاتون۔ بنا دون من مکان بعید (فصلت۔ ۴۴) انہیں دور دراز مقام سے بلایا جاتا ہے۔ اس آیت سے میں سمجھ گیا کہ خاتون کسی دور دراز مقام سے آرہی ہیں۔

عبداللہ: آپ کس شہر سے آرہی ہیں؟

خاتون: یا اہل یثرب لامقام لکم (الاحزاب۔ ۱۳) اے اہل یثرب تمہارا ٹھکانہ کہیں نہیں ہے اس آیت سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ خاتون مدینہ منورہ سے آرہی ہیں۔

عبداللہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟

خاتون۔ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (آر عمران۔ ۹۷) جو حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج واجب ہے۔

اس آیت سے مجھے معلوم ہو گیا کہ خاتون سفر حج پر جاری ہیں۔

عبداللہ: آپ کو کاروان سے کچھڑے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟

خاتون: ولقد خلقنا السماوات والارض في ستة ايام (ق۔ ۳۸)

بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔

اس آیت سے مجھے معلوم ہو گیا کہ اس خاتون کو قافلے سے جدا ہونے چھ دن گزر چکے ہیں۔

عبداللہ: کیا آپ اس وقت کچھ کھانا پسند کریں گی؟

خاتون: وما جعلناهم جسدا الايا كلون الطعام (انبیاء۔ ۸) اور ہم نے انہیں ایسے جسم نہیں دیئے کہ وہ طعام نہ کھاتے ہوں۔

اس آیت سے میں نے سمجھ لیا کہ خاتون کھانا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں کھانا کھلایا اور پھر ان سے کہا کہ جلدی کریں اور تیز تیز قدم بڑھائیں۔

خاتون: لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ (البقرہ۔ ۲۸۶)

اللہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

اس آیت سے میں سمجھ گیا کہ خاتون تھک چکی ہیں اور ان میں زیادہ تیز چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔

عبداللہ: آپ میرے ساتھ اونٹ پر سوار ہو جائیں۔

خاتون: لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا۔ (انبیاء- ۲۲)

اگر زمین و آسمان میں زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ اس آیت سے میں نے سمجھ لیا کہ خاتون میرے ساتھ سوار ہونا پسند نہیں کرتیں پھر میں اونٹ سے اترا اور انہیں اکیلا سوار کیا، جب وہ اونٹ پر بیٹھ گئیں تو انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین (زخرف- ۱۳) پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مسخر کر دیا ہے ورنہ ہم اس کو قابو میں نہیں لاسکتے تھے۔ پھر ہم چلتے ہوئے کاروان سے جڑے تو میں نے خاتون سے پوچھا کہ اس قافلہ میں تمہارا کوئی رشتہ دار بھی موجود ہے؟

خاتون نے جواب میں یہ آیات پڑھی: يا داود ان جعلناك خلیفة فی الارض (ص- ۲۶) اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ وما محمد الا رسول (آل عمران آیت ۱۳۴) محمد بس رسول ہیں۔ یا یحییٰ هذا لکتاب بقوة (مریم آیت ۱۲)۔ یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ یا موسیٰ انی انا اللہ اے موسیٰ بیشک میں اللہ ہوں (قصص- ۳۰) چنانچہ میں نے داؤد، محمد، یحییٰ اور موسیٰ کو پکارا تو چار جوان اس قافلہ سے نکل کر خاتون کے پاس آئے۔ پھر میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ نو جوان آپ کے کیا لگتے ہیں؟

خاتون: المال والبنون زينة الحیة الدنيا (الکہف- ۳۶) مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔

اس آیت سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ خاتون ان جوانوں کی والدہ ہیں۔ پھر اس خاتون نے اپنے بچوں کو صدا دے کر فرمایا: یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین (القصص ۲۶) ابا جان آپ اس کو اجرت دیں کیونکہ آپ جسے اجرت دیں گے وہ قوی اور امین ہے۔

اس آیت کو سن کر میں نے سمجھ لیا کہ خاتون اپنے بیٹوں کو حکم دے رہی ہیں کہ مجھے اس زحمت پر کچھ اجرت دیں۔ چنانچہ ان جوانوں نے کچھ رقم میرے حوالے کی تو ان کی والدہ نے کہا۔
واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یعنی اللہ جس کیلئے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ (سورۃ البقرہ، آیت ۲۶۱)
اس آیت سے میں نے اندازہ لگایا کہ خاتون اپنے بیٹوں کو اس رقم سے دوگنی رقم دینے کا حکم دے رہی ہیں۔ چنانچہ ان جوانوں نے مجھے زیادہ رقم دی۔ جب میں ان سے جدا ہونے لگا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہیں؟

ان جوانوں نے بتایا کہ یہ ہماری والدہ فطمہ ہیں اور یہ زہرا کی کنیز ہیں انہیں تین برس ہوئے ہیں کہ قرآن کے علاوہ انہوں نے کوئی کلام نہیں سیکھا۔

حضرت زہرا اور ان کے شیعوں کا مقام

ابو جعفر طبری نے کتاب بشارۃ المصطفیٰ میں ہمام ابی علی سے روایت کی ہے کہ میں نے کعب الاحبار سے کہا: تم شیعیان علی بن ابی طالب کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہو؟

اس نے جواب میں کہا: اے ہمام! میں نے ان کی صفات قرآن مجید میں پڑھی ہیں۔ وہ خدا کا رُوہ اور خدا کے دین کے مددگار اور خدا کے ولی کے پیرو ہیں۔ وہ خدا کے خاص اور محترم بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کے لئے چن لیا ہے۔ اور انہیں بہشت بریں کے لئے پیدا کیا ہے۔ وہ جنت الفردوس کے بلند و بالا محلات میں ہوں گے وہ ایسے

۱۔ فطمہ کا تعلق اہل نوبہ سے تھا بعد میں مدینہ آئیں اور حضرت زہرا کی کنیزی اختیار کی اور حضرت زہرا نے ان کی اخلاقی تربیت کی۔ چنانچہ وہ سورہ دہر کی آیت ۹۳ کے شان نزول میں شامل ہو گئیں اور اہل بیت حاضرین کے گھرانے کا ایک فرد بن گئیں۔ مرحوم علامہ اصفہانی (کمپانی) نے اپنے ایک شعر میں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا

مفتقرا متاب روی ازدر او بہ ہیچ سوی زانکہ مس وجود را، فطمہ او طلا کند
اے صاحب ضرورت! اس در سے اپنے چہرے کو کسی اور طرف نہ کرنا۔ کیونکہ تاجے کو ان کی فطمہ سونا بن دیتی ہے۔ (از مترجم فارسی)

مکانات میں رہائش پذیر ہوں گے جو کہ مروارید موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ وہ مقربانِ ابرار میں ہوں گے اور سر بہر شرابِ طہور نوش کریں گے۔ اس شراب کا تعلق جنت کے اس چشمہ سے ہوگا جسے تسنیم کہا جائے گا اور وہ ان کے لئے مخصوص ہوگا۔ تسنیم وہ چشمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دختر اور حضرت علیؑ کی زوجہ فاطمہ زہراؑ کو عطا کیا ہے۔ یہ چشمہ ایک ستون سے جاری ہوگا کہ جس ستون کا قہر ٹھنڈک میں کافور، ذائقہ میں زنجبیل اور خوشبو میں مشک کی طرح سے ہوگا۔ پھر اس چشمہ کا پانی چھوٹی چھوٹی نہروں میں بہتا ہوگا۔ حضرت فاطمہؑ کے محبت اور ان کے شیعہ اسے پیئیں گے۔ اس قہر کے چار ستون ہوں گے اس کا ایک ستون سفید مروارید کا ہوگا اور اس سے ”طہور“ نامی ایک چشمہ رواں ہوگا۔ اس قہر کا ایک اور ستون بنز زمرد کا ہوگا اور اس سے دو چشمے یعنی شرابِ طہور اور شہد جاری ہوں گے۔ پھر یہ چشمے جنت میں نیچے کی طرف بہیں گے۔ لیکن تسنیم چشمے کا پانی جنت کے زیریں طبقہ میں نہیں آئے گا۔ اس کا پانی صرف جنت کے بندوبست والا حصہ تک ہی محدود رہے گا جس کو صرف خاص بہشتی ہی پینے کی سعادت حاصل کریں گے اور وہ خوش نصیب صرف شیعیانِ علیؑ اور حبانِ علیؑ ہی ہوں گے۔ قرآن مجید کی ان آیات کی یہی تفسیر ہے۔

یسقون من ریحیق مختوم ○ ختامہ مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون ○ و مزاجہ من تسنیم ○ عیناً یشرب بہا المقربون ○ (مطففین ۲۵ تا ۲۸)

انہیں سر بہرِ خاص شراب سے سیراب کیا جائے گا۔ جس کی مہرِ مشک کی ہوگی اور ایسی چیزوں میں شوق کرنے والوں کو آپس میں سبقت اور رغبت کرنی چاہئے۔ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بارگاہِ بندے پیتے ہیں۔

پھر کعب الاحبار نے کہا: خدا کی قسم! شیعوں سے صرف وہ شخص ہی محبت کرتا ہے جس سے اللہ نے عہد و پیمانہ لیا ہو۔

اس روایت کے نقل کرنے کے بعد ابو جعفر طبری لکھتے ہیں: ”شیعوں کو چاہئے کہ وہ اس حدیث کو آبِ زر سے تحریر کریں اور اس کی زیادہ سے زیادہ نقل تیار کریں تاکہ جنت

انگروں کے بلند و بالا محلات کے وارث قرار پائیں۔ چونکہ یہ روایت اہل سنت سے نقل کی گئی ہے اس لئے مخالفین اسے شیعوں کی خود ساختہ روایت کہہ کر رد نہیں کر سکتے پس یہ حدیث شیعوں کے مخالفین پر ایک حجت ہے۔“

حضرت سلمانؓ کے سوال کا جواب

طبری بشارۃ المصطفیٰ میں کتاب کنز کے حوالے سے رقم طراز ہیں کہ ابوذرؓ نے کہا: سلمانؓ اور بلالؓ حبشی کو میں نے دیکھا کہ وہ پیغمبر اکرمؐ کے حضور آرہے تھے کہ اچانک سلمانؓ آگے بڑھے اور رسول خداؐ کے قدموں میں گر کر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ پیغمبر اکرمؐ نے انہیں اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا: ”سلمان! جو کام اہل عجم اپنے بادشاہوں کے لئے کرتے تھے تم میرے لئے وہ کام مت کرو۔ میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اور بندوں کی طرح سے کھانا کھاتا ہوں اور انہیں کی طرح بیٹھتا ہوں۔“

حضرت سلمانؓ نے خدمت پیغمبرؐ میں عرض کیا: ”یا رسول اللہ! میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن حضرت زہراؓ کو جو مقام حاصل ہوگا آپ مجھے اس سے مطلع فرمائیں۔“

پیغمبر اکرمؐ نے مسکرا کر سلمانؓ کی طرف دیکھا اور فرمایا: ”اس خدا کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ فاطمہؓ وہ خاتون ہے جو اونٹ پر سوار ہو کر میدان حشر کو عبور کرے گی۔ اس کی سواری کا سرخسیت خدا سے جھکا ہوا اور اس کی آنکھیں نور خدا سے منور ہوں گی۔ فضائل سیدہؓ بیان کرتے ہوئے رسول خداؐ نے فرمایا: جبرئیل اس اونٹ کی دائیں جانب اور میکائیل اس کی بائیں جانب اور علیؓ اس کے آگے آگے اور حسنؓ و حسینؓ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، خداوند عالم اس کا محافظ و نگہبان ہوگا یہاں تک کہ وہ صحن حشر کو عبور کریں گے۔ ان لمحات میں خداوند عالم کی طرف سے ندا آئے گی۔“

اے تمام مخلوقات! اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے سروں کو جھکا لو کیونکہ اب تمہارے

پیغمبرؐ کی بیٹی اور تمہارے امام علیؑ کی زوجہ اور حسن و حسینؑ کی والدہ فاطمہؑ پہ صراط سے نزر رہی ہیں۔ اس وقت فاطمہؑ کے سر پر دو شفاف اور سفید چادریں ہوں گی اور جب فاطمہؑ جنت میں پہنچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمات کا ملاحظہ کریں گی جو خدا نے ان کیسے تیار کی ہیں تو وہ کہیں گی۔ "بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور" الذی احلنا دار المقامة من فضله لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. " (سورۃ فاطر آیت ۳۴، ۳۵) تمام قسم کی تعریف اللہ کیلئے مخصوص ہے جس نے ہم سے رنج و غم کو دور کیا بیشک ہمارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسی رہنے کی جگہ پر وارد کیا ہے جہاں نہ کوئی تھکن ہم کو چھو سکتی ہے اور نہ کوئی تکلیف ہم تک پہنچ سکتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ فاطمہؑ کو وحی کرے گا۔

"اے فاطمہ! تو جو چاہے مجھ سے سوال کر میں تجھے عطا کروں گا اور تجھے راضی کروں گا۔" اس وقت فاطمہؑ بارگاہ احدیت میں عرض کریں گی: "خدایا! تو ہی میری امید ہے بلکہ میری امید سے بھی بلند و بالا ہے میں تیری بارگاہ میں یہ سوال کرتی ہوں کہ میرے محبوبوں اور میری اولاد کے محبوبوں کو آتش دوزخ میں عذاب نہ دینا۔"

اللہ تعالیٰ وحی کرے گا: "اے فاطمہ! مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم! زمین و آسمانوں کی خلقت سے دو ہزار سال قبل میں اپنے ساتھ قسم کھا چکا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کرنے والوں اور تیری اولاد سے محبت کرنے والوں کو آگ میں عذاب نہیں دوں گا۔"

زہد فاطمہؑ کی ایک جھلک

سید ابن طاووس نے ابو جعفر احمدؑ کی کتاب زہد النبی سے یہ اقتباس نقل کیا ہے۔ جب سورہ حجر کی یہ دو آیات نازل ہوئیں۔

وان جهنم لمو عدھم اجمعین ۵ لها سبعة ابواب لكل باب مھم جزء
مقسوم ۵ اور جنہم ایسے تمام لوگوں کی وعدہ گاہ ہے۔ اس کے سات دروازے ہیں اور ہر
دروازے کے لئے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ (الحجر۔ ۴۳۔ ۴۴)

یہ آیات سن کر پیغمبر اکرمؐ بہت زیادہ روئے۔ آنحضرتؐ کو روتے دیکھ کر صحابہ بھی
رونے لگے۔ صحابہ کو رونے کی وجہ کا کوئی علم نہیں تھا۔ پیغمبر اکرمؐ اتنے غمگین ہوئے کی کسی کو آپ
سے پوچھنے کا یارانہ ہوتا تھا۔

حضرت رسول خداؐ کی یہ عادت تھی کہ آپ جب بھی اپنی لنت جگر کو دیکھتے تھے تو خوش
ہو جاتے تھے اسی لئے ایک صحابی حضرت سیدہ کے گھر کی طرف چل پڑا تاکہ اس رنجیدہ ماحول کو
کسی طرح سے ختم کیا جاسکے۔ جب وہ حضرت سیدہ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ
آپ سچکی پیس رہی ہیں اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر رہی ہیں۔ "وما
عند اللہ خیر وابقی" اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور وہ زیادہ باقی رہنے والا
ہے۔ (التقص۔ ۶۰۔ الشوریٰ ۳۶)

اس صحابی نے آپ پر سلام کیا اور آپ کو رسول خداؐ کے رونے کی خبر دی۔
یہ خبر سنتے ہی حضرت سیدہ بلا تاخیر انھیں آپ نے اپنی وہ پرانی چادر سر پر رکھی جس
میں یف خرما کی بارہ گرہیں لگی ہوئی تھیں اور اپنے بیت الشرف سے باہر آئیں۔

حضرت سلمان فارسیؓ نے حضرت سیدہ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی
اور رو کر کہا: ہائے افسوس! قیصر و کسریٰ تو سندس و حریر کا لباس پہنیں لیکن پیغمبر خداؐ کی بیٹی ایک

۱۔ علامہ اقبال نے لکھا تھا

آں ادب پروردہ صبر و رضا آیا گردان و لب قرآن سر
وہ صبر و رضا کی ادب پروردہ شہزادی ہاتھوں سے چکی بیستی تھیں اور ان کے لب قرآن پڑھا کرتے تھے۔

(از مترجم اردو)

بوسیدہ چادر پہنے جس میں متعدد گرہیں لگی ہوئی ہوں۔

الغرض حضرت سیدہ، پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! سمن میرے لباس پر تعجب کر رہا ہے جب کہ مجھے اس خداوند عالم کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے ہمیں تو پورے پانچ سال ہو چکے ہیں کہ ہمارے بچھانے کا گدا بس ایک پوست گوسفند پر مشتمل ہے جس پر ہم رات کو آرام کرتے ہیں اور دن کے وقت ہمارا اونٹ اس پوست پر گھاس کھاتا ہے اور ہمارا تکیہ لیف خرما سے بھرا ہوا ہے۔

پیغمبر اکرمؐ نے سلمانؓ سے فرمایا: ”ان ابنتی لفی الخیل السوابق“ بے شک میری بیٹی سبقت حاصل کرنے والوں کی صف سے تعلق رکھتی ہے۔

پھر حضرت سیدہ نے عرض کی: اباجان! آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟

اس کے جواب میں رسول خداؐ نے سورہ حجر کی مذکورہ دو آیات تلاوت فرمائیں جب حضرت سیدہ نے جہنم کا نام سنا تو چہرے کے بل زمین پر گریں اور فرماتے گئیں ”الویل لکم الویل لمن دخل النار“ ہائے! افسوس پھر افسوس اس پر جو دوزخ میں چلا جائے۔

جب سلمانؓ نے ان آیات کو سنا تو کہا: کاش میں ایک گوسفند ہوتا میرے خاندان والے مجھے ذبح کرتے اور میری کھال اتار لیتے لیکن میں نے دوزخ کا نام نہ سنا ہوا ہوتا۔

ابوذرؓ نے کہا: کاش میری ماں بانجھ ہوتی کہ میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور آگ کا نام نہ سنا ہوتا۔

مقدادؓ نے کہا: اے کاش میں بیابان کا ایک پرندہ ہوتا کہ نہ میرا حساب ہوتا نہ مجھ پر عتاب ہوتا۔ اور میں نے آگ کا نام نہ سنا ہوتا۔

حضرت علیؓ نے کہا: اے کاش جنگل کے درندوں نے میرے جسم کو پھاڑ لیا ہوتا، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور میں نے دوزخ کا نام نہ سنا ہوتا۔ پھر حضرت علیؓ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور رو رو کر کہنے لگے: ”وابعد سفراء، واقلة زاده فی سفر

القیامۃ.....“ ہائے طول سفر اور ہائے سفر قیامت کے لئے زادراہ کی کمی۔

ہائے (گناہ گار) لوگ آگ کی طرف جا رہے ہوں گے اور آگ ان کو گھیرے میں سے لے گی۔ وہ ایسے بیمار ہیں جن کی عیادت کرنے والا کوئی نہیں اور وہ ایسے زخمی ہیں جن کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں۔ اور وہ ایسے قیدی ہیں جنہیں بند آتش سے آزاد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور وہ ایسے قیدی ہیں جن کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں۔ ان کی خوراک اور ان کا پانی آگ کا ہوگا اور وہ آگ کے شعلوں میں غوطے کھانے والے ہوں گے۔ جب کہ وہ دنیا میں کپاس سے بنا ہوا لباس پہنتے تھے اور دوزخ میں آگ کی پلٹیں ان کا لباس ہوں گی۔ دنیا میں وہ لوگ اپنی بیویوں سے ہم آغوش ہوتے تھے لیکن دوزخ میں شیاطین کے ہم آغوش ہوں گے۔

پیغمبرؐ اور بنتِ پیغمبرؐ کا زہد

پیغمبر اکرمؐ کا دستور تھا کہ جب آپؐ کسی سفر کے سلسلہ میں باہر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت سیدۃ سے الوداع کہتے تھے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت سیدۃ سے ملاقات کرتے تھے اور اس طرح سے جدائی کے لمحات کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔

ایک سفر جنگ سے آنحضرتؐ واپس مدینہ تشریف لائے تو حسب عادت اپنی نور نظر کے گھر گئے جب دروازہ پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ پر مخصوص پردہ لگا ہوا ہے اور آپؐ نے اپنے نواسوں حسن و حسینؑ کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں چاندی کے دست بند تھے۔

پیغمبر اکرمؐ یہ دیکھتے ہی وہاں سے چلے گئے اور گھر میں تشریف نہ لائے۔ حضرت سیدۃ کو اپنے والد کے اس عمل کا پتا چلا تو آپؐ سمجھ گئیں کہ وہ اس پردہ اور حسینؑ کے دست بند کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ آپؐ نے وہ پردہ اتارا اور اپنے شاہزادوں کے ہاتھوں سے چاندی کے دست بند اتارے اور اپنے شاہزادوں کے ہاتھ وہ پردہ اور دست بند رسول خداؐ کے حضور روانہ فرمائے۔

رسول خداؑ نے حسنین سے پردہ اور چاندی کے دست بند لے لئے اور اپنے ایک غلام جس کا نام ثوبان تھا، سے فرمایا کہ یہ دست بند فلاں جگہ لے جا کر فروخت کر دو اور اس کی قیمت میں سے میری بیٹی فاطمہؑ کے لئے چوب عصب کا ایک گلو بند اور حسنین کے لئے چوب عاج کے دست بند خرید کرو۔

فان هولاء اهل بيتي ولاحب ان ياكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا: کیونکہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں ہی حاصل کر لیں۔

سیدہ اور نوشتہ پیغمبرؐ کا احترام

شیخ جلیل ابو جعفر طبری اپنی کتاب ”الدلائل“ میں ابن سعود کی سند سے رقم طراز ہیں۔ ایک شخص حضرت سیدہ کے دروازہ پر حاضر ہوا اور اس نے کہا: کیا آپ کے پاس رسول خداؑ کی کوئی نشانی بطور یادگار موجود ہے۔ جس کی میں زیارت کر کے ثواب حاصل کر سکوں؟ حضرت سیدہ نے اپنی کینز سے فرمایا: وہ لکھی ہوئی تختی لے آؤ۔

کینز نے تلاش شروع کی لیکن اسے تختی کہیں دکھائی نہ دی۔ حضرت سیدہ نے کینز سے فرمایا: ”ویحک اطلبیہا فانہا تعدل عندی حسنا وحسینا“ تجھ پر افسوس اسے تلاش کر کیونکہ وہ تختی میری نظر میں حسن و حسین کے مساوی ہے۔

کینز ڈھونڈنے لگی اور بالآخر اس نے اسے تلاش کر لیا اور وہ مذکورہ تختی حضرت سیدہ کے سامنے لے کر آئی۔ اور اس تختی پر یہ عبارت تحریر تھی۔

رسول خداؑ نے فرمایا: وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہ ہو۔ جو خدا اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے۔ جو خدا اور روزِ آخرت

۱۔ مسند احمد اور کشف الغمہ قرآن میں سورہ احقاف کی ۴۰ ویں آیت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ روزِ قیامت کافروں کو آگ میں لے جایا جائیگا اور ان سے کہا جائیگا: اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ تم دنیا کے مزے خوب لوٹ چکے۔ (مترجم فارسی)

پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ بھلائی طلب کرنے والے، بردبار اور صلہ رحمی کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر گالی بکنے والے بد زبان، بے شرم اور زیادہ سوال کرنے والے اور سوال میں اصرار کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ شرم وحیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے اور گالی دینا بے شرمی ہے اور بے شرمی کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔^۱

مصائب زہراؑ کی پیش گوئی

شیخ صدوقؒ نے ابن عباسؓ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت پر مصائب وارد ہونے کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ وہ طویل روایت جس کا تعلق مصائب زہراؑ سے ہے یہ ہے:

بہر نوع میری دختر فاطمہ اولین و آخرین کی خواتین کی سردار ہے اور وہ میرا پارہ تن ہے اور میری آنکھوں کا نور ہے۔ میرا میوہ دل ہے اور وہ میری روح ہے جو کہ میرے پہلو میں دھڑکتی ہے۔ وہ انسانی روپ میں حور ہے، وہ جب بھی محراب عبادت میں خدا کی عبادت کے لئے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا نور اہل آسمان کے لئے ایسے چمکتا ہے جیسا کہ اہل زمین کے لئے ستاروں کا نور چمکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر و مہابات کرتے ہوئے کہتا ہے: اے میرے فرشتو! تم میری کنیز کو دیکھو جو کہ تمام کنیزوں کی سردار ہے۔ وہ اس وقت میری عبادت کے لئے میرے سامنے کھڑی ہے۔ دیکھو میرے خوف سے اس کے جسم کے اعضاء س

۱۔ اس سختی کی عربی میں تحریر یہ تھی:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . قَالَ مُحَمَّدُ النَّبِیِّ (ص) لَیْسَ مِنَ الْمَوْمِنِیْنَ مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ جَارَہِ
بِوَانِقِہِ، وَمَنْ كَانَ یَوْمَنْ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یُؤَدِی جَارَہِ . وَمَنْ كَانَ یَوْمَنْ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلِیَقْل
حِیْرًا اَوْ یَسْکُتَ . اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی یُحِبُّ الْحَیْرَ الْحَلِیْمَ الْمُتَعَفِّفَ وَ یُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِذْءَ السَّالِ
الْمُحْلِفَ اِنَّ الْحَیْءَ مِنَ الْاِیْمَانِ وَالْاِیْمَانَ مِنَ الْحِجۃِ وَاِنَّ الْفَاحِشَ مِنَ الْبِذْءِ وَالْبِذْءَ فِی النَّارِ .

طرح سے رز رہے ہیں اور وہ پورے دل کی توجہ سے میری طرف متوجہ ہے۔ میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کے شیعوں کو آتش دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ (یعنی میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے شیعہ دوزخ سے امان میں ہوں گے) مؤلف کہتا ہے اس کے بعد پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

میں جب بھی فاطمہؑ کو دیکھتا ہوں تو میں اس کے ان مصائب و آلام کو یاد کرتا ہوں جو میرے جانے کے بعد اس پر وارد ہوں گے۔ میں گویا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ اس کے گھر کو پریشانی نے آیا ہے اور میرے بعد لوگ اس کا احترام نہیں کر رہے۔ اس کا حق غضب کر لیا گیا ہے۔ اسے حق میراث سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس کا پہلو شکستہ ہو چکا ہے۔ اس کا حمل ساقط ہو گیا ہے اور وہ اس وقت مجھے ”یا محمد اہ“ کہہ کر مدد کے لئے پکار رہی ہے۔ لیکن اس کی آواز پر جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ مدد طلب کر رہی ہے لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ وہ میرے بعد ہمیشہ غمگین اور محزون ہے وہ کبھی سلسلہ وحی کے منقطع ہونے پر روتی ہے اور کبھی میری جدائی کو یاد کر کے روتی ہے اور آدھی رات کے وقت وہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ اسے میری تلاوت قرآن کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور ان لمحات کو یاد کرتی ہے کہ وہ اپنے والد کی زندگی میں کس قدر محترم تھی لیکن اب اس کا احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔

اس وقت خدا اپنے فرشتوں کو اس کا مونٹس قرار دے گا اور فرشتے اس سے باتیں کریں گے جیسا کہ وہ مریمؑ سے کیا کرتے تھے اور وہ اسے آواز دے کر کہیں گے: ”یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک و طهرک واصطفاک علی نساء العالمین. یا فاطمہ اقتنی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین.“ اے فاطمہ! اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں سے ممتاز کیا ہے۔ اے فاطمہؑ اپنے پروردگار کی عبادت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔

پھر میں گویا یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی درد مند ہے اور بیمار

ہے اور اسے تیماردار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مریم بنت عمران کو اس کی تیمارداری کے لئے روانہ کرتا ہے اور وہ اس کی تیمارداری کرتی ہے۔ اس وقت میری بیٹی بارگاہ احدیت میں یوں راز و نیاز کر رہی ہے۔

”خدا یا! میں زندگی سے سیر ہو چکی ہوں، میں تھک چکی ہوں اہل دنیا سے میں نے بہت سے دکھ اٹھائے ہیں اب مجھے میرے والد کے ساتھ ملحق فرما۔“

اللہ اسے مجھ سے ملحق کرے گا وہ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پاس غمگین اور محزون حالت میں آئے گی کہ اس کا حق غصب کیا جا چکا ہوگا اور اسے مار ڈالا گیا ہوگا۔ اور میں اس وقت خدا کے حضور عرض کروں گا۔

”خدا یا جن لوگوں نے اس پر ظلم کیا ہے انہیں اپنی رحمت سے دور فرما اور جن لوگوں نے اس کا حق غصب کیا ہے ان سے پورا بدلہ لے۔ جن لوگوں نے اسے پریشان کیا ہے انہیں ذلیل و خوار فرما اور جنہوں نے اس کے پہلو کو زخمی کیا ہے اور جنہوں نے اس کے حمل کو ساقط کیا ہے انہیں ہمیشہ کے لئے دوزخ میں داخل فرما۔“

اس وقت فرشتے میری دعا کی قبولیت کے لئے آمین کہیں گے۔

حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد

سیدۃ کا حق مہر

بحار میں کتاب اہلبی شیخ کے حوالہ سے مذکور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول خدا نے حضرت زہرا کی حضرت علی سے شادی کی۔ ایک دن آپ فاطمہ کے پاس گئے تو انہیں روتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا: تم کیوں رو رہی ہو؟ خدا کی قسم میرے خاندان میں کوئی مرد علی سے بہتر ہوتا تو میں علی کی بجائے تمہارا نکاح اسی سے کرتا۔ میں نے تمہیں علی کی زوجیت میں دیا اور تمہارا حق مہر دنیا کا شمس قیامت تک قرار دیا گیا ہے۔

سیدۃ کا جہیز

حضرت علی کا بیان ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا اٹھو اور اپنی زرہ بیچ دو۔ میں اٹھا اور میں نے اپنی زرہ فروخت کر دی، اس کی رقم لے کر آنحضرتؐ خدمت میں حاضر ہوا اور ساری رقم میں نے آپ کے دامن میں ڈال دی۔ رسول خدا نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ رقم کتنی ہے اور نہ ہی میں نے رقم کی مقدار ان کی گوش گزار کی۔

پیغمبر اکرمؐ نے اس میں سے کچھ رقم اٹھائی اور بلال حبشیؓ کے حوالے کر کے فرمایا اس رقم سے فاطمہ کے لئے عطر اور خوشبو خرید کرو۔

پھر آپ نے اس رقم میں سے دو مٹھیاں بھریں اور وہ حضرت ابوبکر کے حوالے کیں اور

فرمایا۔ اس رقم سے فاطمہ کے لئے مناسب لباس اور خانہ داری کے لئے ضروری اشیاء خرید کرے۔

آنحضرتؐ نے مدد کے لئے عمار یاسرؓ اور کچھ صحابیوں کو بھی ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ لوگ بازار میں آئے اور جو جو چیز انہیں پسند آتی وہ حضرت ابو بکرؓ کو اس کی نشاندہی کرتے اور اگر وہ مناسب سمجھتے تو اسے خرید کر لیتے تھے۔ ان لوگوں نے بازار سے حسب ذیل اشیاء کی خریداری کی۔

- ۱۔ ایک جوڑا لباس۔ سات درہم کا
- ۲۔ ایک دوپٹہ۔ چار درہم کا
- ۳۔ ایک سیاہ خببری چادر (یا سیاہ عبا)
- ۴۔ کھجور کی رسی سے بنی ہوئی ایک چارپائی۔
- ۵۔ دو عدد لحاف مصری جن میں سے ایک میں پشم اور دوسری میں لیف خرما بھری ہوئی تھی۔
- ۶۔ طائف کے دباغت شدہ جڑے سے بنے ہوئے چار عدد تکیے جن میں خشک گھاس بھری ہوئی تھی۔
- ۷۔ باریک اونٹنی پردہ
- ۸۔ ”حجر“ کے علاقہ کی بنی ہوئی چٹائی
- ۹۔ ہاتھ سے چلنے والی ایک چکی
- ۱۰۔ ایک تانبے کا تھال
- ۱۱۔ پانی کا ایک مشکیزہ
- ۱۲۔ مٹی کا ایک پیالہ
- ۱۳۔ پانی کو ٹھنڈا رکھنے والی مخصوص مشک
- ۱۴۔ مٹی کا آفتاب۔ جس کے پیرونی حصہ پر رنگ ملا ہوا تھا۔

۱۵۔ مہر رنگ کا ایک لونا (مٹی کا)

۱۶۔ مٹی کے چند کوزے

جب ان اشیاء کی تکمیل ہو گئی تو ان میں سے کچھ چیزیں حضرت ابو بکر نے اٹھائیں اور کچھ سامان ان کے ساتھیوں نے اٹھایا اور یوں تمام سامان رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے تمام اشیاء کو الٹ پلٹ کر اچھی طرح سے دیکھا اور فرمایا: ”بارک اللہ لاهل البیت“ اللہ تعالیٰ اسے اہل خانہ کے لئے مبارک کرے۔

سیدۃ کی رخصتی اور ولیمہ عروسی

حضرت علی کا بیان ہے کہ نکاح کو ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ میں روزانہ آنحضرت کی اقتداء میں نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا۔ اس پورے عرصہ میں نے آنحضرت سے رخصتی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

ایک ماہ گزرنے کے بعد ازواج پیغمبرؐ نے مجھ سے کہا: کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ ہم فاطمہ کی رخصتی کے لئے رسول خدا سے کچھ عرض کریں؟ میں نے کہا: آپ بات کریں۔

ازواج جمع ہو کر رسول خدا کے پاس گئیں اور ام ایمنؓ (بعض روایات کے مطابق ام سلمہ) نے عرض کی: ”یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس ایک ایسے کام کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہیں کہ اگر آج خدمتِ زندہ ہوتیں تو اس سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ بات یہ ہے

۱۔ ام ایمنؓ ایک صاحب ایمان اور با عظمت خاتون تھیں۔ وہ رسول کی آزاد کردہ کنیز تھیں رسول خدا کی والدہ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی سرپرستی کی تھی اسی لئے آنحضرت فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد ام ایمنؓ میری ماں ہے۔

بعض مورخین کے بیان کے مطابق ام ایمنؓ حضرت خدمتِ زندہ کی بہن کی کنیز تھیں اور انہوں نے اسے رسول خدا کو بہہ کیا تھا۔ (از مترجم فارسی)

کہ علی اپنی بیوی کی رخصتی چاہتے ہیں۔ آپ فاطمہ زہرا کی آنکھوں کو علی کے دیدار بیتال سے منور فرمائیں اور ہماری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک بخشیں۔“

رسول خدا نے فرمایا علی خود یہ تقاضا کیوں نہیں کرتے جب کہ ہمیں تو توقع تھی کہ وہ خود ہی اس سلسلہ میں اقدام کریں گے؟

حضرت علی نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے یہ درخواست کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی اسی لئے میں کوئی درخواست نہ کر سکا۔

رسول خدا نے فرمایا: اب یہاں کون کون موجود ہے؟

ام سلمہ نے عرض کی: میں حاضر ہوں، زینب حاضر ہے اور فلاں فلاں حاضر ہیں۔

رسول خدا نے فرمایا: ہمارے گھر کے قریب ایک کمرہ کو خیمہ عروسی کے طور پر تیار کرو۔

ام سلمہ نے عرض کی: یا رسول اللہ کون سے کمرے کو سجائیں؟

رسول خدا نے فرمایا: تم اپنے کمرے کو سجاءو۔

پھر آنحضرتؐ نے اپنی ازواج کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدۃ کو دلہن بنانے کے لئے

آراستہ کریں۔

ام سلمہ نے حضرت سیدۃ سے کہا: کیا آپ کے پاس کوئی مناسب خوشبو موجود ہے؟

حضرت فاطمہؑ نے فرمایا: جی ہاں! پھر حضرت سیدۃ ایک عطر کی شیش لے آئیں اور

اس میں سے کچھ عطر حضرت ام سلمہ کی ہتھیلی پر ڈالا۔ حضرت ام سلمہ کے بقول میں نے اتنا خوشبودار عطر کبھی نہیں دیکھا تھا۔

حضرت ام سلمہؑ نے جناب سیدۃ سے پوچھا کہ اتنا اچھا عطر تم نے کہاں سے حاصل کیا؟

حضرت سیدۃ نے فرمایا: وجہ کلیبی میرے ابا جان کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔

میرے والد مجھے فرماتے تھے کہ اپنے چچا کے لئے فرش لاؤ۔ میں فرش لاتی تھی اور بچھاتی تھی اور

وہ اس پر بیٹھ جاتے تھے۔ جب وہ فرش سے اٹھتے تھے تو ان کے لباس کے اندرونی حصے سے

ایک چیز رتی تھی۔ میرے والد مجھ سے فرماتے تھے کہ میں اسے جمع کرتی جاؤں۔ اور یہ وہی خوشبو ہے۔^۱

واضح رہے کہ ایک بار حضرت علی نے بھی رسول خدا سے پوچھا تھا کہ یہ کیا رتا ہے؟ تو آنحضرت نے فرمایا: جبرئیل کے پروں سے عنبر کے ٹکڑے گرتے ہیں۔

پھر رسول خدا نے حضرت علی سے فرمایا اپنی شادی کے لئے اچھے سے ولیمہ کا انتظام کرو۔ ولیمہ کے لئے گوشت اور روٹی ہم فراہم کریں گے اور کھی اور خرما تمہارے ذمہ ہے۔

حضرت علی کا بیان ہے کہ رسول خدا کا فرمان سن کر میں گیا، کھی اور خرما خرید اور رسول خدا کی خدمت میں حاضر کیا۔ پیغمبر اکرم نے اپنی آستینیں چڑھا میں اور خرما اور کھی کو ملانے لگے پھر آپ نے ایک موٹا تازہ گوسفند اور بہت سی روٹیاں ہمارے پاس بھیجیں۔

پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تم جسے بلانا چاہو ولیمہ کے لئے بلاؤ۔

میں مسجد میں گیا وہاں بہت سے اصحاب جمع تھے۔ مجھے شرم محسوس ہوتی تھی کہ کچھ کو دعوت دوں اور کچھ کو نہ دوں۔ بہر حال میں بلند جگہ پر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہا: "احیوا الی ولیمۃ فاطمۃ" (لوگو فاطمہ کی شادی کی دعوت ولیمہ قبول کرو)۔ یہ آواز سن کر سب لوگ دعوت ولیمہ کے لئے چل پڑے۔ جب میں نے لوگوں کی کثرت اور کھانے کی قلت کو دیکھا تو میں شرمندہ ہوا۔

رسول خدا نے میری اس کیفیت کو بھانپ لیا اور فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ چنانچہ آنحضرت کی دعا کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ تمام لوگوں نے سیر ہو کر کھانا

۱۔ وحید بن خلیفہ کلبی رسول خدا کے مشہور صحابی تھے اور ۵۰ سالہین اولین کے ایک فرد تھے اور وہ نہایت خوبصورت شخص تھے۔ کبھی کبھی جبرئیل امین وحید کلبی کی صورت میں نازل ہوتے تھے اور پیغمبر اکرم سے گفتگو کرتے تھے۔ دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا وحید کلبی سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اس روایت میں بھی اس سے مراد حضرت جبرئیل ہیں ۲۸ھ میں حضرت وحید کی وفات ہوئی۔

اسد الغابہ، جلد دوم، صفحہ ۱۳۰۔ استیعاب جلد اول، صفحہ ۲۶۳ (از مترجم قاسمی)

کھایا اور، اے حق میں دعا کی کہ خدا ہمیں برکت دے۔ شرکائے ولیمہ کی تعداد چار ہزار افراد سے زیادہ تھی۔ سب نے جی بھر کے کھانا کھایا مگر کھانے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی پھر آنحضرتؐ نے اپنی ازواج کے لئے کاسے پُر کر کے انہیں بھیجے۔ اور آخر میں آپ نے ایک کاسہ خوراک سے بھرا اور فرمایا: یہ فاطمہ اور اس کے شوہر کے لئے ہے۔

رخصتی

سورج ڈوب گیا تو پیغمبر اکرمؐ نے ام سلمہؓ سے فرمایا کہ فاطمہ کو یہاں لے آؤ۔ ام سلمہؓ حضرت فاطمہ کو دلہن بنا کر آنحضرتؐ کے پاس لے آئیں اس وقت سیدہ کی چادر کا پوزمین پر خط کھینچ رہا تھا انہیں شرم وحیا سے مارے پینہ آ رہا تھا اور ان کے پاؤں لڑھک رہے تھے۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا، آخرت کی اعزاز سے محفوظ رکھے۔“

جب سیدہ رسول خداؐ کے سامنے آئی تو آپ نے ان کے رخ اصرہر تلاب بنانی حضرت علیؑ نے ان کے جمال کا دیدار کیا۔ پھر آپ نے سیدہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علیؑ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا بارک اللہ لک فی اللہ رسول اللہ

وخت پیغمبر کو اللہ تمہارے لئے مبارک کرے۔ اے علیؑ! فاطمہ بہترین بیوی ہے۔ اور

اے فاطمہ! علیؑ بہترین شوہر ہے۔ اب تم اپنے سہرے جاؤ اور وہاں میرا انتظار کرو۔

حضرت علیؑ بیان کرتے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو کمرے کے ایک کونے میں بٹھایا اور خود کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھ گیا اور ۱۰۰۰ شہت شرم کی وجہ سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔

پیغمبر اکرمؐ کی آمد اور زوجین کو مبارک باد

آنحضرتؐ کے بعد رسول خداؐ کے دو نواسے پوتے تشریف لائے اور فرمایا: یہاں کون ہے؟

میں نے کہا یا رسول اللہ! آپ تشریف لائے۔ آپ کی آمد پر ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔

رسول خداؐ ہر میں تشریف لائے اور آپؐ نے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی فاطمہ زہراؑ سے فرمایا
فاطمہ! اٹھو اور تھوڑا سا پانی لاؤ۔

یہ سن کر فاطمہ انھیں اور پانی کا پیالہ بھر کر آنحضرتؐ کی خدمت میں لائیں۔
آنحضرتؐ نے اس میں سے کچھ پانی ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈالا اور کھلی کر کے کلی دیا، پانی اس
پیالے میں ڈالا اس کے بعد آپؐ نے اس میں سے کچھ پانی فاطمہ زہراؑ کے سر پر ڈالا۔ اور فرمایا۔
میری طرف منہ کرو۔ جب فاطمہ زہراؑ نے آنحضرتؐ کی طرف منہ کیا تو آپؐ نے کچھ پانی ان
کے سینے پر ڈالا اور کچھ پانی آپؐ نے ان کے شانوں کے درمیان چھڑک دیا اور یہ دعا فرمائی۔
پروردگارا! یہ میری بیٹی ہے اور مجھے یہ تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے اور پروردگارا! یہ
(علیؑ) میرا بھائی اور تمام مخلوق میں سے مجھے سب سے پیارا ہے۔ خدایا! اسے اپنا واپس لے اور مددگار
بنا اور اس کے اہل کو اس کے لئے مبارک فرما۔

پھر آپؐ نے حضرت علیؑ کی طرف رخ کر کے فرمایا: علیؑ اب تم اپنے بن کے قریب
جاؤ۔ اور خدا تمہارے لئے تمہاری بیوی باریت بنائے اور تم پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں کہ
وہ لائق حمد و ستائش ہے۔

ایک اور روایت میں مذکور ہے

میرالمومنین نے فرمایا: فاطمہ زہراؑ کی رخصتی کے بعد تین دن تک رسول کریمؐ ہمارے
پاس نہ آئے اور بدھ کی صحیح آپؐ ہمارے گھر میں تشریف لانے اس وقت اسما بنت عمیسؑ
ہمارے گھر میں موجود تھیں، رسول خداؐ نے فرمایا:

اس گھر میں جب ایک مرد موجود ہے اس کے باوجود تم یہاں کیوں ٹھہری ہوئی ہو؟
اسما نے عرض کی میرے ماں باپ آپؐ پر قربان! جب کوئی عورت دین بن کر شوہر
کے گھر جاتی ہے تو اسے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ضروریات کا خیال کرے
میں اسی نے یہاں ٹھہری ہوئی ہوں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اے اسماء! خداوند عالم تمہاری دنیا و آخرت

کی جملہ حاجات پوری فرمائے۔^۱

امیر المؤمنین علی کا بیان ہے۔ اس دن بڑی سردی تھی۔ میں نے اور فاطمہ نے اپنے

آپ کو عباء سے چھپایا ہوا تھا اسی اثناء میں ہم نے رسول اکرم کی آواز سنی۔ ہم نے چاہا کہ
کھڑے ہو جائیں مگر آپ نے فرمایا: تمہیں میرے حق کی قسم! میرے آنے تک جدانہ ہونا۔

آنحضرت تشریف لائے اور ہمارے سر ہانے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے پاؤں گرم
کرنے کے لئے عبا میں داخل فرمائے اور میں اور فاطمہ دونوں مل کر آپ کے پاؤں گرم کرنے
گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: پانی کا کوزہ لاؤ۔ میں نے پانی کا کوزہ آپ کی خدمت میں پیش
کیا۔ آپ نے قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ کر اس پر تین بار دم کیا اور مجھے حکم دیا کہ تم یہ اپنی پی
لو اور اس میں سے تھوڑا سا پانی پچانا۔

میں نے آپ کے فرمان پر عمل کیا۔ آپ نے باقی ماندہ پانی میرے سر اور سینے پر

چھڑک کر فرمایا: ”أذهب اللہ عنک الرجس یا ابا الحسن وطہرک تطہیراً“ یعنی
اے ابو الحسن! اللہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی طہارت عطا کرے جیسا کہ
طہارت کا حق ہے۔

۱۔ اس روایت میں اسماء بنت عمیس کا ذکر موجود ہے۔ اس وقت حضرت اسماء جناب جعفر بن ابی طالب کے
جہلہ عقد میں تھیں اور اس وقت حضرت جعفر حبشہ میں نجاشی کے دربار میں موجود تھے۔ اسی لئے بعض حضرات کا
خیال ہے کہ نام میں تسامح ہوا ہے۔ اس وقت اسماء کی بجائے ان کی بہن سلیمی بنت عمیس حضرت حمزہ کی زوجہ
موجود تھیں اور انہوں نے یہ فرائض انجام دیئے تھے۔ (اعیان الشیعہ، جداول، طبع ارشاد، از مترجم فارسی)

عرض مترجم اردو حقیقت یہ ہے کہ بعض حضرات کو یہ خواہ مخواہ اشتباہ ہوا ہے روایت اتنی مشہور اور مستند
ہے کہ اس میں کسی طرح کی تاویل کی برگز گنجائش نہیں ہے اس کے لئے آیت اللہ محمد کاظم قزوینی کی کتاب
”فاطمۃ الزہراء من المہدالی اللحد“ کا مطالعہ فرمائیں اور مذکورہ کتاب کا ترجمہ روز زبان میں خاسر
نے ”فاطمہ زہرا از ولادت تا شہادت“ کے نام سے کیا ہے۔ اہل تحقیق مذکورہ کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔

پھر آپ نے فرمایا کہ اور تازہ پانی لاؤ میں برتن میں پانی لے آیا تو آپ نے اس پر قرآن مجید کی تین آیات پڑھیں اور تین بار دم کیا۔ پھر آپ نے فاطمہ سے فرمایا کہ وہ اس پانی میں سے تھوڑا سا بچا کر باقی پی لیں۔ چنانچہ فاطمہ نے ایسا ہی کیا۔ آنحضرتؐ نے باقی ماندہ پانی ان کے سر اور سینہ پر چھڑکا اور فرمایا: "أذهب الله عنك الرجس وطهرک تطهیراً" اللہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں ایسی طہارت عطا کرے جیسا کہ طہارت کا حق ہے۔

پیغمبر اکرمؐ کی سیدہ کو چند نصیحتیں

حضرت علیؑ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: پیغمبر اکرمؐ نے ہماری ملاقات کے بعد مجھ سے فرمایا کہ تم کچھ دیر کے لئے باہر چلے جاؤ۔ میں باہر چلا گیا پھر آپ زہرا کے ساتھ گھر میں تنہا بیٹھ گئے اور باپ بیٹی میں اس طرح کی خصوصی گفتگو ہوئی۔

پیغمبر اکرمؐ پیاری بیٹی! تمہارا کیا حال ہے اور تم نے اپنے شوہر کو کیا پایا؟

فاطمہ: ابا جان! میں نے اپنے شوہر کو بہترین شوہر پایا ہے لیکن قریش کی چند عورتیں میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے مجھے طعنہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ رسول خداؐ نے ایک غریب و مفلس شخص سے تمہاری شادی کی ہے۔

پیغمبر اکرمؐ: میری پیاری بیٹی! نہ تو تیرا باپ غریب ہے اور نہ ہی تیرا شوہر غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام سونے اور چاندی کے ذخائر میرے اختیار میں دیئے لیکن میں نے ان کے بدلے میں جزائے خداوندی کو منتخب کیا ہے۔

دختر عزیز! جو کچھ تمہارے والد کو معلوم ہے اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے تو تم بھی میری طرح سے دنیا کو حقیر اور ناچیز سمجھو گی۔ خدا کی قسم! میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کمی روا نہیں رکھی۔ تمہارا شوہر اسلام کی طرف سبقت کرنے میں سب سے مقدم ہے۔ اور علم کے لحاظ سے وہ سب سے بڑا عالم ہے اور علم میں وہ تمام لوگوں سے بڑا حلیم ہے۔

بیاری بیٹی! جب اللہ نے اہل زمین پر خصوصی توجہ کی تو اس نے پوری روئے زمین میں سے دو افراد کا انتخاب کیا۔ ایک کو تمہارا والد قرار دیا اور دوسرے کو تمہارا شوہر قرار دیا۔ دختر عزیز! تمہارا شوہر بہترین شوہر ہے۔ تمام امور میں اس کی اطاعت کرنا۔

پیغمبر اکرم کی حضرت علیؑ کو نصیحت

حضرت علیؑ نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا: پھر پیغمبر اکرمؐ نے مجھے صدا دی۔ میں داخل ہوا تو فرمایا: اپنی بیوی سے محبت اور مہربانی کرتے رہنا کیونکہ فاطمہؑ میرے بدن کا حصہ ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے بھی ناراض کیا اور جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں اور اسی کو تمہارا محافظ قرار دیتا ہوں۔

حضرت علیؑ فرمایا کرتے تھے فو اللہ ما اغضبتہا ولا اکرہتہا علی امر حتی قبضہا اللہ عزوجل الیہ والا اغضبتہنی ولا عصت لی امرا ولقد کنت انظر الیہا فیکشف عنی الهموم ولا حزان۔

خدا کی قسم! میں نے انہیں کبھی ناراض نہیں کیا تھا اور نہ کسی کام پر مجبور کیا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا۔ اور انہوں نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا اور کسی معاملہ میں میری نافرمانی نہیں کی۔ میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا تو میرے تمام رنج و الم دور ہو جاتے تھے۔

کنیز کا تقاضا اور تسبیح کی تعلیم

پھر رسول اللہؐ جانے کے لئے اٹھے تو فاطمہؑ زہراؑ نے گھر کے کام کاج کے لئے ان سے کنیز کا تقاضا کیا۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: کیا تم کنیز سے بہتر چیز چاہتی ہو؟

تو میں نے فاطمہؑ سے کہا کہ تم ہاں کہہ دو۔

فاطمہؑ زہراؑ نے عرض کی: ابا جان! میں کنیز سے بہتر چیز کی خواہش مند ہوں۔

پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: روزانہ ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور
 ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ زبان پر یہ سوا الفاظ دکھائی دیتے ہیں لیکن میزان اعمال میں ایک
 ہزار جزا کے موجب ہیں۔

فاطمہ! اگر روزانہ یہ تسبیح صبح سویرے کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیوی اور اخروی
 امور میں کفایت کرے گا۔

شیخ طوسیؒ کی کتاب مصباح المتعجد میں منقول ہے۔

حضرت فاطمہؑ کی رخصتی ماہ ذی الحجہ کی یکم تاریخ کو ہوئی تھی۔ اور بعض راویوں سے یہ
 بھی روایت ہے کہ چھ ذی الحجہ کو حضرت سیدہ کی رخصتی ہوئی تھی۔

روداد سقیفہ بعد رحلت پیغمبرؐ

شیخ طوسی تلخیص الثانی، علامہ طبری کتاب الاحتجاج اور مشہور سنی عالم ابن الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں احمد بن عبدالعزیز جوہری کی کتاب السقیفہ کے حوالہ سے سقیفہ کی جو روداد نقل کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

اجتماع انصار

حضرت رسول اکرمؐ کی وفات حسرت آیات کے بعد انصار مدینہ سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے اور وہ بنی خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو خلافت رسول کے عہدہ پر نامزد کرنے کے لئے ان کے گھر سے باہر لائے۔ اس وقت سعد بن عبادہ بیمار تھے اسی لئے ان کے لئے سقیفہ میں بستر بچھا دیا گیا۔ انہوں نے سقیفہ میں حاضرین سے خطاب کیا اور انہیں دعوت دی کہ وہ زمام امور ان کے ہاتھوں میں دیدیں۔

تمام انصار جو کہ اس دہاں موجود تھے انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر مہاجرین نے یہ کہا کہ ہم نے رسول خداؐ کے ساتھ ہجرت کی اور ہم ان کے پرانے رفیق ہیں اور ہمارا تعلق بھی رسول خداؐ کے خاندان سے ہے۔ اس لئے باوجود تم نے

ہم سے خلافت و امارت میں جھگڑا کیوں کیا، تو اس سوال کا ہم یہاں جواب دیں گے؟

اس سوال کے جواب میں ایک انصاری نے کہا: اُمّ مہاجرین نے ہم سے یہ بات کی تو ہم نے کہا: اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا "منا امیر و منکم امیر" ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو۔ اس تجویز کے علاوہ ہم اور کوئی تجویز قبول نہیں کریں گے۔

جب سعد بن عبادہ نے انصار سے یہ گفتگو سنی تو ان سے کہا: "ہذا اول الوہن" یہ تمہاری طرف سے سستی اور مخالفت کی ابتدا ہے۔^۱

شیخین کی سقیفہ آمد اور حضرت ابو بکر کی تقریر

حضرت عمر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ آپ گھر سے باہر آئیں اور فوراً مجھ سے ملاقات کریں۔

حضرت ابو بکر نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ فی الحال میں مصروف ہوں۔

حضرت عمر نے انہیں دوبارہ پیغام بھیجا کہ ایک اہم واقعہ ہو چکا ہے اس کے لئے آپ کا یہاں آنا بہت ضروری ہے۔ آپ لازمی طور پر آئیں۔

یہ پیغام سن کر ابو بکر اٹھے اور حضرت عمر سے ملاقات کی۔

حضرت عمر نے ان سے کہا کہ انصار سقیفہ بن ساعدہ میں جمع ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خلافت کی باگ ڈور سعد بن عبادہ کے سپرد کریں۔ ان میں سے ایک نیک ترین شخص نے یہ تجویز رکھی ہے کہ ایک امیر ہم نے منتخب کر لیا ہے اور ایک امیر مہاجرین منتخب کریں۔

حضرت ابو بکر یہ سن کر سخت پریشان ہوئے اور وہ حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ لے کر فوراً سقیفہ بن ساعدہ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ سقیفہ میں پہنچے تو وہاں بہت بڑا مجمع پہلے سے موجود تھا۔

حضرت عمر کا بیان ہے: جب ہم سقیفہ پہنچے تو میں نے چاہا کہ میں کھڑا ہو کر تقریر

۱۔ شرح صحیح البلاغ ابن ابی الحدید، جلد ششم، ص ۶۔

کروں لیکن ابوبکر نے مجھ سے کہا: خاموش رہو میں گفتگو کروں گا اور میری تقریر کے بعد تمہیں جو کچھ کہنا ہو کہہ دینا۔

حضرت ابوبکر نے تقریر کی۔ اور حضرت عمر کے بقول ان کی تقریر اتنی جامع تھی کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا انہوں نے وہ سب کچھ کہہ ڈالا۔

حضرت ابوبکر نے حمد پروردگار کے بعد کہا:

”اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو اپنی نبوت و رسالت اور لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا اور اللہ نے انہیں اپنی امت پر شاہد مقرر کیا تاکہ ان کی امت خدائے واحد کی عبادت کرے اور ہر قسم کے شک سے دوری اختیار کرے۔ آنحضرتؐ اس دور میں مبعوث ہوئے جب کہ لوگوں نے اپنے لئے بہت سے خد تراش رکھے تھے اور لوگ ان کی پوجا کرتے تھے اور وہ انہیں اپنا معبود تصور کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان کے تراشے ہوئے معبود ان کی شفاعت کریں گے اور انہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ حالانکہ وہ معبود پتھر اور لکڑی سے تراشے ہوئے تھے۔“

پھر انہوں نے یہ آیت پڑی ”ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم“ (سورۃ یونس آیت ۱۸) اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ دے سکتے ہیں۔

”اہل عرب کو اپنے آباء اجداد کا دین چھوڑنا مشکل دکھائی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اولین کو آنحضرتؐ کی تصدیق کا امتیاز عطا فرمایا وہ آپؐ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس راستہ میں بڑے ایثار سے کام لیا۔ آپؐ کی حمایت کی اور بدترین حالات اور مشرکین کی اذیت و تکالیف پر صبر و استقامت سے کام لیا۔

مہاجرین وہ پہلے افراد ہیں جنہوں نے زمین پر اللہ کی عبادت کی اور خدا اور رسول پر ایمان لائے۔ مہاجرین پیغمبر خدا کے اصحاب اور ان کے رشتہ دار ہیں اور مہاجرین ہی پیغمبر خدا کی رحلت کے بعد لوگوں کی رہنمائی و صحیح اہلیت رکھتے ہیں اور اس کے متعلق جو بھی ان کی

مخالفت کرے وہ ظالم ہے۔

”رود انصار! تم بھی دین میں ان کی برتری اور امتیاز کا انکار نہیں کر سکتے اور ان کی سبقت اسلام کو رد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین اور پیغمبر کے مددگار کے طور پر قبول کیا ہے۔ اور رسول خدا کی ہجرت بھی تمہاری طرف ہوئی۔“

آنحضرتؐ کی بہت سی ازواج اور بہت سے اصحاب کا تعلق بھی تم سے ہے اور مہاجرین اولین کے علاوہ کوئی بھی شخص تمہارے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔

”فحن الامراء وانتم الوزراء“ ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر ہو گے۔ ہم تم سے مشورہ میں کوئی مضائقہ نہیں کریں گے اور تمہاری شرکت کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔“

چند دیگر افراد کی گفتگو

حضرت ابو بکرؓ کی اس تقریر کے بعد حباب بن منذر بن جموح انصاری نے اٹھ کر کہا۔

”رود انصار! اپنے معاملہ پر اچھی طرح سے ڈٹ جاؤ کیونکہ یہ لوگ تمہارے ہی زیر سایہ رہ رہے ہیں اور کسی کو تمہاری مخالفت کی جرأت نہیں ہے اور کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر زمام امور کو سنبھال سکے۔ تم عزت دار اور عظمت و جمعیت اور قوت رکھنے والے لوگ ہو۔ اس وقت لوگوں کی نظریں تمہارے ہی فیصلوں پر مرکوز ہیں۔ اس لئے تمہیں چاہئے کہ آپس میں اختلاف نہ کر، ورنہ تمہارے امور تباہ ہو جائیں گے اگر اس کہنے سننے کے باوجود بھی یہ لوگ ہماری بات کو تسلیم نہ کریں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایک رہبر ہم میں سے اور ایک رہبر ان میں سے منتخب ہونا چاہئے۔“

یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا۔ ”بیہات! دو تلواریں ایک نیام میں نہیں سما سکتیں۔ عرب اس بات پر بھی راضی نہ ہوں گے کہ ان کا امیر انصار میں سے ہو۔ کیونکہ پیغمبر کا تعلق تمہارے قبیلہ سے نہیں تھا۔ البتہ عرب اس بات کو ماننے پر آمادہ ہو جائیں گے کہ ان کے رہبر کا تعلق ان

کے پیغمبر کے قبیلہ سے ہو۔ کس میں یہ جرأت ہے کہ وہ رسول خدا کی چاشنی کے نئے ہم سے جھگڑا کرے کیونکہ ہم پیغمبر کے اصحاب اور ان کے اہل خاندان ہیں۔“

حضرت عمر کی تقریر کے بعد حباب بن منذر اٹھے اور انہوں نے کہا: اے گروہ انصار! اپنے فیصلے پر قائم رہو اور اس شخص اور اس کے ساتھیوں کی باتوں کو قبول نہ کرو۔ یہ لوگ تم سے مقام رہبری ہتھیانا چاہتے ہیں اور اگر یہ لوگ تمہاری مخالفت کریں تو انہیں اپنے شہر سے نکال باہر کرو۔ کیونکہ تم لوگ ہی مقام خلافت کے زیادہ حق دار ہو۔ شہر سے نکلنے پر تمہاری تلواریں انہیں مجبور کر سکتی ہیں۔ لوگ اس امر میں تمہارے ہم نوا ہیں۔ میں اس سلسلے میں ایک محکم اور ضلع ناپذیر ستون کی طرح مضبوطی سے جمع ہوا ہوں اور میں اس ٹکڑی کی طرح کھڑا ہوں جو کہ اونٹوں کے بازوؤں کے ساتھ نصب کی جاتی ہے اور خارش اوتٹ اس سے اپنے جسم کی خارش مناتے ہیں اور میں اس درخت خرما کی طرح قائم ہوں جو کسی دیوار یا ستون سے وابستہ ہو اور میں شیر کی طرح کسی سے نہیں ڈرتا اور میں شیر جیسا جگر رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم! اگر تمہاری خواہش ہو تو میں اس (عمر) کے سینگ کاٹ سکتا ہوں۔

عمر بن خطاب نے کہا: ”اس شکل میں خدا تجھے قتل کر دے گا۔“

حباب نے کہا: ”خدا تجھے ہلاک کرے گا۔“

اس وقت ابو عبیدہ بن جراح نے کھڑے ہو کر کہا: ”اے گروہ انصار! مدینہ میں رسول خدا کی مدد کرنے والے تم پہلے لوگ ہو اور اب نظام اسلام میں تغیر و تبدل کرنے میں پہل نہ کرو۔“

بشیر بن سعد جو کہ نعمان بن بشیر کا باپ تھا، وہ اٹھا اور اس نے کہا: ”اے گروہ انصار! آگاہ رہو کہ محمد مصطفیٰ قریش میں سے تھے اور ان کے رشتے دار ان کے زیادہ قریب ہیں۔ خدا کی قسم تم مجھے رہبری کے مسئلے میں ان سے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔“

بیعت ابوبکر

پھر حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور کہا: یہ عمر اور ابوعبیدہ یہاں موجود ہیں تم لوگ ان دونوں میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو۔

عمر اور ابوعبیدہ نے کہا: خدا کی قسم ہم حصول خلافت کے لئے آپ پر سبقت نہ کریں گے۔ آپ مہاجرین کی بہترین شخصیت ہیں۔ آپ نماز قائم کرنے میں رسول خدا کے چائین ہیں جو کہ دین کا بہترین حکم ہے! آپ ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔

حضرت ابوبکر نے حضرت عمر اور ابوعبیدہ کے لئے اپنا ہاتھ دراز کیا تو بشیر بن سعد نے ان دونوں سے سبقت کرتے ہوئے ان کی بیعت کی۔

حباب بن منذر انصاری نے چیخ کر کہا: بشیر! وائے ہو تجھ پر! تو نے اپنے چچا زاد کی حکومت پر حسد کیا۔

قبیلہ اوس کے سردار اسید بن حنیف نے اپنے ساتھیوں کی طرف منہ کر کے کہا اگر تم نے ابوبکر کی بیعت نہ کی تو قبیلہ خزرج تم پر برتری حاصل کر لے گا۔ یہ سن کر اسید کے ساتھی اٹھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی اور یوں قبیلہ اوس کی مخالفت کی وجہ سے سعد بن عبادہ شکست کھا گئے اور خلیفہ منتخب نہ ہو سکے۔

پھر تمام اطراف سے لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی۔ سعد بن عبادہ جو کہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے وہ لوگوں کے پیروں تلے پامال ہونے لگے، انہوں نے پکار کر کہا: تم نے مجھے مار ڈالا۔

حضرت عمر نے کہا: سعد کو قتل کر دو۔ خدا اسے قتل کرے۔^۱

۱۔ یہ عبارت شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدیدہ جلد ۱ صفحہ ۱۷۷ سے لی گئی ہے

سعد کی تند و تیز گفتگو اور بیعت سے انکار

ان وقت سعد کے فرزند قیس بن سعد اٹھے، انہوں نے حضرت عمرؓ کی ڈاڑھی پزیر اور بہا فرزند شیبک! تو جنہوں میں بھاگتا رہا اور بزدلی دکھاتا رہا لیکن حالت امن و امن میں آج لوگوں میں شیر بن بیضا۔ اُس سعد کے سر کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو میں تیرے چہرے پر ایسا زخم لگاؤں گا کہ تیرے چہرے کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی۔

حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا: سکون سے کام لو اور مدارات اختیار کرو کیونکہ مدارات سے کام سنور سکتے ہیں۔

سعد بن عبادہ نے حضرت عمر سے کہا: فرزند ضحاک! (ضحاک حضرت عمر کی ایک دادی تھیں جن کا تعلق حبش سے تھا) خدا کی قسم! اگر آج میں کھڑا ہونے کے اائق ہوتا اور بیمار نہ ہوتا تو آج تم اور ابوبکر مدینہ کی گلیوں میں ہی مجھے شیر کی طرح گر جتا ہوا پاتے اور میری رُج کی ہیبت سے تم مدینہ سے باہر چلے جاتے اور میں تم دونوں کو تمہاری قوم سے ملحق کر دیتا جہاں تم دونوں ذلیل و تابع ہوا کرتے تھے۔ جہاں دوسرے لوگ تم پر حکومت کرتے تھے۔ اے گروہ خزرج! مجھے شور شرابہ کی جگہ سے لے چلو۔

ان کی قوم نے انہیں بستر سے اٹھایا اور انہیں ان کے گھر لے گئے۔ بعد میں حضرت ابوبکر نے سعد کو پیغام بھیجا کہ لوگ میری بیعت کر چکے ہیں تم بھی میری بیعت کرو۔

سعد نے جواب میں کہلا بھیجا: خدا کی قسم! میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا جب تک میرے ترکش میں تیر ہو گا وہ تمہاری طرف روانہ کروں گا اور اپنے نیزے کی انی کو تمہارے خون سے رنگین کروں گا اور جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے تو میں تم سے جنگ کرتا ہوں گا اور تمہیں یہ بھی علم ہونا چاہئے کہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے میں میرا ہاتھ کوتاہ نہیں ہے میں اپنے خاندان اور پیروکاروں ہیبت تم سے جنگ کروں گا۔

خدا کی قسم! اگر تمام جن وانس بیع ہو کر مجھے تمہاری بیعت کے لئے مجبور کریں گے تو بھی میں تم دو کناہگاروں کی بیعت نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے خدا سے مددت کروں اور اپنے مقدمہ خدا کے حضور پیش کروں۔

جب ابو بکر کے سامنے سعد کا جواب پیش کیا گیا تو حضرت عمر نے کہا اب اس سے بیعت لینے کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں ہے۔

بشیر بن سعد نے حضرت عمر سے کہا: عمر! سعد بڑی بیعت نہیں کریں گے اگرچہ نہیں قتل بھی ہونا ہو پھر بھی وہ بیعت نہیں کریں گے اور اگر انہیں قتل کیا گیا تو وہ اکیلے قتل نہیں ہوں گے ان کے ساتھ اس و خزرج کے قبیلے بھی قتل ہوں گے۔ آپ انہیں ان کے حال پر رہنے دیں ان کی عیادت آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی۔

حضرت عمر اور ان کے ہم نوا افراد نے بشیر بن سعد کے مشورہ کو قبول کیا اور سعد کو ان کے حال پر رہنے دیا۔

سعد بن عبادہ نماز میں ان کے ساتھ شرکت نہیں کرتے تھے، تنازعات کے لئے ان سے فیصلہ طلب نہیں کرتے تھے۔ اگر انہیں مددگار میسر آجاتے تو وہ ان سے ضرور جگمگ کرتے۔ حضرت ابو بکر کے عہد میں وہ اسی طرح سے رہے اور حضرت عمر کے عہد خلافت میں بھی ان کی پرانی روش جاری رہی۔ وہ حضرت عمر کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے تھے اسی لئے وہ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد خلافت عمر کے دوران مقام ”حوران“ میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے شیخین میں سے کسی کی بیعت کا فائدہ اپنی گردن میں نہیں ڈالا۔

ان کی موت کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ رات کے وقت انہیں نامعلوم مقام سے تیر لگا جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گئے اور یار لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ انہیں رات کی تاریکی میں قوم جنات نے تیر مار کر ہلاک کر دیا۔^۱

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید۔ جلد ۲۔ صفحہ ۷۔ اور ۸۲۶۔ قاموس الرجال جلد ۲۔ صفحہ ۳۲۸

افسانہ طرازی

مشہور مورخ بلاذری نقل کرتے ہیں

حضرت عمر بن خطاب نے خالد بن ولید اور محمد مسلمہ انصاری کو اشارہ کیا تھا کہ وہ سعد بن عبادہ کو قتل کر دیں۔ دونوں نے سعد پر تیر برسائے اور وہ تیر لگنے سے قتل ہو گئے۔ پھر لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ سعد کو قوم جنات نے قتل کیا ہے اور ایک شعر بھی بنا کر مشہور کر دیا کہ جنات نے قتل کے بعد یہ شعر پڑھا تھا:

نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ

فرمیناہ بسہمین فلم یخطافوادہ

ہم نے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو قتل کیا۔ ہم نے اس پر دو تیر برسائے اور وہ ٹھیک ٹھیک دل کے نشانے پر جا کر لگے۔

سقیفہ کے متعلق ابن ابی الحدید کی ایک اور روایت

مشہور سنی عالم ابن الحدید اپنے اسناد سے رقم طراز ہیں۔ جب پیغمبر اکرمؐ نے وفات پائی تو انصار نے سعد بن عبادہ کے پاس اجتماع کیا۔ اور بعد میں ابو بکر و عمر ابو عبیدہ ان کے پاس گئے۔ حباب بن منذر انصاری نے کہا ”منا امیر و منکم امیر“ ایک سربراہ ہم میں سے ہے اور ایک تم میں سے ہونا چاہئے۔ اور اس نے مزید کہا: خدا کی قسم اے رُوہ مہاجرین! ہم تمہاری قیادت اور رہبری پر حسد نہیں کرتے لیکن ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ہم نے اسلامی غزوات میں جن کفار اور قریش کے افراد کو قتل کیا ہے، کل کو ان کے بیٹے اور بھائی حکمران بن جائیں گے اور وہ ہم سے انتقام لیں گے۔

ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت نقیب ابو جعفر یحییٰ بن محمد عسوی کے سامنے پڑھی تو انہوں نے کہا: ”میں حباب بن منذر کی فہم و فراست کی تصدیق کرتا ہوں اس نے جس

خطر کی پیشین گوئی کی تھی وہ آخر کار سچ ثابت ہوئی۔ یزید بن معاویہ نے ۳۵ھ میں جنگ حرہ کے ذریعہ سے مقتولین بدر کا انتقام انصار مدینہ سے لیا تھا۔

(۱) القحورہ میں یزیدی افواج نے دس ہزار مسلمانان مدینہ کو قتل کیا تھا، مگر دونوں خواتین کی سمیت اسی کی گئی اور مسجد نبوی میں تین دن تک گھوڑے بندھے رہے۔ یقیناً حباب بن منذر کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔

پھر ابو جعفر یحییٰ بن سلوی نے مجھ سے کہا: ”رسول خدا کو اندیشہ تھا کہ ایسے ظالم افراد برسرِ اقتدار آئیں گے جو ان کے اہل بیت اور ان سے وابستہ افراد پر ظلم و ستم کریں گے۔ رسول اکرمؐ کے زمانے میں بہت سے مشرکین قتل ہوئے تھے اسی لئے آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ مقتولین کے رشتہ دار برسرِ اقتدار آگئے تو وہ اپنے مقتولین کا انتقام ان کی صاحبزادی اور ان کی اولاد سے لیں گے۔ اسی خطرہ کو بھانپ کر آپ نے اپنے ابن عم کی خلافت و رہبری کا اعلان کیا تھا تاکہ وہ اور ان کی اولاد مستقبل کے خطرات سے محفوظ رہ سکے۔ کیونکہ اگر پیغمبر اکرمؐ کی عزت زمام امور کو اپنے ہاتھوں میں لیتی تو یہ حضرت علیؑ اور ان کے اہل بیت کی باتوں کی حفاظت کے لئے بہتر ہوتا۔ بہ نسبت اس کے کہ بیگانے حاکم ہوں۔ لیکن قضا و قدر نے ان کی مدد نہ کی اور حادثات نے دوسرا رخ اختیار کر لیا اور اولاد رسولؐ کا جو انجام ہوا اس سے تم بخوبی آگاہ ہو۔“

بہر کیفیت میں یہ خطرہ کہنے کے صرف اپنے بھیوت کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لئے ہی حضرت علیؑ کی خلافت کا اعلان نہیں کیا بلکہ حضرت علیؑ کی صداقت و سچائی یعنی ان کے علم، حلم، شجاعت، اہانت اور صداقت اور صحابہ اہل بیت کو مد نظر رکھ کر ان کی جانشینی کا اعلان کیا تھا۔ (مترجم فارسی)

کچھ حوادث اور سقیفہ کے عواقب

علیٰ اور بنی ہاشم کی سقیفہ سے لاطعلقہ

شیخ مفید التوفیٰ ۳۱۳ھ کتاب ارشاد میں رقم طراز ہیں

رسول خدا کی وفات کے بعد حضرت علیٰ رسول خدا کے غسل و کفن و دفن میں مصروف تھے اور اس عظیم صدمہ کی وجہ سے بنی ہاشم لوگوں سے جدا تھے۔ لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اس موقع کو مسند خلافت اور تعیین خیفہ کے لئے موزوں ترین وقت سمجھتے ہوئے حضرت ابوہریرہ کو خیفہ مقرر کیا۔ انصار میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا اور مکہ کے طلقاء اور موآلفۃ القلوب قسم کے افراد نے خیال کیا کہ مسئلہ خلافت کو تاخیر میں ڈالنا مناسب نہیں ہے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر بنی ہاشم فارغ ہو گئے تو پھر ان کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ اسی لئے انہوں نے بنی ہاشم کی مسعودیت کے دوران حضرت ابوہریرہ کو خیفہ منتخب کر لیا۔ اس انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابوہریرہ سقیفہ میں موجود تھے اور ان کی خلافت وادارت کے لئے وہاں تمام لوازم موجود تھے جس کے تحت ان کا انتخاب آسان تھا۔ ان لوازم و سہولتوں کی تفصیل اس کتاب میں بیان نہیں کی جاسکتی۔ البتہ اس کی تفصیل ہم دوسری جگہ پر بیان کریں گے۔

گفتار علیؑ

روایت ہے جب حضرت ابوہریرؓ کی بیعت مکمل ہو گئی تو ایک شخص حضرت عیسیٰ کے پاس آیا۔ اس وقت آپ بیچلے سے قبر رسوں کی مٹی ہموار کر رہے تھے، اس نے آپ سے کہا: لوگوں نے ابوہریرؓ کی بیعت کر لی ہے اور رہبری و قیادت کے مسئلہ میں انصار کو شکست ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے خود ان میں اختلاف ہو گیا تھا اور طلقاء نے آگے بڑھ کر اس شخص کی بیعت کر لی انہیں یہ خوف لاحق تھا کہ کہیں خلافت آپ کے پاس نہ آجائے۔

حضرت علیؑ نے بیچلے زمین پر رکھ دیا اور اس کا دستہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اور آپ نے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . اَلَمْ . اِحْسَبِ النَّاسَ اَنْ یَّتْرٰکُوْا اَنْ یَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهَمْ لَا یَفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فْتَنَّا الدّٰیْنِ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ الْکٰذِبِیْنَ ۝ اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ السَّیِّئٰتِ اَنْ یَّسِیْقُوْنَا سَآءَ مَا یَحْكُمُوْنَ - (سورہ عنکبوت آیات ۳۱ تا ۳۲)

بِنا مِ خدائے رحمان و رحیم۔ اَلَمْ۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے اور اللہ تو بہر حال جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون سچے لوگ ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اور کیا برائی کرنے والوں کا خیال ہے کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے یہ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔

ابوسفیان کی پیش کش کو ٹھکرانا

وفات پیغمبر کے بعد ابوسفیان در پیغمبر پر آیا۔ حضرت علیؑ اور عباسؑ دیکھنے چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ابوسفیان نے یہ اشعار پڑھے

بنی ہاشم لاتطمعون اللباس فیکم ولاسیماتیم بن مرۃ او عدی
 فما الامر الا فیکم والیکم ولیس لها الا ابو حسن عقی
 ابا حسن فاشدد بہا کف حازم فانک بالامر الذی تر تجعی منی

اسے بنی ہاشم! اپنی خلافت کے متعلق لوگوں کو کسی طرح کی طمع کا موقع نہ دو اور
 بالخصوص تیم، بن مرہ اور قبیلہ عدی کے افراد کو ہرگز خلافت کی طمع کا موقع نہ دو۔

امر خلافت کا تعلق صرف تم سے ہے اور اس کا حق دار صرف ابو الحسن علی ہے۔

ابو الحسن! خلافت کے ذریعہ سے اپنے پیچہ کو محکم اور مضبوط کرو۔ کیونکہ آپ جس
 خلافت کے امیدوار ہیں آپ ہی اس کے صحیح مستحق اور حقدار ہیں۔

پھر اس نے آواز دے کر کہا: بنی ہاشم، اولاد عبدمناف! کیا تم لوگ اس بات پر راضی
 ہو کہ اونٹ کا باپ جو کہ خود پست اور جس کا باپ پست ہے، وہ تمہارا حاتم بن جائے؟

خدا کی قسم! اگر آپ چاہیں تو میں مدینہ کی گلیوں کو پیادہ اور سواروں سے بھریوں جو
 کہ انہیں مشکل میں ڈال دیں۔

(ابوسفیان کی اس پیشکش کے مقاصد سے بخوبی آگاہ تھے) امیر المؤمنین نے

ابوسفیان سے فرمایا:

واپس چلا جا! خدا کی قسم جو کچھ تو کہہ رہا ہے خدا کی رضا کے لئے نہیں کہہ رہا۔ تو
 ہمیشہ سے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب دیتا رہا۔ ہم رسول خدا کی تجھیز و تکلفین میں مصروف تھے
 اور ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ اللہ رنج اٹھانے والوں کا ولی اور یارو ہے۔

ابوسفیان مایوس ہو کر مسجد نبوی میں گیا وہاں اس نے دیکھا کہ بنی میہ جمع ہیں۔ اس
 نے بنی امیہ کو خلافت حاصل کرنے کی ترفیب دی لیکن انہوں نے اس کی پیروی نہ کی اور یوں وہ
 فتنہ برپا ہوا جس نے تمام افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، شیطان نے تسلط قائم کر لیا اور خام آہٹس
 میں متحد ہو گئے، ارموسن پریشان اور بے حال ہو گئے اور یوں قرآن مجید کی اس آیت واقعوا

فَسَةَ لَا تَصْبِرَنَّ الدِّينَ طَمَعُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً“ (سورۃ انفال آیت ۲۵) اس فتنہ سے بچو جو صرف ظلم کرنے والوں کو ہی اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا) کی باطنی تفسیر سامنے آئی۔

مشورۃ ابلیس

عظیم عالم شیخ اجل و اقدم عبید اللہ بن عبد اللہ اسد آبادی ”المُفْتَعِ فِي الْإِمَامَةِ“ میں رقم صراحت ہیں۔

فصل: ہم یہاں واقعہ سقیفہ کے چند گوشوں کو بے نقاب کریں گے۔ تاکہ ہو جائے کہ لوگوں نے آخر ایک حقدار کو محروم کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔

مورخین اور سیرت نگاروں نے بالاتفاق لکھا کہ جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو میراۃ منین رسول خدا کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے۔ مہاجرین انصار کے ساتھ قبیلہ قریش کے افراد حضرت علی اور بنی ہاشم کے فیصلہ کے منتظر تھے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اتنے میں بیس عین مغیرہ بن شعبہ جو کہ بنی اُمیہ کا مکار ترین فرد تھا، کی صورت میں وہاں حاضر ہو اور لوگوں سے کہا تم کس بات کے منتظر ہو؟

لوگوں نے کہا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بنی ہاشم رسول خدا کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جائیں۔

ابلیس نے کہا ”جاؤ اور اپنے کام کو وسعت دو تاکہ تمہیں بھی وسعت نصیب ہو۔ خدا کی قسم! اگر تم نے بنی ہاشم کی فراغت کا انتظار کیا تو تم ان کے تسلط میں آ جاؤ گے اور پھر معاملہ خدافت، قیصر و کسری کے دستور کے مطابق ہمیشہ بنی ہاشم میں مرکوز ہو جائے گا۔“

اس واقعہ سے قبل قریش کے چند افراد نے آپس میں یہ تحریری معاہدہ کیا تھا کہ اگر رسول خدا کی وفات ہوئی یا وہ شہید ہو گئے تو وہ بنی ہاشم کی قیادت و اہمیت سے انحراف کریں گے تاکہ نبوت و خدافت ایک ہی گھر میں جمع نہ ہو سکیں۔ اور انہوں نے یہ معاہدہ ابو عبیدہ بن

جراح کے سپرد کیا تھا۔ (اور غالباً اسی لئے انہیں "امین الامۃ" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے)۔
 مہاجرین کے بعد وہ انصار کے پاس آیا اور انہیں زمام اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی
 اور ان کی نظر میں اس فعل کو مزین کر کے دکھایا۔ جس کے نتیجے میں انصار سقیفہ بن ساعدہ کی
 طرف روانہ ہوئے۔

ابوزویب ہذلی کی عجیب روایت

عالم مذکور عبید اللہ اسد آبادی مزید لکھتے ہیں

ابو الحسن بن زنجی لغوی جو کہ بصرہ کے رہنے والے تھے انہوں نے مجھے ۳۳۳ھ میں

بتایا.... ابو زویب ہذلی نے کہا

جب ہمیں رسول خدا کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ بیمار ہیں تو اس خبر سے ہم بہت
 پریشان و سرگرداں ہوئے۔ (اس وقت ہم مدینہ سے دور تھے) میرے لئے وہ رات میں بڑی
 کٹھن تھی۔ میں نے وہ تمام رات بے چین اور بے تابی میں بسر کی اور ساری رات پریشان کن
 خیالات میں غرق رہا۔ صبح قریب ہوئی تو میں نے ایک بات فیہی کی صدا سنی جو کہہ رہا تھا

حطب جلیل فتی الاسلام بیس النخیل ومقعد الاصابہ
 قبص النبى محمد فعیوننا تدرى الدموع علیہ بالاشحان

اسلام میں ایک عظیم حادثہ نے رخنہ پیدا کیا ہے اور کھجوروں کے جہنم اور بت کہے
 کے درمیان یہ سانحہ ہوا ہے جس نے اسلام کو لرزہ بر اندام کر دیا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی وفات ہوئی
 اور ہماری آنکھیں اس غم و مصیبت کی وجہ سے آنسو بہا رہی ہیں۔

ابوزویب کا بیان ہے کہ یہ آواز جو نبی میرے کانوں میں پڑی تو میری آنکھوں سے
 نیند اڑ گئی اور میں نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی تو مجھے مشہور ستارہ "سعد ذابح" کے عددہ درجہ
 دکھائی نہ دیا۔ میں نے "سعد ذابح" ستارہ کو دیکھ کر یہ فال لی کہ عرب میں ذبح و قتل کے واقعات

رونا ہوں۔ اور مجھے معلوم ہوگئی کہ آج رات رسول خدا کی وفات ہوئی ہے یا امرن دن
وفات بھی تک نہیں ہوئی تو وہ اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکیں گے۔

میں اٹھا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف چل پرا اور رات کا بقیہ حصہ سفر
میں گزارا۔ آخر کار شب بیتی اور صبح ہوئی تو میں نے اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالی تاکہ مجھے کوئی چیز
دکھائی دے جس سے میں فال لے سکوں۔ پھر اچانک میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک نر خار پشت
(خار و رینگلی چوہا) چھوٹے سے سانپ کو منہ میں لئے جا رہا ہے اور سانپ ادھر ادھر حرکت کر رہا
ہے لیکن خار پشت اسے کھاتا جاتا ہے۔

یہ واقعہ دیکھ کر میں نے یہ فال لی کہ بہت بڑا حادثہ ظہور پذیر ہو چکا ہے خار پشت کے
منہ میں سانپ کا بلنا جن اس بات کی علامت ہے کہ لوگ حق سے منحرف ہو چکے ہیں اور رسول
خدا کے حقیقی جانشین سے منہ موڑ چکے ہیں۔ پھر میرے ذہن میں سانپ کے ننگے جانے کی یہ
تفسیر آئی کہ لوگ امر خلافت کو کھا جائیں گے (اور اسے بیگانے ہاتھوں میں دے دیں گے)۔

اس کے بعد میں تیزی سے اپنے اونٹ کو دوڑاتا ہوا مدینہ پہنچا۔ جب میں مدینہ پہنچا
تو وہاں کہرام مچا تھا اور لوگ یوں دھماڑیں مار مار کر رو رہے تھے جیسا کہ حاجی احرام باندھ کر
روتے ہیں۔

میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا؟

لوگوں نے مجھے بتایا رسول خدا کی وفات ہوگئی ہے۔ یہ خبر سن کر میں مسجد کی طرف
آیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد خالی پڑی ہے اور کوئی شخص بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ پھر میں
پیغمبر اکرم کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ وہاں مجھے یہ بتایا گیا کہ
رسول خدا دنیا سے رحلت کر چکے ہیں اور ان کے جسم اطہر کو کپڑے سے ڈھانپ کر رکھ دیا گیا
ہے۔ ان کے اہل بیت جنہاز دے کر مدینے میں اور غسل و کفن کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔

میں نے پوچھا کہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟

مجھے بتایا گیا کہ لوگ سقیفہ بن ساعدہ کی طرف گئے ہیں کیونکہ وہاں انصار کا اجتماع ہو رہا ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سقیفہ بن ساعدہ میں پہنچایا۔ وہاں میں نے ابو بکر، عمر، وغیرہ، ابو عبیدہ بن جراح اور قریش کی جماعت کو دیکھا اور انصار میں سے سعد بن ولیم اور ان کے شعراء بالخصوص حسان بن ثابت کو میں نے وہاں موجود پایا۔ میں نے سقیفہ میں شامل افراد سے مسئلہ خدفت کے متعلق گفتگو کی لیکن کسی سے بھی حق کی بات نہ سنی۔ پھر لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد ابو ذؤبیب اسی بیابان کی طرف واپس چلے گئے جہاں سے آئے تھے اور وہیں رہے یہاں تک کہ زمانہ خلافت حضرت عثمانؓ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔

شعراء کی طرف سے سقیفہ کی مذمت

عبید اللہ اسد آبادی آگے لکھتے ہیں:

تابغہ بعدیؑ اپنے گھر سے نکلا اور پیغمبر اکرمؐ کی وفات کے بعد اس نے لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لئے سوال کیا تو (سقیفہ کے اجتماع میں) عمران بن حصین نے کہا:

ان كنت ادرى فعلى بدنّة
 من كثرة التخلیط انى من انا
 اگر اس ہنگامہ دار و گیر شور میں میں اپنے آپ کو پہچان سکوں تو مجھ پر ایک قربانی لازم آئے گی۔ (مقصد یہ ہے کہ شور و غوغا کی وجہ سے تو مجھے اپنا پتہ تک نہیں ہے میں بھلا لوگوں کے متعلق کیا بتا سکوں گا)۔

قیس بن صرمہ نے تابغہ سے کہا:

اصحبت الامّة فى امرٍ عجبٍ
 والملك فيهم قد غدا لمن غلب
 قد قلتُ قولاً صادقاً غير كذبٍ
 إنّ غدا يهلكُ اعلامُ العربِ

اس کا اصل نام قیس بن کعب تھا اور تابغہ کے لقب سے مشہور تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا مشہور و معروف شعر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام لانے پر ہمیشہ فخر کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک طویل عربیائی۔

سغیة البحر جلد دوم صفحہ ۵۶۹۔ (مترجم فارسی)

مت ایک عجیب نمونہ میں پڑھی ہے۔ سعادت اسی کی ہے جو ناب آج کے۔ اس نے باہل جی بات کہی جس میں جھوٹ نہیں کہ کل و حرب کے عظیم افراد ہلاک کئے جائیں گے۔ نابغہ نے پوچھا: ابو الحسن علیؑ کیا کر رہے ہیں؟
 دو اشخاص نے اسے بتایا کہ وہ رسول خدا کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہیں۔
 نابغہ نے یہ شعر پڑھے:

قُولَا لَا صَلْعَ هَاشِمِ اِنْ اَنْصَا لَا قَيْتْمَاهُ لَقَدْ حَلَلْتَ اَرْوَقَهَا
 وَاذَا قَرَيْشٌ بِالْفِيْخَارِ تَسَاجَلَتْ كُنْتَ الْجَدِيْرُ بِهِ وَكُنْتَ زَعِيْمَهَا
 وَعَلَيْكَ سَلَمْتُ الْعِدَاةُ بِاَمْرَةٍ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا رَعَتْ تَسْلِيْمَهَا
 نَكْتَتُ بَنُو تَيْمٍ بِنَ مَرَّةٍ عَهْدَهَا فَسَوَّتْ نِيْرَانَهَا وَجَحِيْمَهَا
 وَتَخَاصَمْتَ يَوْمَ السَّقِيْفَةِ وَالَّذِي فِيْهِ الْخِصَامُ غَدَا يَكُوْنُ حَصِيْمَهَا

بنی ہاشم کے اس مرد ”صلح“ (جس کے سر کے اگلے حصے کے بال اس کے سینے میں جینی
 علیؑ) سے کہو اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو کہ تم نے خلافت کی چمکدار ری کو چھوڑ دیا ہے۔
 اور جب قریش دیر قبائل پر اپنا فخر بیان کریں تو اس افتخار کے قابل تم ہی ہو اور تم ہی
 قریش کے سردار ہو۔

ان لوگوں نے کل تو آپ کو امیر المؤمنین کہہ کر غدیر میں سلام کیا تھا۔ سین نبویؐ نے
 اپنے عہد کی لاج نہیں رکھی۔

تیم بن مرہ کی اولاد نے اپنا عہد توڑ دیا اور وہ آتش دوزخ کے مستحق قرار پائے۔ ان
 لوگوں نے سقیفہ میں ان سے دشمنی کی اور کل قیامت کے دن علیؑ ان کا دشمن ہوگا۔

سقیفہ کے دن لی روداد لہ کر عہدار انصار نعمان بن زید نے یہ اشعار کہے اور سلام کی
 غربت پر شک افشانی کی۔ اس نے لوگوں کی روش پر اپنے دکھ درد کا اظہار اپنے ان شعرات کیا
 یہ داعی الاسلام قم و انعه قدمات عرف واتنی منکر

ما لقریش لا علی کعبہا من قَدَموا الیوم ومن اُخروا
 مثل علی من خمی امرہ علیہم والشمس لا تستر
 ولیس بطوی علم باہر سام ید اللہ لہ بنشر
 حتی یزیلوا صدع ملمومہ والصدع فی الصخرۃ لا یجبر
 کبش قریش فی وغا حربہا فاروقہا صدیقہا الاکبر
 وکاشف الکرب اذا خطبہ اعبی علی واردها المصدر
 کبرلہ وصلی وما صلی ذروا العیث ولا کبروا
 تدبیر ہم ادوا الی ما اتوا تبالہم یابس مادبروا

اے اسلام کی موت کی خبر دینے والے اشوا اور اسلام کے لئے سب میں بیٹھو کیونکہ

یہی مرثیٰ اور اس کی جگہ برائی نے لے لی۔

قریش اور قبیلہ کعب کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو آج آگے لائیں یا کسی کو پیچھے کریں۔

علی جیسی شخصیت ان پر مخفی نہیں تھی کیونکہ آفتاب وجود علی چھپایا نہیں جاسکتا تھا۔

اور وہ پرچم کبھی لینا نہیں جاسکتا جو کہ بلند و بالا ہو اور جسے خدا کے ہاتھ نے لہرایا ہو۔

یہ لوگ اس خرابی کے شکاف کو بند نہ کر پائیں گے کیونکہ چٹان میں شکاف پڑ جاتے تو

وہ قابل تلافی نہیں ہوتا۔ (یعنی وہ چاہتے تھے کہ نور علی کو چھپا کر خود تاریکی میں چلے جائیں

حالانکہ یہ ان کے بس سے باہر تھا)۔

جنگ و نبرد میں علی قریش کا سپہ سالار ہے اور علی ہی فاروق اعظم (حق و باطل کو جدا

رہنے والا) اور صدیق اکبر ہے۔

جب مشکلات گھیر لیں اور جب کسی تنگنائے میں سے نکلنا ناممکن ہو جائے تو علی

قریش کی مشکلات دور کرنے والا ہے۔

تمام نشیب و فراز میں علی نے خدا کی تکبیر کہی اور نماز پڑھی جب کہ نقصان دینے

والے افراد (منافقین) نے نہ تو تکبیر کہی اور نہ ہی نماز قائم کی۔

ان کی صلاح اندیشی نے ان سے یہ فعل کرایا ان کی اس تدبیر اور صریح ندیشی پر بدست ہو۔

عتبہ بن ابوسفیان بن عبدالمطلب نے سقیفہ کی کاروائی کی ان الفاظ سے مذمت کی تھی۔

وكان ولي الامر من بعد احمد علي وفي كل المواطن صاحبه

وصى رسول الله حقا وصهره واول من صلى ومن لان جانبه

محمد مصطفیٰ کے بعد ان کا قائم مقام علی ہے اور وہ تمام نشیب و فراز میں حضور کا ساتھی رہا ہے۔

وہ رسول اللہ کا حقیقی وصی ہے اور وہ ان کا داماد ہے اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والا

وہی ہے اور اپنے پہلو کو رسول خدا کے لئے نرم کرنے والا وہی ہے۔

رسول اکرم کے چچا عباس بن عبدالمطلب نے سقیفہ کی کاروائی کی مذمت اپنے ان

شعار سے کی تھی۔

عجبت لقوم امروا غير هاشم علي هاشم رهط النبي محمد

وليس ابا كفاء لهم في عظمة ولا نظراً في فعال وسؤدد

مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جنہوں نے غیر ہاشمی کو رسول خدا محمد کے خاندان بنی ہاشم پر

حاکم مقرر کر دیا۔

حالانکہ غیر ہاشمی عظمت مقام اور کردار و سیادت میں بنی ہاشم کی نظیر اور مثال نہیں ہیں۔

عتبہ بن ابی لہب نے کہا تھا:

تولت بنو تيم علي هاشم ظلما وذاذوا عليا عن امارته قدما

ولم يحفظوا قريبي نبي قريبة ولم ينفسوا فيمن تولاهم علما

بنی تیم نے بنی ہاشم پر ظلم کر کے حکومت حاصل کر لی اور انہوں نے علی کو اس اقتدار

سے ہٹا دیا جو کہ پہلے سے طے شدہ تھا۔

ان لوگوں نے علیؑ کی محمد مصطفیٰ سے قرابت کا کوئی خیال تک نہ کیا اور اس سلسلہ میں انہوں نے مقامِ عہم (جو کہ رہبری کی پہلی شرط ہے) کی طرف توجہ نہ کی۔

عبادہ بن مسامت نے سقیفہ کی ان الفاظ سے مذمت کی تھی۔

ما للرجال اخروا عليا عن رتبته كان لهم مرضيا

ليس كان دونهم وصيا . . . الى اخره

آخر ان لوگوں نے علیؑ کو اس مرتبہ سے پیچھے کیوں ہٹایا جو کہ علیؑ کے شایانِ شان تھے

اور کیا علیؑ دوسروں کی نسبت اس مقام کا استحقاق نہ رکھتا تھا؟

عبدالرحمن بن ملجم نے جو کہ بنی تمیم کے حلیف تھے، کہا تھا:

لعمري لئن بايعتم ذا حفيظة علي الدين معروف العفاف موفقا

عفيفا عن الفحشاء ابيض ماجد صدوقا للجار قدما مصدقا

ابا حسن فارضوا به وتبا يعوا فليس كمن فيه الذي العيب مرتقا

عليا وصي المصطفى ووزيره واول من صلى لذي العرش واتقى

رحمتم الي بهج الهدى بعدزيغكم وجمعتم من شمله ماتمرقا

وكان امير المؤمنين بن فاطم بكم ان عري خطب ابروارقا

مجھے اپنی جان کی قسم چاہئے تھا کہ تم لوگ علیؑ کی بیعت کرتے جو کہ دین کا محافظ ہے

اور جو عفت اور پاکدامنی میں مشہور ہے۔

جو تمام قسم کی فحش باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے جو سردار ہے اور ہمیشہ سچ بولنے والا

ہے اور جو ازل سے اللہ کی تصدیق کرنے والا رہا ہے۔

تم لوگ ابوالحسن کی ذات پر راضی ہو جاؤ اور ان کی بیعت کر لو کیونکہ ان کے وجود میں

کسی طرح کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔

علیؑ، مصطفیٰ کے وصی اور ان کے وزیر ہیں اور انہوں نے عرش کے مالک خدا کی

سب سے پہلی نماز پڑھی اور خدا کا تقویٰ اختیار کیا۔

اُمّ تمّ علیٰ کی بیعت کر لو تو تم اپنے پیارے پین کے بعد ہدایت کے راستے پر کا من
ہو سکو گے اور اس سے تمہارا متفق شیرازہ (پڑ) بیع ہو سکے گا۔

امیر المؤمنین جو کہ فاطمہ بنت اسد کے فرزند ہیں اُمّ تمّ پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تو
وہ تم پر زیادہ شفیق اور مہربان ثابت ہوں گے۔

زفر بن حارث بن حذیفہ انصاری نے کہا تھا:

فحوظوا علیا وانصروه فانہ وصی وفی الاسلام اول اول
فان تحدلوه والحوادث جمہ فلیس لکم فی الارض من متحون
تم لوک علی کے اور نہ جمع ہو جاؤ اور اس کی مدد کرو کیونکہ وہ رسول خدا کا جی ہے اور
سابقین اولین کا پہلا فرد ہے۔

اُمّ تمّ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تو پھر بہت سے حوادث جنم لیں گے اور ان حوادث کو تم
سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔

ابوسفیان صحیح بن حرب بن امیہ نے یہ اشعار کہے تھے:

بنی ہاشم مایال میراث احمد تنقل عنکم فی لقیط وجاہل
اعبدمناف کیف ترضون ما اری وفیکم صدود المرهفات الاواصل
فدی لکم امی اثبتوا وثقوا بنا وبالنصر مناقبل فوت المحائل
متی کانت الاحساب تغدو بیا لکم متی قرنت تیم بکم فی المحائل
یحادی بھا تیم عدیا وانتم احق واولی بالامور الاوائل
اے بنی ہاشم! تم سے احمد کی میراث کیونکر چھیننی گئی اور رذیل اور جاہل قبائل میں
کیونکر منتقل ہو گئی؟

اولاد عبدمناف! مجھے تعجب ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم اس سے راضی کیسے ہوئے

جبکہ تمہارے اندر برجستہ شخصیات اور کاٹ دار تلواریں موجود ہیں۔

میری ماں تم پر فدا ہو معاملات کی باگ دوڑ سنبھالنے کے لئے ثابت قدم رہو اور ہم پر اور ہماری مدد پر بھروسہ کرو اس سے قبل کہ پرفریب وقت ہاتھ سے نکل جائے۔

وہ کون سے صاحبان مقام ہیں جو تمہاری برابری کر سکتے ہیں اور کس محفل میں تیم کا قبیلہ تمہارے برابر ہوا ہے؟

البتہ تیم اور عدی ایک جیسے قبائل ہیں۔ (اور ان کے افراد بھی ایک جیسے ہیں) جب کہ تم لوگ اہم امور میں ان سے زیادہ حقدار اور بہتر ہو۔

یہ اشعار بھی ابوسفیان کے ہیں:

واضح قریش بعد عزٍّ ومنعہ خصوفاً لتیم لا بضرب القواض
فیا لہف نفسی للذی ظفرت بہ وما زال فیہا فانز بالرعانب
عزت دار ہندی کے بعد قریش، تیم قبیلہ کے سامنے بغیر کسی شمشیر زنی کے جھک گئے۔
بائے افسوس بنی تیم نے خلافت حاصل کر کے قریش کو کامیابیوں سے محروم کر دیا۔
خرزیمہ بن ثابت نے سفید کے روز یہ اشعار کہے تھے:

ماکنت احسب هذا الامر منتقلا عن ہاشم ثم منها عن ابی حسن
الیس اول من صلی بقبلتکم واعلم الناس بالقرآن والسنن؟
وآخر الناس عہدا بالنبی ومن جبریل عونالہ فی الغسل والکفن
ماذا الذی ردکم عنہ فنعرفہ ہاناً بیعتکم من اغین الغبن

مجھے تو یہ گمان بھی نہ تھا کہ خلافت بن ہاشم اور بالخصوص حضرت علی سے منتقل ہو جائے گی۔
تو کیا علی وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے تمہارے قبیلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور
کیا وہ قرآن اور سنتوں کا سب سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟

اور کیا علیؑ ہی وفات پیغمبر کے وقت آخر تک نبی اکرمؐ کے ساتھ نہ رہا تھا اور کیا نبیؐ

کے غسل و کفن میں جبریل اس کا مددگار نہ تھا؟

آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہیں علی سے منحرف کر دیا۔ کچھ بتاؤ تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ آگاہ رہو تمہاری یہ بیعت بدترین نقصان ہے۔

بعض افراد مندرجہ بالا اشعار کی نسبت عقبہ بن ابی لہب کی طرف دیتے ہیں۔

خزیمہ بن ثابت نے ام المؤمنین عائشہ سے خطاب کر کے کہا تھا

اعایش خلی عن علی وعبتہ بما لیس فیہ انما انت والدة

وصی رسول اللہ من دون اہلہ وانت علی ما کان من ذاک شاهدة

اے عائشہ! علی کو رہنے دے اور جو چیز اس میں موجود ہی نہیں اس کی عیب جوئی نہ

کرا اور تو فقط ماں ہے۔

علی ہی رسول خدا کی وصی ہیں جب کہ دوسرے افراد خاندان وصی بتغییر نہیں ہیں اور تو

خود اس واقعہ کی گواہ ہے کہ رسول نے انہیں اپنا وصی بنایا تھا۔

عمرو عاص کو ملامت کرتے ہوئے نعمان بن عجلان انصاری نے واقعات سقیفہ

کی یوں مذمت کی

وقلتہ حرام نصب سعد ونصبکم عتیق بن عمرو کان حلاً ابابکر

فاهل ابابکر لها خیر قائم وان علیا کان اجدر بالامر

فکان ہوانا فی علی وانہ لاهل لها یا عمرو من حیث لاندری

تم کہتے ہو کہ سعد بن عبادہ کو خلافت کے لئے منصوب کرنا حرام ہے۔ لیکن تم نے

ابوبکر عتیق بن عمرو کو خلیفہ بنا لیا تو کیا یہ حلال ہے؟

تم نے خلافت کے لئے ابوبکر کو بہتر جانا ہے جب کہ حقیقت یہ ہے علی ہی ہر لحاظ

سے خلافت کا مستحق ہے۔ یہ علی کی ایک طرح کی توہین ہے۔ صرف علی ہی حقدار خلافت ہے۔

یہ وہ مسئلہ ہے جسے عمرو تو نہیں جانتا۔

علیٰ کی طرف سے انصار کا دفاع

عالم مذکور (عبید اللہ اسد آبادی) اپنی کتاب ”المقتع فی الامامة“ میں مزید رقم طرز میں جب حضرت ابوبکر کی حکومت مستحکم ہوگئی اور سقیفہ سے مسجد پہنچے تو عمرو بن العاص نے حضرت ابوبکر کی حمایت میں تقریر کی، انصار کو سخت ست کہا اور ان کی تحقیر کی۔ اس صرح وہ کینہ و عناد جو وہ زمانہ پیغمبر میں اسلام کے بارے میں چھپائے رکھتا تھا ان فرصت کے لمحات کا فائدہ اٹھائے ہوئے اس نے انہیں ظاہر کر دیا۔ حضرت علیٰ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر انصار کی خدمات کا اعتراف کیا اور انصار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی تھیں، آپ نے ان کی تلاوت فرمائی اور حاضرین سے فرمایا تمہارے لئے ضروری ہے کہ انصار کا حق پہچانو اور ان کا احترام کرو۔

انصار کو حضرت علیٰ کے اس اقدام سے خوشی ہوئی اور انہوں نے اپنے شاعر حسن بن ثابت سے کہا کہ وہ حضرت علیٰ کے فضائل اور ان کی اسلامی خدمات کو نظم کی صورت میں بیان کرے پھر انصار نے سقیفہ میں حضرت علیٰ کی مدد نہ کرنے پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ چنانچہ حسان بن ثابت نے انصار کی ترغیب و تحریک پر یہ اشعار کہے:

جزی اللہ خیرا والجزابکفہ اباحسن عتاً ومن کابی حسن
سبقت قریشا بالدی انت اہله فصدرک لشروح و قلبک ممتحن
تمنت رجال من قریش اعزۃ مکانک ہیہات الہزال من التسمن
وانت من الاسلام من کل موطن بمنزلة الدلو البطین من الرسن
غضبت لنا اذ کان عمرو بخطبۃ امامت بها التقویٰ واحییٰ بها المحن
وکنت المرحیٰ من لوی بن غالب لماکان فیہ والذی بعد لم یکن
حفظت رسول اللہ فینا واهله الیک ومن اولیٰ بها منک من ومن

الست اخاه فى الهدى ووصيه واعلم منهم بالكتاب وبالسنن
فحقك مادامت بنجد وشيحة عظيم علينا ثم بعد على اليمن
اللہ ہماری طرف سے ابوالحسن کو جزائے خیر عطا کرے۔ جزائے خیر خدا کے ہاتھ میں

ہے اور ابوالحسن جیسا (جہان میں) کون ہے؟

آپ نے اپنی عمدہ صفات کی وجہ سے قریش پر سبقت حاصل کی۔ آپ کا سیدہ کشاہہ
اور آپ کا دل امتحان شدہ ہے۔

قریش کے بہت سے افراد نے آپ کے مقام و منزلت کی تمنا کی ہے لیکن ایک - غرو
کمزور کجی اور فربہ و تندرست کجیا؟ (ایک فرومایہ نے خود کو ایسے مقام پر بٹھادیا جو کامل علم و فضیلت
کا مقام ہے)۔

آپ ہر مقام اور ہر جگہ پر حمایت اسلام کے لئے وہ ڈول ثابت ہوئے جو پانی سے
لبہ یز ہو اور آپ اس کے کھینچنے کی طناب ثابت ہوئے۔ (اسلام کمالات سے بھرپور پانی کے
کنوئیں کی مانند ہے اور آپ اس کا ڈول اور طناب ہیں کہ ان کے لئے کھینچتے ہیں اور ان کو فائدہ
پہنچاتے ہیں)۔

آپ نے ہم انصار کے مخالفین پر ناراضگی کا اظہار کیا جب کہ عمرو بن العاص اپنے
خطبہ میں فضائل و تقویٰ کو قتل کر رہا تھا اور درد و الم کو زندہ کر رہا تھا۔

لوی بن غالب کی اولاد میں سے آپ ہی لوگوں کی امید ہیں۔ حالات حاضرہ اور
آنے والے تمام حالات میں لوگوں کی امیدیں آپ ہی سے وابستہ ہیں۔

آپ نے رسول خدا اور ان کے خاندان کا تحفظ کیا ہے اور آنحضرتؐ نے ہم سے
جو عہد کیا تھا آپ نے اس عہد کی نگہداری کی ہے۔ آنحضرتؐ کا عہد آپ سے تھا اور آپ سے
بہتر مقام رہبری و قیادت کے لائق کون ہے؟

کیا آپ ہدایت خلق میں برادر رسول نہیں ہیں اور کیا آپ وصی پیغمبرؐ نہیں ہیں اور

تمام ہوؤں سے زیادہ کتاب و سنت کے عالم نہیں ہیں؟

اسی لئے جب تک نجد و یمن میں ایک ذرہ بھی باقی ہے آپ کا ہم پر بہت بڑا حق باقی رہے گا۔

ام ایمنؓ کے اشعار

عالم مذکور "المقنع فی الامامة" میں چند واقعات تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں
سیرت نگاروں نے ابو الاسود دؤلی سے روایت کی ہے کہ حضرت ام ایمنؓ (جو پیش
رسول خداؐ اور زہرائے اطہر بہت محترم خاتون تھیں) نے مجھ سے بیان کیا کہ جس دن لوگوں نے
حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کی تھی، اس رات میں نے کسی ہاتف سے یہ اشعار سنے۔ اور شعر پڑھنے
والا مجھے دکھائی نہیں دیا۔

لقد ضعفع الاسلام فِقدان احمد وابکی علیہ فیکم کل مسلم
واحزنة حزنا تمالوا لصحبة الغواة علی الہدی الرضی المکرم
وصی رسول اللہ اول مسلم واعلم من صلی وزکی مدرہم
اخى المصطفى دون الذین تاملوا علیہ وان بزوه فضل النقدہ
احمدؓ کی موت نے اسلام کو ہلا کر رکھ دیا اور ہر مسلمان کو رونے پر مجبور کر دیا۔

غمر ہالائے غم تو یہ ہے کہ لوگوں نے گمراہوں کی صحبت کو محترم ہدایت یافتہ فرد کی
صحبت پر ترجیح دی ہے۔

یعنی وحی رسولؐ ہے اور وہ مسلم اول ہے اور تمام نماز پڑھنے اور دہرم (دودینار) کی
زکوٰۃ دینے والوں سے زیادہ صاحب علم ہے۔

علیؓ ہی مصطفیٰؐ کا بھائی ہے وہ لوگ نبیؐ کے بھائی نہیں ہیں جنہوں نے اقتدار پر قبضہ
کر لیا ہے اور جنہوں نے علیؓ سے شرف تقدم چھین لیا ہے۔

درج بالا شعر و نثر کے نمونوں سے ہر عقلمند یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وفات پیغمبر کے بعد لوگوں نے حضرت علیؑ سے کیا سلوک کیا تھا۔ اور اس کے مطالعے سے ہر صاحبِ عقل اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ امتِ مصطفیٰ نے حضرت علیؑ سے وہی سلوک کیا تھا جو امتِ موسیٰ نے ان کی غیبت کے دوران حضرت ہارونؑ سے کیا تھا۔

واقعات کی مطابقت کو مد نظر رکھ کر محمد بن نصر بن بسام نے کیا ہی خوب لکھ تھا:

ان علیا لم یزل محنة لرابح الدین ومغبون
انزله من نفسه المصطفیٰ منزلة لم تک بالدون
صیره هارون فی قومه لعاجل الدنیا وللدین
فارجع الی الاعراف حتی تری ما فعل القوم بهارون

علیؑ پوری زندگی دین کے مفاد کے لئے کام کرتے رہے لیکن وہ ذاتی طور پر خسارے میں رہے (اور نااہلوں کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے رہے) رسولِ خدا نے ان کو اپنے نفس کے طور پر متعارف کروایا تھا اور ان کو بہت عظیم مقام پر قرار دیا تھا کہ جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ رسولِ خدا نے انہیں دنیا و دین میں اپنی قوم کے لئے مثال ہارون قرار دیا تھا۔

سورۃ اعراف کی تلاوت کرو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ لوگوں نے ہارون کے ساتھ کیا سوک کیا؟ (یعنی جو سلوک امتِ موسیٰ نے ہارون کے ساتھ کیا تھا جیسا وہی سلوک امتِ مسلمہ نے ہارون محمدیؑ سے روا رکھا)۔

حضرت ابو بکر کا اسامہ کے نام خط اور اس کا جواب

وہ لوگ جو حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی تائید اس خط سے بھی ہوتی ہے جو حضرت ابو بکر نے اپنے برسرِ قدار آنے کے بعد اسامہ بن زید کے نام تحریر کیا تھا اور اس کے جواب میں اسامہ نے جن حقائق کا اظہار کیا تھا۔ اس سے سی مفہوم

ن وضاحت ہوتی ہے۔ (اسامہ بن زید رسول اللہ کی جانب سے لشکر کے سپہ سالار مقرر کئے گئے تھے تاکہ سرزمین شام جائیں اور دشمن کے بے قابو ہونے کی بناء پر اس کی گرفت کریں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو کوئی اسامہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا وہ مجرم ہے۔ یاد رہے کہ وقت رحلت پیغمبر اور ستیفہ کی کاروائی کے روز اسامہ مدینے میں نہیں تھے بندہ لشکر کے ہمراہ سرزمین 'حرف' (نزدیک مدینہ) تھے تاکہ شام روانہ ہوں)۔

حضرت ابو بکر نے اسامہ بن زید کو لکھا:

رسول خدا کے جانشین ابو بکر کی طرف سے اسامہ بن زید کے نام۔

اما بعد۔ مسلمانوں نے میری پناہ لی ہے اور امور خلافت کی سرپرستی کے لئے انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے اور رسول خدا کے بعد مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہے۔ (خط طویل ہے یہاں تک کہ کہا:..... جب میرا خط تجھے پہنچے تو تجھے چاہئے کہ میرے پاس آ کر دوسرے مسلمانوں کی طرح سے میری بیعت کرے اور عمر بن خطاب کو لشکر کے پیچھے رہنے کی اجازت دے دے کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اسکے بعد جس جنگ کے لئے رسول خدا نے تجھے تیار کیا تھا، چلا جاؤ۔

جب یہ خط اسامہ کو ملا تو اس نے اس کے جواب میں یہ عبارت تحریر کی:

”رسول خدا کے آزاد کردہ غلام زید کے فرزند اسامہ کی جانب سے ابو بکر بن ابی قحفہ کے نام! اما بعد، تمہارا خط موصول ہوا جس کا ابتدائی حصہ آخری حصہ کی تردید کرتا ہے۔ تم نے خط کی ابتداء میں لکھا کہ میں جانشین رسول ہوں اور اس کے بعد تم نے لکھا کہ مسلمانوں نے تم پر اجماع کر لیا اور تمہیں خلیفہ منتخب کیا ہے۔

گروا قیعت یہی ہے تو انہیں چاہئے تھا کہ ستیفہ کے بجائے مسجد میں تمہاری بیعت رتے۔ پھر تم نے مجھ سے عمر بن خطاب کے لئے پیچھے رہنے کی درخواست کی ہے۔ اس سلسلہ میں اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے مجھ سے اجازت لئے بغیر ہی لشکر سے تخلف کیا ہے۔ مجھے کسی کو مستثنیٰ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ لشکر میں نے نہیں رسول خدا نے

تشکیل دیا تھا۔ اسی لئے تمہارے اور عمر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ تم دونوں نے شکر سے از خود سجدگی اختیار کر لی ہے اور رسول خداؐ کی زندگی اور وفات کے بعد تخلف کرنے میں کوئی امتیاز نہیں کیا جاسکتا۔ (حکم پیغمبر سے انحراف جیسا حیات پیغمبرؐ میں حرام ہے ویسا ہی وفات کے بعد بھی حرام ہے) تمہیں اس بات کا علم ہے کہ رسول خداؐ نے تمہیں اور عمر دونوں کو میری زیر قیادت جنگ کرنے پر مامور کیا تھا۔ اور رسول خداؐ کی رائے تمہاری ذاتی رائے سے بہر طور بہتر ہے۔ تمہارا مقام رسول خداؐ سے مخفی نہ تھا مگر اس کے باوجود رسول خداؐ نے تمہیں میری سرپرستی میں دیا تھا اور پیغمبر کی مخالفت منافقت اور دوغلا پن ہے۔

مؤلف عرض کرتا ہے کہ میں نے مذکورہ خط کی تفصیل اپنی کتاب ”اعیون البلاغہ فی انس الحاضر و نقلة المسافر“ میں نقل کی ہے اور یہاں صرف اسی مقدار پر قناعت کی ہے۔

واقعات سقیفہ کی مزید تحقیق

اکثریت پیغمبر کے جنازے میں شریک نہ تھی

اہل سنت کے مشہور عالم ابن عبدالبر اپنی کتاب "الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب" میں رقم طراز ہیں:

جس دن رسول خدا کی وفات ہوئی۔ اس دن سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر کی بیعت عمل میں آئی لیکن عمومی بیعت وفات کے دوسرے دن یعنی منگل کے دن وقوع پذیر ہوئی البتہ سعد بن عبادہ اور خزرج قبیلہ کے ایک گروہ اور قریش کی ایک جمیعت نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی مخالفت کی۔

شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ (بزرگ شیعہ عالم متوفی ۴۱۳ھ، کتاب ارشاد میں لکھتے ہیں: مہاجرین و انصار کے بہت سے افراد مسند خلافت کے باہمی اختلاف کی وجہ سے رسول خدا کی تدفین میں شامل نہیں ہوئے تھے اور اسی اختلاف اور کش مکش کی وجہ سے بہت سے افراد رسول خدا کی نماز جنازہ سے بھی محروم رہے تھے۔

حضرت فاطمہ زہرا نے اس حال میں صبح کی کہ انہوں نے صدا دے کر کہا "واسوء صباحہ" ہائے یہ دن کتنا برا ہے آج میرے والد جہاں سے رخصت ہوئے ہیں۔

عظیم عالم دین سید ابن طاووس المتوفی ۶۶۴ھ کتاب "کشف المحجہ" میں اپنے

فرزند کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں:

اہل سنت کی کتابوں میں جو عجیب ترین چیز میں نے ملاحظہ کی ہے اور جسے طبری نے اپنے تاریخ میں منتقل کیا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے:

پیغمبر اسلامؐ نے پیر کو رحلت فرمائی اور بدھ کے دن یا رات کے وقت ان کی تدفین ہوئی۔ یعنی تین دن تک جنازہ مبارک گھر میں رکھا رہا۔

ایک اور روایت میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کا جنازہ تین دن تک گھر میں رکھا رہا بعد میں دفن ہوا۔ (سید ابن طاووس نے اپنے بیٹے سے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے مزید لکھا):

ابراہیم ثقفی نے کتاب ”المعرفة“ کی جلد چہارم میں بیان کیا ہے:

باتحقیق رسول خداؐ کا جنازہ تین دن تک گھر میں رکھا رہا بعد میں آپ کے جنازے کو دفن کیا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ حضرت ابوبکر کی خلافت اور بیعت میں مصروف ہو گئے تھے۔ تیرے جد علیؑ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ رسولؐ کے جنازے کو چھوڑ کر چلے جائیں اور نہ ہی یہ کر سکتے تھے کہ قوم کے نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے آنحضرتؐ کو دفن کر دیں اور وہ اس سے محفوظ نہ تھے کہ اگر آنحضرتؐ کو دفن کر دیں تو ان کو قتل کر دیا جائیگا یا رسول اللہؐ کی قبر کو ہول کر آپ کا جنازہ باہر نکالا جائے گا اس بہانہ کہ علیؑ نے آنحضرتؐ کو وقت دفن سے پہلے دفن کر دیا یا اس بہانے کہ جہاں آنحضرتؐ کو دفن کرنا چاہئے تھا وہاں نہیں کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور رکھے جنہوں نے پیغمبر اسلامؐ کو بستر علالت پر چھوڑ دیا تھا۔ اور رہبر متعین کرنے لگ گئے تھے۔ جب کہ امامت و قیادت کی اصل بنیاد تو نبوت و رسالت تھی اور ان لوگوں کی اس جلدی کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ ہمیں اقتدار اہل بیت کے پاس نہ چلا جائے۔

فرزند عزیز! خدا کی قسم! مجھے ان صحابہ کی مروءت و عقل اور مردانگی پر تعجب ہے جنہوں

نے رسولِ خدا کے عظیم ترین احسانات کا اس شکل میں بدلہ دیا اور آنحضرتؐ کے متعلق اس صرح کی جسارت کی۔

امام زین العابدین کے فرزند حضرت زید شہید نے کیا ہی خوبصورت جملہ کہا تھا:

”واللہ لو تمکس القوم ان طلبوا الملک بغير التعلق باسم رسالته کانوا قد عدلوا عن نبوته“ خدا کی قسم! اگر رسول اللہ کی نبوت کے تعلق کے حوالہ کے بغیر حکومت حاصل کرنا ممکن ہوتی تو یہ لوگ آنحضرتؐ کی نبوت کا ہی سرے سے انکار کر دیتے۔

اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے سید ابن طاہرؒ فرماتے ہیں:

رحلت کے بعد پیغمبر اکرمؐ کے حقوق ہیں اور خاص طور پر رحلت کے دن آنحضرتؐ کا امت پر یہ حق تھا کہ آنحضرتؐ کی وفات کی خبر سن کر تمام مسلمان خاک بلکہ ریت پر بیٹھتے اور مصیبت زدہ افراد جس طرح سے سیاہ لباس استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا لباس پہن کر اپنی سوگواری کی کیفیت کا اظہار کرتے اور آنحضرتؐ کی وفات کے دن شدتِ غم سے کھانے پینے سے احتراز کرتے اور تمام مردوزن ملکر آنحضرتؐ کی نوحہ خوانی کرتے اور گریہ و رازی کی آوازیں بلند کرتے کیونکہ اس دن سے زیادہ مصیبت کا دن نہ پہلے آیا اور نہ ہی بعد میں آئے گا۔

سقیفہ — براء بن عازب صحابی پیغمبر کی نظر سے

ابن ابی الحدید اور سلیم بن قیس نے براء بن عازب سے نقل کیا۔ انہوں نے کہا: مجھے ہمیشہ سے بنی ہاشم کے دوستوں اور خیر خواہوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ جب آنحضرتؐ کی وفات ہوئی تو اس خوف سے کہ کہیں منصبِ خلافت کسی دوسری جگہ نہ چلا جائے میں بڑا حیران و

1۔ براء بن عازب کا تعلق انصار کے قبیلے اوس سے تھا اور وہ آنحضرتؐ کے وفادار صحابی تھے۔ کثر غزوہ میں شریک رہے۔ حضرت غنی کے خاص اصحاب میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ ۲۳ھ میں ان کی زیر قیادت رے فتح ہوا۔ زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے کوفہ میں رہائش اختیار کر لی تھی اور مصعب بن زبیر کے عہدِ حکومت میں ان کی وفات ہوئی۔ اسد الغابہ جلد اول ص ۱۷۱ (مترجم فارسی)

پریشان تھ چنانچہ رسول خداؐ کے گھر جاتا اور آنحضرتؐ کے خاندان کو غسل و کفن کی تیاریوں میں دیکھتا اور پھر وہاں سے دوڑ کر سقیفہ جاتا اور وہاں جا کر دیکھتا کہ لوگ تعین ضیفہ میں مصروف ہیں۔ انصار مہاجرین پر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے اور مہاجرین انصار پر مسط ہونا چاہتے تھے۔ اسی مباحثہ میں کافی وقت گزر گیا۔ مجھے مشاہیر قوم اور ابو بکر و عمر دکھائی نہ دیئے کہ اچانک میں نے سنا کہ تمام لوگ سقیفہ میں جمع ہو چکے ہیں۔ اور ایک دوسرے شخص نے پکار کر کہا لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی۔

اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ بن جراح کو ایک جماعت کے ساتھ دیکھا انہوں نے صنعانی لباس پہنے ہوئے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی ملتا اسے فریب دے کر خوشی و ناخوشی پکڑ کر لاتے اور اس کا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ دیتے اور اس سے بیعت لے پیتے۔ یہ منظر دیکھ کر میری عقل جواب دے گئی پھر میں ڈھیروں غم لئے ہوئے خانہ پیغمبرؐ کی طرف آیا اور یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم نے جنازہ پیغمبرؐ کے غسل و کفن کے لئے گھر کا دروازہ بند کیا ہوا تھا میں نے زور سے دروازے پر دستک دی اور چیخ کر کہا۔ لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے۔

یہ سن کر رسول خداؐ کے چچا عباسؓ نے کہا: ”توبت ایدیکم الی آحر الدھر“ تمہارے ہاتھ ہمیشہ کے لئے خاک آلود ہو گئے (اب تم کبھی بھی اچھائی نہ پاسکو گے کیونکہ لوگوں نے نبی اکرمؐ کے فرمان پر توجہ نہیں کی اور مقام رہبرنی سے انحراف کیا)۔

بیعت بنی ہاشم

علامہ طبری نے کتاب الاحتجاج اور ابن قتیبہ دینوری نے الامتہ و السیماۃ میں نقل کیا ہے: ”جب امیر المؤمنین، رسول خداؐ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو غمگین اور سوگوار چہرہ نئے ہوئے مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ بنی ہاشم ان کے ارد گرد بیٹھ گئے اور زبیر بن عوامؓ بھی آپ کے

قریب بیٹھ گئے۔ مسجد کے دوسرے کونے میں بنی امیہ حضرت عثمان کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اور کونے میں بنی زہرہ عبدالرحمن بن عوف کے گرد حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اور یوں مسجد میں اس وقت کئی حلقے بنے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں ابوبکر، عمر اور ابو عبیدہ بن جراح مسجد میں داخل ہوئے اور کہا کہ تم علیحدہ علیحدہ گروہ بنا کر کیوں بیٹھے ہو۔ اٹھو اور ابوبکر کی بیعت کرو کیونکہ انصار اور دوسرے لوگوں نے ان کی بیعت کر لی ہے۔

یہ سنتے ہی عثمان اور عبدالرحمن اپنے ساتھیوں سمیت اٹھے اور انہوں نے ابوبکر کی بیعت کر لی۔

حضرت علیؑ اور بنی ہاشم مسجد سے نکل کر حضرت علیؑ کے گھر میں جمع ہو گئے زیر بھی ان کے ساتھ تھے۔

حضرت عمر ایک جماعت لے کر حضرت علیؑ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے جس میں حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے والے افراد تھے جن میں اسید بن خضیر اور سلمہ بن سلامہ نمایاں تھے۔ جب یہ لوگ دروازہ علیؑ پر آئے تو دیکھا وہاں بنی ہاشم جمع تھے۔ آنے والوں نے بنی ہاشم سے کہا، لوگ ابوبکر کی بیعت کر چکے ہیں تم بھی ان کی بیعت کرو۔ یہ سن کر زیر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی تلوار بلند کی۔

حضرت عمر نے کہا: اس پر حملہ کرو اور اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھو۔

سلمہ بن سلامہ دوڑ کر زیر کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ سے تلوار چھین کر حضرت عمر نے سلمہ کے ہاتھ سے تلوار لے کر اسے زمین پر اتنا مارا کہ وہ ٹوٹ گئی۔

بعد ازاں ان لوگوں نے بنی ہاشم کا محاصرہ کر لیا اور انہیں پکڑ کر مسجد میں حضرت ابوبکر کے پاس لے گئے اور ان لوگوں سے کہا گیا:

لوگ ابوبکر کی بیعت کر چکے ہیں تم بھی ان کی بیعت کرو۔ خدا کی قسم! اگر تم نے

سرتابی کی تو تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔

جب بنی ہاشم نے حالات کی نزاکت ملاحظہ کی تو وہ ایک ایک کر کے ابوبکر کے پاس آئے اور ان کی بیعت کی۔

خانہ علی و بتول پر یلغار

علامہ طبری نے احتجاج میں عبداللہ بن عبدالرحمن بن عوف سے نقل کیا ہے۔ اس نے کہا: عمر بن خطاب نے اپنے دامن کو مضبوطی سے باندھا اور مدینہ میں گھومنے لگے اور بلند آواز میں کہنے لگے:

لوگ ابوبکر کی بیعت کر چکے ہیں۔ تم لوگ بھی تیزی سے ابوبکر کی بیعت کرو۔ لوگ خوف زدہ ہو کر ابوبکر کی بیعت کرنے لگے۔

حضرت عمر کو اطلاع ملتی کہ ایک گروہ اپنے گھروں میں چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی جماعت کو لے کر ان پر یلغار کرتے اور انہیں بزور طاقت مسجد میں لے کر آتے اور ان سے حضرت ابوبکر کی بیعت لیتے۔

کئی روز تک یہی حالات رہے پھر عمر ایک بڑی جماعت لے کر حضرت علیؑ کے دروازے پر آئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ گھر سے نکل کر ابوبکر کی بیعت کریں۔ حضرت علیؑ نے ان کا مطالبہ مسترد کر دیا۔

عمر نے لکڑیاں اور آگ لانے کا حکم دیا اور کہا: والذی نفس عمر بیدہ لیخرجن اولاً حرقہ علی مافیہ "اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے یا تو یہ لوگ گھر سے باہر نکلیں گے یا میں اس گھر کو اس کے مکینوں سمیت جلا دوں گا۔"

بعض حاضرین نے عمر سے کہا: "اس گھر میں رسول خداؐ کی بیٹی فاطمہؑ اور ان کے

۱۔ شرح نوح البلاغ ابن ابی الحدید معتزل۔ جد ششم۔ ص ۴۸۔ تاریخ طبری

نواسے حسن و حسین اور آثار رسولؐ بھی ہیں۔“

حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا: تم نے کیا سوچا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ایسا کام کروں گا میرا مقصد انہیں ڈرانا ہے جلانا نہیں۔

حضرت علی نے پیغام بھیجا: ”میرا گھر سے باہر آنا ممکن نہیں کیونکہ میں قرآن مجید کو جمع کرنے میں مصروف ہوں جب کہ تم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے اور تم دنیا سے دس رگ پچھے ہو۔ میں قسم کھا چکا ہوں جب تک قرآن مجید جمع نہ کر لوں گا اس وقت تک نہ تو گھر سے باہر نکلوں گا اور نہ ہی اپنے کاندھوں پر مجب ڈالوں گا۔ اس وقت حضرت فاطمہ بنت پیغمبرؐ انھیں اور دروازے کی اوٹ کے قریب کھڑی ہوئیں اور لوگوں سے کہا: میں نے تم جیسی بے وفا قوم نہیں دیکھی۔ تم نے رسول خداؐ کے جنازے کو چھوڑ دیا اور اپنے معاملات خود ہی حل کر لئے اور تم نے ہم سے مشورہ تک نہ کیا اور تم نے ہمارے حق کو فراموش کر دیا ہے۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ گویا تمہیں روز غدیر کے واقعہ کا علم تک نہیں ہے۔ خدا کی قسم! رسول خداؐ نے اس دن علیؑ کی ولایت اور دوستی کا لوگوں سے عہد لیا تھا تاکہ خلافت کے متعلق تمہاری امید کو ختم کیا جاسکے۔ لیکن تم نے پیغمبر اکرمؐ سے اپنے تمام تعلقات منقطع کر لئے ہیں۔ واللہ حسب بیننا و بینکم فی الدنيا والاخرۃ اللہ دنیا و آخرت میں ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔

بیعت علیؑ اور علمائے اہلسنت

بیعت ابن قتیبہ دینوری کی نظر میں

ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری کا شمار اہل سنت کے بڑے علماء میں سے کیا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ کے دور میں انہوں نے زندگی بسر کی اور ۳۲۲ھ میں وفات پائی۔ وہ حضرت علیؑ کی بیعت کے متعلق الامامة والسیاسة میں یوم رقم طراز ہیں۔

پھر علیؑ کو ابوبکر کے پاس لے آئے جب کہ علیؑ یہ کہہ رہے تھے۔

انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ۔ میں اللہ کا بندہ اور رسول خدا کا بھائی ہوں۔

ایک شخص نے ان سے کہا: ابوبکر کی بیعت کرو۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: میں خلافت و امامت کے لئے تم سے زیادہ حق دار ہوں میں

تمہاری بیعت نہیں کرتا۔ تمہیں میری بیعت کرنی چاہئے کیونکہ تم نے خلافت اس بنیاد پر انصار سے حاصل کی ہے اور انصار کے مقابلہ میں تمہاری دلیل یہ تھی کہ تم رسول خدا کے رشتہ دار ہو۔

پھر تم نے اس خلافت کو ہم اہل بیت سے غصب کیا ہے۔ کیا تم نے انصار کے سامنے یہ دلیل پیش نہ کی تھی کہ تم محمد مصطفیٰ کی قرابت کی وجہ سے مقام ربہری کے حقدار ہو۔ اسی لئے انصار

نے مقام ربہری و خلافت تمہارے سپرد کر دیا تھا اور اپنا دعویٰ واپس لے لیا تھا۔ اب میں تمہارے سامنے وہی دلیل پیش کرتا ہوں جو تم نے انصار کے سامنے پیش کیا تھی۔ میں رسول خدا کی زندگی

اور ان کی وفات کے بعد بھی ان سے زیادہ قرابت رکھتا ہوں۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ انصاف کا سلوک کرو ورنہ اس علم و آگاہی کی وجہ سے تم ظالموں میں سے قرار پاؤ گے۔

حضرت عمر نے حضرت علیؑ سے کہا: ہم تمہیں اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک تم ابو بکر کی بیعت نہ کرو گے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: احلب حلبا لک شطره وشدله الیوم یردده علیک غدا۔
اس ناقہ خلافت کا دودھ اچھی طرح سے دوہ لے اس میں تیرا بھی حصہ ہے۔ آج ابو بکر کی خدفت کو مستحکم کر لے تاکہ کل وہ یہ حکومت تجھے لوٹائے۔

پھر آپؑ نے فرمایا: اے عمر! خدا کی قسم! میں تیری بات قبول نہیں کروں گا اور اس کی بیعت نہیں کروں گا۔

حضرت ابو بکر نے کہا: اگر تم بیعت نہیں کرتے تو میں تمہیں اس پر مجبور نہیں کرتا۔

ابو عبیدہ بن جراح نے کہا: چچا کے فرزند! تم جوان ہو اور یہ تمہاری قوم کے بزرگ ہیں اور تمہیں معاملات کا ان کی طرح سے تجربہ نہیں ہے۔ میری نظر میں ابو بکر تمہاری نسبت اس مقام کے لئے زیادہ طاقت ور ہیں۔ اور ان میں قوت برداشت اور معاملہ فہمی تمہاری نسبت زیادہ ہے لہذا تمہیں چاہئے کہ امر خلافت پر ان کا حق تسلیم کر لو۔ ہاں اگر تم زندہ رہے اور خدا نے تمہیں طویل زندگی عطا کر دی تو پھر تم بھی اپنی فضیلت، دین، علم اور قرابت رسول کی وجہ سے اس عہدہ کے سب سے زیادہ مستحق قرار پاؤ گے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: اللہ اللہ یا معشر المهاجرین لا تخرجوا سلطان محمدؐ فی العرب من داره وقریبته الی دورکم وفعور بیوتکم وتدفعون اہلہ عن مقامہ فی الناس وحقہ۔

رودہ مہاجرین خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ محمد مصطفیٰؐ کی حاکمیت کو عرب میں ان کے گھر سے مت نکالو، آنحضرتؐ کی حکومت کو اپنے گھروں میں مت لے جاؤ، خاندان محمدؐ کو ان

کے مقام سے محروم نہ رکھو اور ان کے حق کو پامال نہ کرو۔

گروہ مہاجرین! خدا کی قسم تمہارے درمیان مقام خلافت کے ہم ہی زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم اہل بیت پیغمبر ہیں اور امر خلافت کے لئے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔

انصار سے نصرت طلبی

ابن قتیبہ ان واقعات کو تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت علیٰ اپنی زوجہ حضرت فاطمہ زہراؑ کو رات کے وقت سواری پر بٹھ کر انصار کی مجلس میں لے جاتے تھے اور حضرت فاطمہ انصار سے اپنے شوہر کی مدد کا مطالبہ کرتی تھیں۔

وہ لوگ جواب میں کہتے تھے۔ دنتر پیغمبرؐ! اب تو ہم اس شخص کی بیعت کر چکے ہیں اگر آپ کے شوہر ابو بکر سے پہلے ہمارے پاس پہنچ جاتے تو ہم ان کی بات کو تسلیم کرتے اور ان کی رہبری کو قبول کر لیتے۔

حضرت علیٰ ان کے جواب میں فرمایا کرتے تھے:

کیا میں رسول خداؐ کا جنازہ ان کے گھر میں غسل و کفن کے بغیر چھوڑ کر اور انہیں ذمہ کئے بغیر تمہارے پاس آتا اور لوگوں سے حکومت کے لئے جھگڑے کرنا پھرتا؟
حضرت فاطمہ فرماتی تھیں:

ابو الحسن کے لئے رسول خداؐ کی تجہیز و تکفین زیادہ ضروری تھی۔ لیکن مہاجرین و انصار نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور دے گا۔

ابن قتیبہ بیعت علیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں: یہاں تک کہ ابو بکر نے بیعت نہ کرنے والوں کی تلاش کی تو انہیں علیٰ کے نزدیک پایا۔ عمر کو ان کے پاس بھیجا۔ عمر، علیٰ کے دروازے پر آئے اور آواز دے کر کہا بیعت کے لئے باہر آؤ۔

۱۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد ششم، ص ۱۳، جلد یازدہم، ص ۱۳۔

ان لوگوں نے عیٰ کے گھر سے نکلنے سے انکار کر دیا۔

عمر نے کہا: اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے یا تو تم لوگ باہر آ جاؤ ورنہ میں اس مکان کو اس میں موجود افراد سمیت جلا دوں گا۔
حاضرین میں سے بعض نے عمر سے کہا: ”مگر اس گھر میں تو حضرت فاطمہؑ بھی موجود ہیں۔“

عمر نے کہا: ”وان“ وہ ہے تو بے شک ہوتی رہے۔

اس دھمکی کی وجہ سے گھر میں پناہ گزین افراد کو مجبوراً باہر آنا پڑا اور انہوں نے ابو بکر کی بیعت کی۔ مگر علیؑ باہر نہ آئے کیونکہ ان کے متعلق گمان تھا کہ وہ قسم کھا چکے ہیں کہ وہ اس وقت تک باہر نہ نکلیں گے جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کر لیں۔

حضرت فاطمہؑ دروازہ کی اوٹ میں آ کر کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے مہاجرین سے خطاب کر کے کہا: میں تم سے زیادہ وعدہ خلاف قوم کو نہیں جانتی۔ تم نے رسول خداؐ کا جنازہ ہمارے پاس رہنے دیا اور اپنے کام کے پیچھے چل پڑے۔ تم نے ہمارے بغیر ہی اپنے کام کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ ہمیں امر خلافت سے دور کر دیا، ہمارا حق پامال کیا اور اسے غصب کر لیا۔

جب عمر نے حضرت فاطمہؑ کی یہ باتیں سنیں تو ابو بکر کے پاس گئے اور اس سے کہا: آیا تو اس شخص (حضرت علیؑ) کو جو کہ بیعت کی مخالفت کر رہا ہے اپنے پاس کیوں طلب نہیں کرتا؟

ابو بکر نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام ”ثقفذ“ سے کہا

تو علیؑ کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔

ثقفذ حضرت علیؑ کے پاس آیا تو حضرت علیؑ نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟

ثقفذ نے کہا: خلیفہ رسول آپ کو بلا تے ہیں۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: تم نے کتنی جلدی رسول خداؐ پر جھوٹ تراش لیا ہے (کہ اپنے

آپ کو جانشین رسول کہنے لگ گئے)۔

قنفذ واپس آیا اور حضرت علیؑ کی گفتگو حضرت ابو بکرؓ و پہنچی۔

حضرت علیؑ کی بات سن کر ابو بکرؓ نے سخت مریہ کیا۔

عمر نے دوبارہ ابو بکرؓ سے کہا: اس اختلاف کرنے والے شخص کو مہلت نہ دے۔

ابو بکرؓ نے قنفذ سے کہا کہ علیؑ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ امیر المؤمنین آپ کو

بلاتے ہیں کہ آپ آ کر بیعت کریں۔

قنفذ آیا اور اس نے ابو بکرؓ کا پیغام حضرت علیؑ کا پہنچایا۔

حضرت علیؑ نے بلند آواز سے کہا:

”سبحان اللہ لقد ادعی مالیس له“ تعجب ہے وہ اس مقام کا دعویٰ کرنے لگا ہے

جس کا وہ اہل نہیں ہے۔

قنفذ واپس گیا اور حضرت علیؑ کے جواب سے انہیں مطلع کیا۔

یہ جواب سن کر ابو بکرؓ بہت روئے۔

اب کی بار عمر اٹھے، ایک جماعت کو اپنے ساتھ لیا اور دروازہ قاطعہ پر پہنچ گئے اور

دستک دی۔ جب فاطمہ زہراؑ نے ان کی بات سنی تو انہوں نے بلند آواز سے اپنے والد سے کہا:

”ابا جان! اے رسول خدا! آپ کے بعد خطاب اور ابو قحافہ کے بیٹوں نے ہم پر کیسے ظلم کئے ہیں۔“

جب عمر کے ساتھیوں نے سیدہ کے رونے کی آواز سنی تو وہ بھی مغموم ہوئے اور

رونے لگے اور وہ اتنا روئے کہ شدت گریہ سے ان کے دل پھٹنے کے قریب ہو گئے اور ان کے

جگر میں سوراخ سا ہونے لگا۔ لیکن عمر چند افراد سمیت درتول پر کھڑے رہے۔ انہوں نے علیؑ

کو باہر نکالا کیا اور انہیں ابو بکرؓ کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ ابو بکرؓ کی بیعت کرو۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: میں بیعت نہیں کرتا۔

انہوں نے کہا: خدا کی قسم اگر تم نے بیعت نہ کی تو ہم تمہاری گردن اتار دیں۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: اگر تم نے ایسا کیا تو تم ایک بندہ خدا اور برادر رسولؐ کے قاتل

قرار پاؤ گے۔

عمر نے کہا: عبد اللہ فنعیم واما احو رسولہ فلا بندہ خدا کی بات تو صحیح ہے لیکن ہم تمہیں رسول خدا کا بھائی نہیں مانتے۔

اس دوران ابوبکر بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بات نہیں کر رہے تھے، عمر نے ان سے کہا: علی کو بیعت کا حکم نہیں دو گے؟

ابوبکر نے کہا: جب تک علی کے گھر میں فاطمہ موجود ہیں میں ان پر کوئی جبر نہیں کروں گا۔

حضرت علی قبر پیغمبر کے نزدیک آئے اور رو کر غمگین آواز میں کہا: یا بن ام ان القوم استصغفونی وکادوا یقتلوسی۔ (الاعراف۔ ۱۵۰)

ماں جانے! لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔

ابوبکر کی سیدۃ سے گفتگو

عمر نے ابوبکر سے کہا ہمیں فاطمہ کے پاس لے چلو ہم نے اسے غضبناک کیا ہے۔ عمر اور ابوبکر دونوں مل کر دروازہ زہرا پر گئے اور داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ سیدۃ نے انہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔ پھر وہ دونوں حضرت علی کے پاس گئے اور اس سلسلہ میں ان سے گفتگو اور انہوں نے حضرت علی کو اپنے اور حضرت سیدۃ کے درمیان واسطہ بنایا۔

حضرت علی نے حضرت سیدۃ سے اجازت لے لی اور انہیں لے کر حضرت سیدۃ کے پاس آئے۔ لیکن فاطمہ زہرا نے ان سے اپنا رخ موزیا۔ انہوں نے سلام کیا۔ فاطمہ زہرا نے انہیں سلام کا جواب نہ دیا۔

ابوبکر نے کہا رسول خدا کی محبوب ترین شخصیت! خدا کی قسم! رسول خدا کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں اور آپ مجھے میری بیٹی عائشہ سے زیادہ پیاری ہیں۔

میری تو حسرت رہی کہ رسول خدا زندہ رہتے، ان کی وفات کے دن میں مر جاتا اور ان کے بعد زندہ نہ رہتا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کے فضائل پہچان کر بھی آپ کو میراث سے محروم کر سکتا ہوں؟

میں نے آپ کے والد رسول خدا سے سنا وہ کہتے تھے:

”لا نورث ما ترکناہ فهو صدقۃ“ ہم گروہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی ہم جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔

حضرت فاطمہ نے فرمایا: اگر میں اپنے والد کی حدیث تمہارے سامنے بیان کروں تو کیا تم تسلیم کرو گے؟

دونوں نے کہا: جی ہاں تسلیم کریں گے۔

حضرت فاطمہ نے کہا: میں تم دونوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں کہ کیا تم نے رس خدا کو یہ کہتے نہیں سنا تھا: ”رضا فاطمہ من رضای وسخط فاطمہ من سخطی فمن احب فاطمہ ابنتی احببى ومن ارضى فاطمہ فقد ارضانى ومن اسخط فاطمہ فقد اسخطنى۔ یعنی فاطمہ کی رضامندی میری رضامندی اور فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔“

یہ سن کر دونوں نے کہا: جی ہاں! ہم نے یہ پیغمبر اکرم سے سنا ہے۔

حضرت فاطمہ نے فرمایا: میں خدا اور اس کے فرشتوں کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے اور راضی نہیں کیا۔ میں تم دونوں کی اپنے والد رسول خدا سے شکایت کروں گی۔

ابوبکر نے کہا: میں خدا کی ناراضگی اور فاطمہ کی ناراضگی سے بچنے کے لئے خدا کی پناہ

چاہتا ہوں۔

پھر ابو بکر اتاروئے کہ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے بدن سے نکل جاتی۔
پھر حضرت فاطمہ زہرا نے ان سے کہا: خدا کی قسم میں ہر نماز کے بعد تجھ پر بدعا
کروں گی۔

ابو بکر روتے ہوئے بتوں کے گھر سے نکلے۔ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تو انہوں نے
لوگوں سے کہا: تم میں سے ہر شخص رات کو اپنی بیوی کے پہلو میں آرام کرتا ہے اور ایک دوسرے
کے گلے میں بانہیں ڈال کر سوتا ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ خوش ہے۔ لیکن تم نے مجھے ان
مصائب میں پھنسا دیا ہے۔ مجھے تمہاری اس بیعت کی ضرورت نہیں ہے تم اپنی بیعت توڑ لو۔
لوگوں نے کہا: اے جانشین پیغمبر! تمہارے سوا خلافت کسی اور سے نہیں چل سکتی کیونکہ
تم امورِ خلافت کو ہم سے بہتر جانتے ہو اور اگر تم نے امورِ خلافت سے ہاتھ ہٹا دیا تو اللہ کا دین
تباہ ہو جائے۔

ابو بکر نے کہا: خدا کی قسم اگر مجھے دین کی رسی کمزور ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو جو کچھ
میں فاطمہ سے یں کر آیا ہوں ایک رات بھی اس حالت میں بسر نہ کرتا کہ کسی مسلمان کے گلے
میں میری بیعت کا قلابہ موجود ہو۔

ابن قتیبہ لکھتے ہیں: جب تک فاطمہ زندہ رہیں حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہ
کی اور حضرت فاطمہ رسولِ خدا کی وفات کے بعد پچھتر دن سے زیادہ زندہ نہ رہیں۔ (اتہی کلامہ)

ابن عبد ربہ اندلسی کا قول

احمد بن محمد قرظی مروانی مالکی جو کہ ابن عبد ربہ اندلسی کے لقب سے مشہور
تھا (متوفی ۳۲۸ھ) اور وہ اہل تشنن کے بزرگ علماء میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اس نے
ایک کتاب لکھی جس کا نام ”العقد الفرید“ ہے اور وہ بہت اچھی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس
کتاب کی جلد دوم میں اس نے بیعت علی کا تذکرہ کیا اور اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے:

حضرت ابو بکر کی بیعت کی مخالفت مندرجہ ذیل افراد نے کی تھی۔

علی، عباس اور زبیرؓ حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھ گئے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں گھر سے نکالیں اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا: اُتر یہ لوگ باہر آنے سے انکار کریں تو ان کے ساتھ جنگ کرنا۔

عمر اپنے ساتھ آگ لے کر گئے تاکہ خانہ فاطمہ کو جلا ڈالیں۔ حضرت فاطمہ اس کے سامنے آئیں اور اس سے فرمایا:

فرزند خطاب! تو اس لئے آیا ہے کہ ہمارے گھر کو آگ لگا دے؟

عمر نے کہا: جی ہاں! ورنہ دوسرے لوگوں کی طرح سے آؤ اور بیعت کرو۔

علی گھر سے نکلے اور ابو بکر کے پاس گئے اور ان کی بیعت کی۔

مشہور مورخ مسعودی کی گفتگو

علی بن حسین مسعودی، عبداللہ بن مسعود کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے ”مروج الذهب“ نامی کتاب لکھی۔ ان کی کتاب پر معنی تصور کی جاتی ہے۔ وہ اپنی اس کتاب میں عبداللہ بن زبیر کے حالات میں لکھتے ہیں۔

عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں جتنے بھی بنی ہاشم تھے ان سب کو گرفتار کر کے شعب ابی طالب میں جمع کیا۔ ان کے ارد گرد اس نے بڑی مقدار میں لکڑیاں جمع کرادی تھیں اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ اگر بنی ہاشم نے اس کی بیعت نہ کی تو وہ لکڑیوں کو آگ لگا دے گا۔ اور بنی ہاشم میں سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچے گا۔ ان قیدیوں میں حضرت علیؓ کے فرزند محمد حنیفہ بھی تھے۔

مسعودی آگے نقل کرتے ہیں: امیر مختار نے ابو عبداللہ جدلی کو چار ہزار کا لشکر دے کر بھیجا اور وہ لشکر لے کر مکہ آیا اور اس نے بنی ہاشم کو اس بلاست سے نجات دلائی۔

مسعودی لکھتے ہیں۔ نوفلی نے اپنی کتاب میں حضرت عائشہ کے ایک عقیدت مند سے نقل کیا ہے کہ حماد بن سلمہ نے کہا عبداللہ بن زبیر کے اس فعل پر جب لوگ تنقید کرتے تھے تو اس کا بھائی عروہ بن زبیر اپنے بھائی کی وکالت کرتے ہوئے کہتا تھا

لکڑیاں جمع کرنے سے عبداللہ کا مقصد بنی ہاشم کو خوفزدہ کرنا تھا اور انہیں جانا مقصود نہ تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس طرح سے بنی ہاشم بیعت کریں۔ اور یہی عمل تو عمر بن خطاب نے بھی بنی ہاشم سے روا رکھا تھا اور اس نے بھی تو انہیں جلانے کے لئے لکڑیاں جمع تھیں کیونکہ وہ بیعت سے پس و پیش کر رہے تھے۔ (یعنی عبداللہ بن زبیر نے لکڑیاں جمع کر کے حضرت عمر کی سنت پر عمل کیا تھا)۔

پھر نوفلی نے لکھا: ان الفاظ کی شرح یہاں نہیں ساسکتی البتہ ہم نے مناقب اہل بیت اور ان کی سوانح حیات پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ”حدائق الازہان“ ہے۔ اس کتاب میں ہم نے ان الفاظ کا مقصد واضح کیا ہے۔

چند شیعہ علماء کی گفتگو

مذہب شیعہ کے بزرگ عالم سید مرتضیٰ علم الہدی المتوفی ۱۳۶۱ھ اپنی کتاب الشافی میں خانہ فہمۃ کے جلانے کے سلسلے میں قاضی القضاة کے کلام کی تردید کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

آگ لگانے کے واقعہ کو علمائے شیعہ کے علاوہ ایسے علمائے اہل سنت نے بھی بیان کیا ہے جو کہ اہل سنت کے نزدیک متم نہیں ہیں اور کسی دلیل کے بغیر ان روایات کو رد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

مشہور مورخ بلاذری اہل سنت کے قابل وثوق عالم ہیں اور علمائے اہل سنت ان کی بیان کردہ روایات کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ بلاذری پر تشیع کا الزام بھی نہیں ہے، اس بلاذری نے مدائنی سے نقل کیا ہے:

حضرت ابو بکر نے ایک شخص کو علیؑ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے جبری بیعت لی جائے مگر علیؑ نے بیعت نہ کی۔ بعد میں عمر آگ کی کچھ مقدار لے کر علیؑ کے گھر کی طرف آئے اور حضرت فاطمہؑ کو ایک کونے میں بیٹھا ہوا دیکھا۔

حضرت فاطمہؑ نے اس سے کہا: فرزند خطاب! میں خیال کرتی ہوں کہ تو ہمارے گھر کو جلانے کے لئے آیا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟

حضرت عمر نے جواب میں کہا: یہ کام تمہارے والد کی شریعت کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ اس وقت علیؑ گھر سے نکلے اور انہوں نے بیعت کی۔

اس روایت کو شیعہ راویوں نے مختلف اسناد و طرق سے بیان کیا ہے اور ظنف یہ ہے کہ اہل سنت کے بزرگ محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔

ابراہیم سعید ثقفی نے اپنی اسناد سے امام جعفر صادق سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا: واللہ ما بايع علي حتى راى الدخان قد دخل بيته

خدا کی قسم! علیؑ نے مجبور ہو کر اس وقت بیعت کی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں دھواں داخل ہو چکا ہے۔

سید ابن طاووس کی گفتگو

ملت شیعہ کے مایہ ناز عالم دین سید ابن طاووس التوفی ۶۶۳ھ اپنی کتاب ”کشف المحجہ“ میں حضرت ابو بکر کی زندگی کی شرح اور ان کے لشکر اسامہ سے پیچھے رہنے اور سقیفہ میں غصب خلافت کے واقعات کے ضمن میں اپنے بیٹے کو خطاب کر کے لکھتے ہیں: اس نے ان امور کو تو سرانجام نہ دیا اس کی بجائے اس نے عمر کو تیرے باپ علیؑ اور تیری ماں فاطمہؑ کے دروازے پر بھیجا۔ اور اس وقت عباسؑ اور بنی ہاشم کی ایک جماعت علیؑ و بتول کے پاس موجود تھی اور یہ لوگ تیرے نانا جناب رسولؐ کے سوگ میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔

حضرت عمر نے آتے ہی علم دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت کے لئے گھر سے باہر نہ آئیں تو اس گھر کو جلا دو۔ جیسا کہ کتاب ”العقد الفرید“ کے مؤلف نے اپنی کتاب کی جلد چہارم میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور اہل سنت محدثین نے جو کہ کسی طور بھی تشیع کے الزام سے متہم نہیں ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے اور جلانے کے متعلق جہاں تک میری تحقیق ہے آج تک کسی بھی بے رحم اور ظالم شخص نے انبیاء و اوصیاء کو نہیں جلایا اور جلانے کا یہ کام صرف ان کے ہی مقدر میں آیا ہے۔ حد یہ ہے کہ آج تک کافر سلاطین کے بارے میں بھی یہ روایت نہیں پڑھی کہ انہوں نے بیعت نہ کرنے والے افراد کے گھر نذر آتش کئے ہوں۔ البتہ کافر سلاطین کی تاریخ میں دھمکیوں اور مار پیٹ اور قتل کرنے کے واقعات ضرور دکھائی دیتے ہیں لیکن جلانے کا کوئی واقعہ تاریخ میں دکھائی نہیں دیتا۔

اور اس سلسلے میں، میں تو یہ بھی کہتا ہوں:

ہمیں آج تک کسی ایسے پیغمبر یا حکمران کے متعلق یہ واقعہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا کہ اس نے لوگوں کو غربت و ذلت اور خسارہ سے نجات دی ہو اور انہیں دنیا و آخرت کی سعادت کی رہنمائی کی ہو اور اللہ نے اس کی نبوت کی برکت سے جہاروں کی سلطنت کا خاتمہ کیا ہو اور پھر وہ پیغمبر یا حکمران دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی امت یا رعیت میں صرف ایک بیٹی چھوڑ کر گیا ہو اور وہ لوگوں سے یہ بھی کہہ کر گیا ہو:

یہ میری بیٹی دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور اس بیٹی کے دوڑ کے ہوں جن کی عمریں سات برس کے لگ بھگ ہوں، تو کیا اس پیغمبر کی امت یا ایسے کسی حکمران کی رعیت کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا بدلہ چکانے کے لئے اس کی بیٹی اور اس کے نواسوں کو جلانے کے لئے آگ لے کر جائیں اور بالخصوص جب کہ وہ بیٹی اور اس کے بیٹے اس پیغمبر یا حکمران کے لئے روح و جان کا درجہ رکھتے ہوں؟

ایک عجیب داستان

علامہ طبری کتاب الاحْتِجَاج میں احمد بن ہشام کی زبانی لکھتے ہیں۔

میں حضرت ابوبکر کے عہدِ خلافت میں عبادہ بن صامت (ایک مشہور صحابی) کے پاس گیا اور ان سے کہا: کیا خلافت کے حصول سے قبل بھی لوگ حضرت ابوبکر کو دوسرے صحابہ سے افضل سمجھتے تھے؟

عبادہ بن صامت نے کہا: جب ہم کسی موضوع کے متعلق خاموش رہیں تو تمہیں بھی خاموش رہنا چاہئے اور خواہ مخواہ کا تجسس نہیں کرنا چاہئے۔ خدا کی قسم! حضرت علیؓ، ابوبکر کی بہ نسبت خلافت کے ایسے ہی حقدار تھے جیسا کہ محمد مصطفیٰؐ ابوجہل کی بہ نسبت نبوت کے حقدار تھے۔ مجھے وہ واقعہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم ایک دن پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ علیؓ اور ابوبکرؓ و عمرؓ دروازہ رسولؐ میں داخل ہوئے۔ پہلے ابوبکرؓ داخل ہوئے، پھر عمرؓ داخل ہوئے اور آخر میں علیؓ داخل ہوئے۔

یہ منظر دیکھ کر رسول خداؐ کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی پھر انہوں نے علیؓ سے فرمایا: کیا یہ دو اشخاص تجھے پشت کر کے چلے جب کہ خدا نے تجھے ان کا امیر مقرر کیا ہے؟! ابوبکرؓ نے کہا: یا رسول اللہؐ میں بھول گیا تھا۔ عمرؓ نے کہا: یا رسول اللہؐ مجھ سے غفلت اور غلطی ہو گئی۔

رسول خداؐ نے فرمایا: لا نسیتما ولا سہوتما..... تم نہ تو بھولے ہو اور نہ ہی تم سے غفلت ہوئی ہے۔ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم نے مقام رہبری اس کے ہاتھ سے چھین لیا ہے اور قوت و اقتدار کے حصول کے لئے اس سے جنگ اور جھگڑا کر رہے ہو اور خدا و رسولؐ کے دشمن تمہارے مددگار بن چکے ہیں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم نے مہاجرین و انصار کو حصول دنیا کی اتنی رغبت دلائی ہے کہ وہ آپس میں تلواریں لے

کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے اہلیت کو مظلوم و مقہور دیکھ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا خاندان زمین کے اطراف و اکناف میں منتشر ہو چکا ہے اور یہ بات خدا کے علم میں ثابت ہو چکی ہے۔

پھر رسول خدا اتاروئے کہ آپ کے آنسو ٹپکنے لگے اور آپ نے علیؑ سے فرمایا: یا علی الصبر الصبر حتی ينزل الامر و لا قوة الا بالله العلي العظيم.....

علی! ان حالات میں صبر کرنا اور صابر رہنا یہاں تک کہ خدا کا فیصلہ نازل ہو۔ خداوند بزرگ و برتر کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ اور صبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ تجھے اتنا اجر عطا فرمائے گا جسے لکھنے والے دو فرشتے شمار نہیں کر سکیں گے اور جب تیرے ہاتھوں میں قوت و طاقت آجائے تو تلوار اٹھالینا اور اپنے مخالفین کو اس قدر مارنا کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف واپس لوٹ آئیں کیونکہ تو حق پر ہے اور جو لوگ تیرے ساتھ باطل کے خداف کھڑے ہوں گے وہ حق پر ہوں گے۔ اسی طرح تیرے بعد تیری اولاد قیامت تک حق پر ہوگی۔

خطبہ ششستہ

خلافت کا حقیقی آئینہ

شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ابن عباسؓ کی سند سے نقل کیا کہ ہم حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں ان کے پاس بیٹھے تھے کہ خلافت کے معاملات کا ذکر چھڑ گیا تو آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: (ہم یہ خطبہ نبیؐ سے نقل کر رہے ہیں)

اما والله لقد تقمصها ابن ابی قحافة وانه ليعلم ان محلى منها محل القطب من الرحى. ينحدر عنى السيل ولا يرقى الى الطير فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت ارتائی بين ان اصول بيد جذاء او اصبر على طخيه عمياء. يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدر فيها مومن حتى يلقى ربه.

فرأيت ان الصبر على هاتا احجى فصبرت وفى العين قذى وفى الحلق شجا ارى ترائى نهبا حتى مضى الاول لسبيله فادلى بها الى ابن خطاب بعده.

(تم مثل بقول الاعشى) شتان ما يومى على كورها ويوم حيان اخى جابر.

فيا عجا بينا هو يستقيلها فى حياته اذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ماتشظرا

ضر عيها فصيرها فى حوزة خشاء يغلفد كلامها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منها. فصاحبها كراكب الصعبة ان اشق لها خرم وان اسلس لها قحمة.

فمنى الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلون واعتراض فصيرت على طول
 المدة وشدة المحنة حتى اذا مضى لسبيله جعلها فى جماعة زعم انى احد هم فى الله
 وللشورى متى اعترض الريب فى مع الاول منهم حتى صرت اقرن الى هذه
 النظائر لكنى اسففت اذ اسفوا وطررت اذ اطاروا. فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر
 لصهره مع من وهن. الى ان قام ثالث القوم نافجا حنضيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه
 بنوابيه يخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربيع الى ان انتكث فتله واجهز عليه
 عمله وكبت به بطنته.

فما راعى الا والناس كعرف الضيع الى يتالون على من كل جانب حتى
 لقد وطنى الحسان وشق عطفائى مجتمعين حولى كبريضة الغم. فلما نهضت بالامر
 نكثت. طائفة ومرقت اخرى وقسط اخرون كانهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول
 "وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا والعاقبة
 للمتقين". (سورة قصص آيت ۸۳)

بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا فى اعينهم وراقهم
 زبرجها. اما والذى فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود
 الناصر وما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لا لقيت
 حبلها على غاربها ولسقيت اخرها بكاس اولها ولا لقيت دنياكم، هذه ازهد عندي
 من عطفة عنز.

"خدا کی قسم فرزند ابوقاف نے پیراہن خلافت پہن لیا حالانکہ وہ میرے بارے میں
 اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیلی کا ہوتا ہے۔
 میں وہ (کوہ بلند) ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک
 پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ (اس کے باوجود) میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو

تبی کرنی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے تنہا ہاتھوں سے (بغیر کسی مددگار کے) قیام کروں یا اس بھی تک تیری پر صبر کر لوں۔ جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور موسم اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔

مجھے اس اندھیرے پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا۔ لہذا میں نے صبر کیا حالانکہ آنکھوں میں (غبار اندوہ کی) خلش تھی اور حلق میں (غم ورنج کے) پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لیتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔“

پھر آپ نے بطور تمثیل اعشیٰ کا یہ شعر پڑھا: کہاں یہ دن جو ناقہ کے پالان پر کنتا ہے۔ اور کہاں وہ دن جو حیان برادر جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔^۱

تجب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد کو دوسروں کے لئے استوار کر گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کو اونٹنی کے تھنوں کی طرح آپس میں بانٹ لیا تھا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت و درشت محل میں رکھ دیا جس کے چر کے کاری تھے جس کو چھو کر بھی درشتی محسوس ہوتی تھی جہاں بات بات پہ ٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرتا تھا۔

۱۔ حیان ابن سہیل یمامہ میں قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار اور صاحب قلعہ و سپاہ تھا۔ جابر اس کے چھوٹے بھائی کا نام ہے اور اعشیٰ جس کا اصلی نام سہیل ابن قیس ہے، اس کی بزم ناؤ و نوش میں ندیم و مصاحب کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کے انعام و کرام سے خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس شعر میں اس نے اپنی پہلی زندگی کا موجودہ زندگی سے تقابل کیا ہے کہ کہاں یہ دن کہ جب رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے اور کہاں وہ دن جو حیان کی مصاحبت میں آرام و چین سے گزر رہے تھے۔

امیر المؤمنین کے اس شعر کو بطور تمثیل لانے کا مقصد عموماً یہ سمجھا گیا کہ وہ اپنے دکھ بھرنے کا مقابہ اس زمانے سے کہہ رہے ہیں جو پیغمبر کے دامان عاطفت سے گزرتا تھا اور ہر طرح کے غل و غش سے پاک اور روحانی سکون کا سرد سامان لئے ہوئے تھا۔ لیکن محل تمثیل اور مضمون شعر پر نظر کرتے ہوئے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہر کھینچتی ہے (تو اس کی منہ زوری سے) اس کی ناک کا درمیانی حصہ ہی شکافتہ ہوا جاتا ہے اور اگر باگ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مہلکوں میں پڑ جائے گا۔

اس کی وجہ سے خدا کی قسم! لوگ کجروی، سرکشی، متلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا۔ یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا۔ اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا اور مجھے بھی اس جماعت کا فرد خیال کیا۔

اے اللہ مجھے اس شورئی سے کیا لگاؤ؟ ان میں کے سب سے پہلے کے مقابلہ ہی میں میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا جو اب ان لوگوں میں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ جب وہ زمین کے قریب ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں۔

ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا اور دوسرا دامادی اور بعض ناگفتہ بہ باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا۔

یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص بیٹ پھلائے سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا

(گزشتہ سے پیوست)

یہ مقصود ہو تو بعید نہیں ہے کہ برسر اقتدار افراد کی زمانہ رسولؐ میں نے وقتی اور موجودہ حالات میں ان کے اقتدار و اختیار کا فرق دکھلایا جائے یعنی ایک وقت وہ تھا کہ رسولؐ کے زمانے میں میرے سامنے ان کی بات بھی نہ پوچھی جاتی تھی اور اب یہ دور آیا ہے کہ یہ امور مسئمن کے واحد مالک بنے ہوئے ہیں۔

حضرت عمرؓ کا قائم کردہ شورئ ان افراد پر مشتمل تھی حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، سعد بن وقاصؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، طلحہؓ، زبیرؓ۔ یہ لوگ ایک مقام پر اکٹھا ہوئے۔ زبیر نے اپنا حق علیؓ کو دے دیا، طلحہ نے اپنا حق حضرت عثمانؓ کو دے دیا، سعد بن وقاصؓ نے اپنا حق عبدالرحمن کے حوالے کیا۔

ایک طویل خاموشی کے بعد عبدالرحمن نے علیؓ سے کہا میں اس بات پر آمادہ ہوں کہ اپنا حق آپ کے حوالے کروں بشرطیکہ آپ کتاب خدا، سنت پیغمبرؐ اور روش شیخین پر عمل کریں۔

حضرت علیؓ نے فرمایا بلکہ میں کتاب خدا اور سنت پیغمبرؐ پر عمل کروں گا۔ عبدالرحمن بن عوف نے اپنی پیشکش عثمانؓ کے سامنے رکھی۔ تو عثمانؓ نے اسے قبول کیا اس طرح (عمرؓ کے پروگرام کے مطابق) عثمانؓ تک خلافت پہنچ گئی۔

(شرح نوح ابلاغہ ابن ابی الحدید جلد ۱۔ صفحہ ۱۸۸) مترجم فارسی۔

ہوا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگتے تھے جس طرح اونٹ فصل ریح کا چارہ چرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی رسی کے بٹے ہوئے بل کھل گئے اور اس کی بد اعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکم پری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔

اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بچو کے ایال کی صرح سے لگاتار بڑھ رہا تھا۔ یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن و حسین کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہیں تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لئے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ (بے جا) بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں اور اچھا انجام پر ہیمنگاریوں کے لئے ہے۔

ہاں ہاں خدا کی قسم! ان لوگوں نے اسے سنا تھا اور یاد کیا تھا۔ لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھب گیا تھا اور اس کی جج دھج نے انہیں لہجا دیا تھا۔

دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شکافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کیں۔ اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر رحمت تمام نہ ہوگئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں تو میں خلافت کے اونٹ کی باگ ڈور اس کے کندھوں پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اس کے اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کو اول سیراب کیا تھا اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔“

لوگوں کا بیان ہے کہ جب حضرت خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور اس نے ایک نوشتہ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ آپ اسے دیکھنے لگے۔

جب فارغ ہوئے تو ابن عباسؓ نے کہا: یا امیر المؤمنین آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔

حضرت نے فرمایا: ہیہات یا ابن عباس تلک شِقْشِقَةُ هَدْرَتِ ثَم قَرَّتْ
اے ابن عباسؓ یہ تو شقشقہ (گوشت کا وہ نرم لوتھڑا جو اونٹ کے منہ سے مستی کے
وقت نکلتا ہے) تھا جو ابھر کر دب گیا۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں: خدا کی قسم! مجھے اس کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس
کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔

علامہ ابن ابی الحدید کے استاد کی خوبصورت گفتگو

علامہ ابن ابی الحدید تحریر کرتے ہیں:

ہم سے ہمارے استاد صدق بن شیبہ واسطی نے ۶۰۳ھ میں فرمایا کہ میں نے
اس خطبہ کو شیخ ابو محمد عبداللہ ابن احمد سے جو کہ ابن خشاب کے نام سے مشہور ہیں پڑھا اور جب
اس مقام پر پہنچا کہ (جہاں ابن عباسؓ نے اس خطبہ کے نامکمل رہ جانے پر اظہار افسوس کیا ہے)
تو ابن خشاب نے مجھ سے کہا کہ اگر میں ابن عباسؓ سے افسوس کے کلمات سنتا تو ان سے ضرور
کہتا کہ کیا آپ کے ابن عم کے جی میں ابھی کوئی حسرت رہ گئی ہے جو انہوں نے پوری نہ کی
ہو۔ انہوں نے تو نہ اگلوں کو چھوڑا ہے نہ پچھلوں کو۔ جو کہنا چاہتے تھے سب کہہ ڈالا اب افسوس
کا ہے کا کہ وہ اتنا نہ کہہ سکے جتنا کہنا چاہتے تھے۔

ابن عباسؓ کے سامنے درد دل کا اظہار

علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کشف اللیقین کے حوالے سے بحار الانوار میں ابن عباسؓ کی
یہ روایت نقل کی ہے۔

ابن عباسؓ کا بیان ہے۔ میں حضرت علیؓ کے جلال کا دو مواقع پر مشاہدہ کیا کرتا تھا۔

جب وہ کسی چیز کو یاد کرتے۔ یا جب کوئی بیجان برپا کرنے والی خبر سنتے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک شامی پیروکار نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ عمرو بن عاص، عتبہ بن ابی سفیان، ولید بن عقبہ اور مروان معاویہ کے دربار میں جمع ہوئے اور انہوں نے آپ پر دل کھول کر تنقید کی۔ اور لوگوں کو بتایا کہ علیؑ قتل عام کر کے محمد مصطفیٰؐ کے اصحاب کو کم کر رہا ہے اور ان لوگوں میں جو جو عیب تھے انہوں نے اپنے تمام عیوب کی نسبت آپ کی طرف دی۔

یہ خط حضرت کو اس وقت ملا جب آپ اپنے لشکر کو حکم صادر کر چکے تھے کہ وہ ”نخیلہ“ کی عسکرگاہ میں جمع ہوں جہاں سے معاویہ کے مقابلہ کے لئے صفین کی طرف روانگی ہونا تھی۔ لیکن حضرت علیؑ کے سپاہیوں نے سستی کی، ان کی کثرت کو فہ چلی گئی اور آپ کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا۔

اپنے سپاہیوں کے اس طرز عمل پر حضرت بہت خفا ہوئے۔ مجھے جب ان حالات کا علم ہوا تو میں رات کے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا اور حضرت کے خادم قنبر سے پوچھا: امیر المؤمنین کا کیا حال ہے؟

قنبر نے کہا: وہ اس وقت سوئے ہوئے ہیں۔

حضرت نے قنبر کی بات سن لی اور فرمایا: کون ہے؟

قنبر نے کہا: امیر المؤمنین یہ ابن عباسؓ ہے۔

ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ امامؑ نے مجھے داخل ہونے کی اجازت دی۔ میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپؑ بستر کے ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جسم پر ایک کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور انتہائی بے چین دکھائی دے رہے تھے۔

یہ حالت دیکھ کر میں نے ان سے کہا: امیر المؤمنین! آج رات آپ بہت پریشان محسوس ہوتے ہیں آپ کو نیند نہیں آئی؟

آپؑ نے فرمایا: ابن عباسؓ تجھ پر افسوس! جب دل ہی بے قرار ہو تو آنکھوں میں نیند

کہاں سے آئے۔ دل تمام اعضاء کا سلطان ہے۔ جب دل میں بے چینی ہو تو آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے۔

میں آج رات کے ابتدائی حصے سے فکر میں ڈوبا رہا۔ پہلے میں نے اس منظر کے متعلق سوچا کہ رحلت پیغمبرؐ کے بعد امت نے کس طرح سے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا اور انہوں نے کس طرح سے عہد شکنی کا ارتکاب کیا۔ حضرت رسول خداؐ نے اپنی حیات طیبہ میں اصحاب کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے ”امیر المؤمنین“ کہہ کر سلام کریں اور رحلت پیغمبرؐ کے بعد بھی میں نے کوشش کی کہ اہل ایمان کا اقتدار حاصل کروں۔

ابن عباس! میں رسول خداؐ کے بعد مؤمنین کا اولیٰ بالتصرف ہوں۔ لیکن لوگوں نے دنیا اور اقتدار سے اتنا دل لگالیا تھا کہ وہ اپنے عہد سے برگشتہ ہو گئے اور ان کے دل مجھ سے بہت گئے اسی لئے انہوں نے میری اطاعت نہ کی۔

مؤلف کہتا ہے کہ حضرت اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی تفصیل بیان کرتے رہے حتیٰ کے آپ نے فرمایا:

ابن عباس! اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ بند بگڑ خوار کے بیٹے معادیہ، عمرو بن العاص، عتبہ، ولید اور مروان کو بھی میرا ہمسرا سمجھنے لگے ہیں اور ان حالات میں میں کب تک اس بات کا انتظار کرتا رہوں اور یہ دیکھتا رہوں کہ امر خلافت اور وراثت پیغمبرؐ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنے آپ کو لوگوں کا حکمران سمجھتے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دوستانہ خدا کا شکوہ کرتے ہیں اور دوستانہ خدا پر ناروا تہمتیں تراشا کرتے ہیں اور دروغ گوئی اور کینہ توزی سے اپنی سابقہ عداوت کا اظہار کرتے ہیں۔ اصحاب محمدؐ میں سے جو آنحضرتؐ کے محرم راز اور اپنے عہد کے محافظ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میری مخالفت کرنے والے شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں اور جو لوگوں کو مجھ سے منحرف کر رہے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ بے نیاز

مطلق ہے اور وہی صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے۔

ابن عباس! اس پر ہلاکت و انسوس! جس نے مجھ پر ستم کیا اور جس نے مجھ سے میرا حق غصب کیا اور جس نے مجھ سے میرا مقام و منصب چھینا۔

یہ لوگ اس وقت کہاں تھے کہ جب میرا بچپن تھا اور مجھ پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ یہ لوگ اس وقت بتوں کی پوجا کرنے میں مصروف تھے اور خدا کے فرمان سے منہمک کر آتش دوزخ کو بھڑکار رہے تھے۔ جب کفر کو شکست ہوگئی تو ان لوگوں نے مجبور ہو کر اسلام قبول کیا لیکن اس وقت ان کے دلوں میں کفر و نفاق کی آمیزش موجود تھی اور انہیں اس بات کی توقع تھی کہ وہ خدا کے نور کو خاموش کر سکیں گے۔ وہ رسول خدا کی دعوت اسلام کے خاتمہ کے لئے گھڑیاں گنا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کینہ و حرص یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ انہوں نے رسول خدا کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور انہوں نے ”دارالندوہ“ مرکز میں رسول خدا کو قتل کرنے کے لئے اجلاس طلب کیا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: **ومكروا ومكر الله والله خبير الماكرين**. (سورۃ آل عمران: آیت ۵۴)

یعنی انہوں نے اسلام کی نابودی کے لئے منصوبہ بنایا اور اللہ نے اس کے جواب میں تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔

اور ایسے ہی افراد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **يُؤيدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون**. (سورۃ توبہ: آیت ۳۲)

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھادیں اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔

ابن عباس! پیغمبر خدا نے اپنی زندگی میں وحی الہی سے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہیں میری دوستی اور ولایت کا حکم دیا تھا لیکن شیطان نے انہیں منحرف کر دیا تھا اور اس نے

انہیں مجھ سے حسد کی ترغیب دی۔ اس سے قبل اس نے حضرت آدم سے حسد کیا تھا اور خدا کے پیارے سے حسد کی وجہ سے درگاہ الہی سے مردود ہوا تھا اور تابا بد لعنت پر درگاہ میں رُفتر ہوا تھا۔ خدا نے چاہا تو قریش کے حسد سے مجھے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے گا۔

ابن عباس! ان میں سے تمام افراد اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ حاکم و مقتدر بن جائیں اور وہ اور ان سے وابستہ افراد پر دنیا مہربان ہو جائے۔ نفسانی خواہشات اور دنیا سے دل بستگی اور لوگوں کی طرف سے ان کی پیروی نے انہیں میرا حق غضب کرنے پر آمادہ کیا۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے بعد یہ ظالم افراد ثقل اصغر اہل بیت و عترت پیغمبر کو جس نہس نہیں کر دیں گے اور شجرہ علم کو قطع کر دیں گے اور خدا کی مضبوط رسی کو کاٹ دیں گے، تو موت اور خدا کی مددقت مجھے اس آب شیریں سے زیادہ گوارا ہوتی ہے جسے پیاسا پیتا ہے اور موت مجھے ایک تھکے ہوئے شخص کی نیند سے بھی زیادہ اچھی دکھائی دیتی۔

ان تمام تر حالات پر میں نے صبر کیا جب کہ میرا سینہ غموں سے لبریز تھا اور ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے جاگزیں تھے۔

فصیر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ (سورۃ یوسف، آیت ۱۸)

صبر ہی بہتر ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اور اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔

قدیم الایام سے ہی انبیاء پر ظلم ہوتا رہا اور اولیائے خدا قتل ہوتے رہے۔

وسیعلم الکفار لمن وعقبی الدار۔ (سورۃ رعد، آیت ۴۲)

اور کافروں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لئے ہے۔

اس اثناء میں اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اذان کی آواز سن کر امیر المؤمنین نے فرمایا:

ابن عباس! میرے اور اپنے لئے استغفار کرنا مت بھولنا۔ خدا ہمارے لئے کافی ہے

اور وہی بہترین نگہبان ہے اور خدا کی قوت و طاقت کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔
ابن عباس کہتے ہیں: رات کے ختم ہونے اور امیر المؤمنین کے کلام کے منقطع ہونے
سے میں سخت غمگین ہوا۔

بارہ افراد کی حضرت ابوبکر پر تنقید و احتجاج

علمائے شیعہ کی ایک جماعت نے اپنے تالیفات^۱ میں روایت کی ہے:

جب حضرت ابوبکر کی خلافت قائم ہوئی تو بارہ افراد نے ان کے سامنے مسجد نبوی میں

علی الاعوان احتجاج کیا جن میں چھ مہاجر اور چھ انصار تھے۔ جن کے نام بالترتیب یہ ہیں:

۱۔ خالد بن سعید عاص امویؓ ۲۔ سلمان فارسیؓ ۳۔ ابوذر غفاریؓ

۴۔ مقداد بن اسودؓ ۵۔ عمار بن یاسرؓ ۶۔ بریدہ سلمیؓ

۱۔ ابو الہیثم بن تیانؓ ۲۔ اہل بن حنیفؓ ۳۔ عثمان بن حنیفؓ

۴۔ خزیمہ بن ثابتؓ ۵۔ ابی بن کعبؓ ۶۔ ابویوب انصاریؓ

جب حضرت ابوبکر نے منصب خلافت سنبھالا تو مذکورہ افراد نے آپس میں مشورہ کیا،

ان میں سے کچھ افراد کی رائے یہ تھی کہ ہمیں مسجد میں جا کر انہیں منبر سے بزور بازو اتار دینا چاہئے۔

اور بعض افراد نے کہا: خدا کی قسم! اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنی ہلاکت کا سامان اپنے

ہاتھوں سے فراہم کرو گے جب کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ولا تعلقوا بایدیکم الی التھلکة

(سورۃ البقرہ: آیت ۱۹۵) یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔

ہمیں امیر المؤمنین کے پاس جا کر ان سے مشورہ کرنا چاہئے۔

۱۔ بعض علمائے اہلسنت مثلاً احمد بن محمد حنبلی طبری نے بھی بارہ افراد کے احتجاج کو نقل کیا ہے۔

(تاریخ طبری)۔ (مترجم فارسی)

حضرت علیؑ سے مشاورت

مذکورہ افراد حضرت علیؑ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کی:

امیر المؤمنین! آپ ہی امامت و خلافت کے حقیقی حقدار ہیں کیونکہ ہم نے رسول خداؐ سے سنا ہے:

علی مع الحق والحق مع علی یمیل مع الحق کیف مال . یعنی علیؑ حق کے ساتھ ہے اور حق علیؑ کے ساتھ ہے جہاں حق ہوگا وہاں علیؑ ہوگا۔

ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسجد میں جائیں اور ابو بکر کو منبر سے نیچے اتار دیں۔ ہم آپ سے اس سلسلہ میں مشورے کرنے کے سلسلہ میں حاضر ہوئے۔ ہم آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتے تھے اور آپ جو حکم دیں ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔

امیر المؤمنینؑ نے فرمایا: اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اور ان کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی اور تم سرمہ چشم اور آنے میں نمک کی مانند قلیل تعداد میں ہو۔ امت اپنے پیغمبر کے فرمان کو ترک کرنے پر اجماع کر چکی ہے اور انہوں نے خدا پر جھوٹ تراشا ہے۔ میں نے اس سلسلہ میں اپنے خاندان سے مشورہ کیا ہے اور انہوں نے مجھے چپ رہنے کا مشورہ دیا ہے اور انہوں نے یہ مشورہ اس بنیاد پر دیا ہے کہ وہ ہمارے مخالفین کی کینہ توزی اور خدا اور اہل بیت پیغمبر سے ان کی دشمنی سے آگاہ ہیں۔

ہمارے مخالفین کے دلوں میں زمانہ جاہلیت کا کینہ موجود ہے اور وہ اب اس کا ہم سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ لیکن تم لوگوں کو ابو بکر کے پاس جانا چاہئے اور جو کچھ تم نے پیغمبر اکرمؐ سے سنا ہے اس کے سامنے بیان کرنا چاہئے اور تم اس پر حجت تمام کرو اور اسے شبہ سے باہر نکالو اور اس سلسلہ میں اسے خدا کے عذاب سے خبردار کرو کیونکہ وہ پیغمبر خداؐ کی نافرمانی اور ان کی مخالفت کا مرتکب ہوا ہے۔

مذکورہ افراد مسجد میں گئے۔ جمعہ کا دن تھا اور پیغمبر اسلام کی وفات کو چار دن ہوئے تھے۔ یہ لوگ منبر رسولؐ کے اردگرد بیٹھ گئے۔ اور جیسے ہی حضرت ابوبکر منبر پر آئے تو ان افراد نے باری باری کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر کے سامنے انتہائی عالمانہ استدلال سے گفتگو کی اور انہیں وہ احادیث یاد دلائیں جو پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؑ کے فضائل میں ارشاد فرمائی تھیں۔

(ہم اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی گفتگو تحریر کرنے سے قاصر ہیں)۔

ان افراد میں سے سب سے پہلے خالد بن سعید بن عاص اموی نے استدلال پیش کیا۔ ان کے بعد باقی پانچ مہاجرین اور ان کے بعد چھ انصار نے اپنے اپنے دلائل پیش کر کے حجت تمام کی۔

روایت میں مذکور ہے کہ جب مذکورہ بارہ صحابیوں نے اپنی گفتگو مکمل کی تو حضرت ابوبکر سے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ بن آیا۔ اور انہوں نے ان کے جواب میں بس یہی الفاظ کہے۔

ولیتکم ولسنٰ بخیر کم ، اقیلونی اقیلونی

میں تمہارا حاکم قرار پایا ہوں گو میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ تم میری بیعت توڑ ڈالو۔ عمر بن خطاب نے چیخ کر کہا: انزل عنہا بالکعب..... تو فرمایا یہ شخص ہے۔ منبر سے نیچے اتر آ۔ جب تو قریش کے استدلال کا جواب دینے کی قدرت ہی نہیں رکھتا تو پھر اس مقام پر کیوں بیٹھا ہے؟

خدا کی قسم اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تجھے معزول کر کے ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ”سالم“ کو خلیفہ مقرر کروں۔

ابوبکر منبر سے نیچے آئے اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر چلے گئے اور مسلسل تین دن تک گھر میں بیٹھے رہے اور اس دوران مسجد نبوی میں نہ آئے۔

مذکورہ گفتگو کی تفصیل کتاب تاریخ الخوارج (چاپ رحلی) ص ۳۲ تا ۳۴ پر ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ (مترجم فارسی)

چوتھے دن کی کشمکش

جب حضرت ابوبکر کو خانہ نشینی اختیار کئے ہوئے چوتھا دن ہوا تو خالد بن ولید ایک ہزار افراد کا لشکر لے کر حضرت ابوبکر کے دروازے پر آیا اور ان سے کہا: آپ گھر کیوں بیٹھ گئے۔ خدا کی قسم بنی ہاشم کی آنکھیں آپ کی خلافت پر لگی ہوئی ہیں۔

ادھر سالم ابوحنظلیہ کا آزاد کردہ غلام بھی ہزار افراد کا لشکر لے کر آ گیا اور معاذ بھی ایک ہزار کا دستہ لے کر بیٹھ گیا اور یوں ایک اچھا خاصہ لشکر بن گیا۔ ان لوگوں نے اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکالا اور حضرت عمر لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر مسجد میں آئے اور اعلان کیا۔

اصحابِ علی! خدا کی قسم! اگر تم میں سے کسی نے آج کے دن کل کی طرح سے کوئی بات کی تو میں اس کا وہ عضو قطع کر دوں گا جس میں اس کی آنکھیں ہیں۔ یعنی میں اس کی گردن اتار دوں گا۔

خالد بن سعید اٹھے اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا:

ضحاک حبشیہ کے فرزند! تو اپنی تلواروں اور اپنی کثرتِ جمعیت سے ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم! ہماری تلواریں تیری تلواروں سے زیادہ تیز اور ہماری جمعیت تیری جمعیت سے زیادہ ہے۔ اگرچہ ہم ظاہری طور پر کم دکھائی دیتے ہیں (تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے) کیونکہ حجتِ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لئے ہماری تعداد بڑھ جائے گی۔

خدا کی قسم! اگر ہم علیؑ کی اطاعت کو مقدم نہ سمجھتے تو ہم ان کی اجازت کے بغیر تلواریں نکال کر تم سے جہاد کرتے اور تم سے اپنے حق کو چھین کر اپنا فرض پورا کرتے۔

حضرت علیؑ نے خالد بن سعید سے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تیرے جذبہ دفاع کو دیکھ لیا ہے اور تیری اس کوشش کو قبول کر لیا ہے۔ اب بیٹھ جاؤ۔

یہ سن کر خالد بیٹھ گئے۔

سلمانؓ کی گفتگو اور ہلڑ بازی

پھر سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا۔

اللہ اکبر، اللہ اکبر! میں نے اپنے دونوں کانوں سے رسول خدا سے سنا تھا اور اگر میں نے نہ سنا ہوتا ہو تو خدا کرے میرے کان بہرے ہو جائیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا تھا: ”ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میرا بھائی اور میرا عم اپنے دوستوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا ہوگا اس وقت دوزخ کے کتوں کا ایک گروہ اسے اور اس کے دوستوں کو قتل کرنے کیلئے آئے گا۔“

مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم لوگ علیؑ اور اس کے دوستوں کے قتل کا

ارادہ رکھتے ہو۔

جب حضرت عمر نے یہ سنا تو سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے سلمانؓ پر حملہ کر دیا۔

یہ دیکھ کر امیر المؤمنین فی الفور اٹھے اور عمر کو لباس سے پکڑ کر جھکا دیا اور اسے زمین پر چت کر دیا اور فرمایا:

يا بن الضحاک الحبشيه! لولا کتاب من اللہ سبق وعهد من رسول اللہ تقدم لاريتک اينما اضعف ناصر او اقل عددا. ضحاک حبشہ کے فرزند! اگر خدا کا پہلے سے طے شدہ فیصلہ نہ ہوتا اور رسول خدا کا عہد نہ ہوتا تو میں تجھے (آج) ہی دکھا دیتا کہ ہم میں سے کزور اور تعداد میں کم کون ہے؟

یعنی تجھے بتاتا کہ ہم میں سے غالب کون ہے اور مغلوب کون ہے۔

پھر حضرت علیؑ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: اب اٹھو اور چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ خدا کی قسم! میں اب مسجد میں اپنے بھائیوں موسیٰ اور ہارون کی طرح سے آؤں گا جن سے ان کی قوم نے کہہ دیا تھا: فاذهب انت وربک فقاتلا انا ههنا قاعدون (مائدہ-۲۳) تو اور تیرا رب جا کر لڑائی کرو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔

خدا کی قسم! میں مسجد میں قبر رسول خدا کی زیارت اور احکام خدا کے فیصلوں کے لئے آؤں گا۔ کیونکہ خدا کی جس حجت کو رسول خدا نے قائم کیا تھا، اسے معطل کرنا درست نہیں ہے اور لوگوں کو حیرت و سرگردانی میں ڈالنا صحیح نہیں ہے۔

امیر المؤمنینؑ کا خطبہ طالوتیہ

عظیم محدث شیخ کلین التونی ۳۳۸ھ نے اپنے استاد ابوالہیثم بن تمہان سے روایت کی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے مدینہ میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا:

حمد وثنائے پروردگار اور درود شریف کے بعد آپ نے فرمایا:

اما والذي فلق الحمة وبرأ النسمة لو اقبستم العلم من معدنه وشربتم الماء بعدوبته وادخرتم الخير من موضعه واخذتم الطريق من واضحه وسلكتم من الحق نهجه لنهجت بكم السبل وبدت لكم الاعلام وارضاء لكم الاسلام فاكلتم رعداً وما عال فيكم عائل ولا ظلم منكم مسلم ولا معاهدولكن سلكتم سبل الظلام فاطلمت عليكم دنياكم برحبها وسدت عليكم ابواب العلم فقلتم باافواهمم واختلقتم في دينكم فافتيتم في دين الله بغير علم واتبعتم الغواة فاغوتكم وتركتم الانمة فتركوكم؛ فاصبحتم تحكمون باهوائكم اذا ذكر الامر سالتم اهل الذكر فاذا افتوكم قلتم هو العلم بعينه فكيف وقد تركتموه ونبذتموه وخالفتموه؟ رويدا عما قليل تحصدون جميع ما زرعتم وتجدون وخيم ما اجترتم وما احتلبتم والذي خلق الجنة وبرأ السنمة لقد علمتم.

انی صاحبکم والذی بہ امرتم وانی عالمکم والذی بعلمہ نجاتکم ووصی نیکم خیرة ربکم ولسان نورکم والعالم بما یصلحکم فعن قلیل رویدا انزل بکم ما

۱۔ اس خطبہ میں ایک جگہ آپ نے طالوت کا ذکر کیا ہے اسی مناسبت سے اسے خطبہ طالوتیہ کہا جاتا ہے۔

وعدتم وما نزل بالامم قبلكم وسيمالكم الله عزوجل عن انتمكم معهم تحشرون
والى الله غدا تصيرون اما والله لو كان لى عدة اصحاب طالوت او عدة اهل بدر وهم
اعدادكم لضربتكم بالسيف حتى تؤلوالى الحق وتنبوا للصدق فكان ارتق للفتق
واخذ بالرفق. اللهم فحكم بيننا بالحق وانت خير الحاكمين.

اس ذات کی قسم جس نے دانہ کو شکافتہ کیا اور ذی روح کو پیدا کیا اگر تم علم و کمال کو
اس معدن سے حاصل کرتے اور پانی اس وقت پیتے جب وہ صاف ستھرا اور ہر قسم کی آمیزش
سے پاک تھا اور تم نیکی کو ذخیرہ اس کے اصلی مقام سے کرتے اور راہ روشن کو اختیار کرتے اور
جادہ حق پہ گامزن رہتے تو نجات کی راہیں تم پر روشن ہو جاتیں، حق کی ملائیں واضح ہو جاتیں،
تمہارے لئے اسلام کا آئین کھل کر سامنے آ جاتا، تم اللہ کی نعمتوں میں سے بہت سے حصے
حاصل کرتے اور تم میں سے ایک بھی مسلمان گھرانہ بلکہ تمہاری نگرانی میں رہنے والا ذمی گھرانہ
بھی غربت و تنگدستی اور ظلم کا شکار نہ ہوتا۔

لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ ظالموں کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، تمہاری دنیا اپنی
تمام تر وسعت کے باوجود تم پر تاریک ہو گئی ہے اور علم و کمال کے دروازے تم پر بند کر دیئے
گئے۔ اسی لئے تم نے اپنی خواہشات کے تحت بولنا شروع کر دیا اور تم نے اپنے دین میں
اختلاف پیدا کیا اور تم علم کے بغیر فتاویٰ جاری کرنے لگے، تم نے گمراہ لوگوں کی پیروی کی
اور انہوں نے تم لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تم نے سچے اور حقیقی رہنماؤں کو چھوڑ دیا اور انہوں نے
بھی تمہیں تمہارے اپنے حوالے کر دیا اور تم نے اس حالت میں صبح کی کہ اپنی خواہشات کے
تحت فیصلہ کرتے ہو اور جب کوئی (مشکل) مسائل پیش آتے ہیں تو اہل ذکر (اہل بیت)
سے سوال کرتے ہو۔ اور جب ہم تمہیں فتویٰ دیتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ واقعی علم ہے۔
(یعنی تمہیں مجبور ہو کر ہمارے علمی مرتبہ کا اقرار کرنا ہی پڑتا ہے)۔

لیکن یہ اقرار تمہیں کیا فائدہ دے سکتا ہے جب کہ تم میدان عمل میں تو ان کی پیروی

کرنے کے بجائے ان کی مخالفت کرتے ہو اور ان کے فرمان کو پس پشت ڈالتے ہو۔

مطمئن رہو! تم عنقریب اپنی بوئی ہوئی فصل کو کاٹو گے اور اپنے اعمال کا بدلہ پاؤ گے۔

اس ذات کی قسم! جس نے دانہ کو شکافتہ کیا اور جان کو پیدا کی، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں ہی تمہارا ساتھی اور تمہارا رہبر ہوں۔ اور جس کی پیروی کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ میں ہی ہوں اور میں ہی تمہارا وہ عالم ہوں جس کے علم کے پرتو میں تمہاری نجات مضمحل ہے۔

اور میں ہی تمہارے پیغمبر کا وحی اور تمہارے پروردگار کا برگزیدہ اور تمہارے نور کی زبان اور تمہارے مصالح سے آگاہ ہوں۔

عنقریب ہی تم پر وہ کچھ نازل ہوگا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اماموں کے متعلق سوال کرے گا اور قیامت کے دن تم اپنے اممہ کے ساتھ محشور ہو کر اپنے خدا کے حضور جاؤ گے۔

خدا کی قسم! اگر مجھے طاقت کے ساتھیوں جتنے ساتھی میسر ہوتے یا اہل بدر کی تعداد میں میرے مددگار موجود ہوتے تو میں انہیں اپنے ساتھ لے کر تلوار کے ساتھ حملہ کرتا اور تمہیں بزور شمشیر حق و صداقت کی طرف لے آتا اور اس حالت میں تلوار کا چلانا کفر و نفاق کی راہ مسدود کرنے کے لئے بہتر ہوتا اور ملائمت و نرمی سے زیادہ سودمند ہوتا۔

پروردگار! ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

ابویشم (راوی) کا بیان ہے کہ پھر امیر المؤمنین مسجد سے باہر تشریف لے گئے اور کچھ دیر تک بیابان میں چلتے رہے۔ آپ نے وہاں تقریباً تیس بیھڑوں کو چرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا:

۱۔ طاقت و طاقتور اور صالح جوان تھے جو اشوکیل پیغمبر کی طرف سے جالوت سے جنگ پر مامور کئے گئے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کی قلیل تعداد کے ساتھ جالوت سے جنگ کے لئے گئے تھے اور فتح مند ہوئے۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کی ۲۳۶ سے ۲۴۲ تک کی آیات میں بیان ہوا ہے۔

والله لوان لي رجالا ينصحون لله عزوجل ولرسوله بعددهذه الشياہ
 لاذلت ابن اكله الزبان عن ملكه! - خدا کی قسم! اگر میرے پاس ان بھیڑوں کی تعداد میں
 بھی ایسے افراد ہوتے جو دل و جان سے خدا اور اس کے رسولؐ کے خیر خواہ ہوتے تو میں گس خور
 کے فرزند کو حکومت سے معزول کر دیتا۔

دوستوں کا امتحان اور ان کی عدم توجہی

راوی کہتا ہے کہ جب وہ دن گزرا اور رات ہوئی تو تین سو ساٹھ افراد نے حضرت علی
 کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی (یعنی وہ مرتے دم تک آپ کی حمایت و نصرت کرتے رہیں گے)۔
 آپ نے ان کے امتحان کے قصد سے فرمایا: تم لوگ کل سرمنڈوا کر
 محلہ ”احجار الزیت“ میں مجھے ملو۔

امیر المؤمنینؑ نے خود بھی سرمنڈوا لیا اور اس مقام پر جا کر ان ۳۶۰ افراد کے انتظار
 میں بیٹھ گئے لیکن صرف پانچ افراد سرمنڈوا کر وہاں آئے سب سے پہلے ابوذرؓ پھر مقدادؓ پھر
 حذیفہؓ بن یمان پھر عمارؓ یا سرارؓ آخر میں سلمان فارسیؓ۔

بیعت کرنے والوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند
 کر کے کہا: اللهم ان القوم استضعفوني كما استضعفت بنو اسرائيل هارون، اللهم
 انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي عليك شي في الارض ولا في السماء توضمني
 مسلما والحقني بالصالحين .

پروردگار! لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا جیسا کہ بنی اسرائیل نے ہارونؑ کو کمزور کر دیا تھا۔
 خدایا! ہم جو کچھ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں تو اس سے واقف ہے اور زمین و آسمان کی کوئی چیز تجھ
 سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مجھے فرمانبرداری کی حالت میں موت دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کرنا۔

پھر آپ نے فرمایا: بیت اللہ کی قسم اور بیت اللہ تک پہنچانے کی قسم!

ایک اور نسخہ میں یہ لفظ ہیں ”مزدلفہ کی قسم اور ان اونٹوں کی قسم جو حاجیوں کو رمی جمرات کے لئے منیٰ میں حرکت کرتے ہیں“ اگر بنی اللہ نے مجھے وصیت نہ کی ہوتی تو میں مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار دیتا اور موت کی کڑکتی ہوئی بجلیوں کو ان پر گرا دیتا اور انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔^۱

مہاجرین و انصار سے نصرت طلبی اور معاویہ کی طعنہ زنی

اہل سنت کے مشہور عالم ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں:

حضرت علیؑ اپنی زوجہ کو رات کے وقت سواری پر بٹھا کر انصار کے دروازوں پر لے جاتے اور حضرت سیدہ انہیں حضرت علیؑ کی حمایت کی دعوت دیتی تھیں۔

اور اسی چیز کا طعنہ معاویہ نے حضرت علیؑ کو دیتے ہوئے ایک خط میں تحریر کیا:

مجھے تمہارا وہ ماضی ابھی تک نہیں بھولا جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی تھی تو تم اپنی زوجہ کو گدھے پر سوار کر کے اور حسن و حسین کو ہاتھوں سے پکڑ کر اہل بدر اور سابقین اولین کے دروازوں پر گئے تھے اور تم نے انہیں اپنی خلافت کی دعوت دی تھی اور اس موقع پر تم لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ آؤ مددگار پیغمبر کی بیعت کرو۔

لیکن چار پانچ کے علاوہ کسی نے بھی تمہاری دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ مجھے اپنی جان کی قسم! اگر تم حق پر ہوتے تو لوگ تمہاری دعوت کو بھی قبول کرتے! لیکن تم نے غلط دعویٰ کیا تھا اور تم

۱۔ روضۃ الکافی طبع جدید۔ صفحہ ۳۳

۲۔ اگر لوگوں کی طرف سے دعوت کی عدم قبولیت، دعوت کے باطل ہونے کی دلیل ہے تو میں کہتا ہوں کہ قبل از ہجرت پیغمبر کی دعوت کی عدم قبولیت بھی آپ کے دعویٰ کے بطلان کا سبب ہوتی۔ یا پیغمبران گرامی حضرت نوح و حضرت ابراہیمؑ حضرت عیسیٰ کی دعوت کی عدم قبولیت بھی اسی طرح بطلان کا سبب قرار پاتی ہے۔ کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ ہاں البتہ معاویہ کے پاس ایسی کج فکری وافر مقدار میں تھی۔ (مترجم فارسی)

اپنی نادانی سے یہ بات زبان پر لائے تھے اور تم نے امامت کو اپنا ہدف قرار دیا تھا جسے حاصل کرنے سے تم عاجز رہے۔ اگر تمہیں یہ بات بھولی ہو تو بھولی ہو لیکن مجھے ابھی تک یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ابوسفیان نے تمہیں خلافت کے حصول کی ترغیب دی تھی تو تم نے کہا تھا:

”اگر چالیس مخلص افراد میرے ساتھ ہوتے تو میں ان لوگوں سے جنگ کرتا“

چنانچہ روز اول سے ہی مسلمانوں نے تمہیں مسترد کر دیا تھا۔

مالک بن نویرہ کی تنقید

محقق فیض نے کتاب ”الغاب نیران الاحزان“ کے خلاصہ میں لکھا:

جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی تو رسول خدا کا وفادار صحابی مالک بن نویرہ جو کہ مدینہ سے چند فرسخ پر رہائش پذیر تھا، مدینہ آیا۔ اس کی مدینہ آمد کا مقصد قریب سے حالات کا جائزہ لینا تھا اور وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پیغمبر اکرم کے بعد امور مسلمین کی باگ دوز کس کے ہاتھ میں ہے۔

مالک بن نویرہ جمعہ کے دن مسجد میں آیا اس نے حضرت ابوبکر کو رسول خدا کے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے پایا۔ تو اس نے پوچھا: کیا یہ شخص قبیلہ تیم سے تعلق رکھتا ہے؟

لوگوں نے کہا: جی ہاں۔

مالک نے کہا: مگر رسول خدا کا وہ وصی کہاں ہے جس کی پیروی اور دوستی کے لئے رسول خدا نے ہمیں وصیت کی تھی؟

مغیرہ بن شعبہ نے کہا: تو غائب تھا اور ہم یہاں موجود تھے ایک واقعہ کے بعد دوسرے واقعہ نے جنم لے لیا۔ (یعنی واقعہ غدیر کے بعد واقعہ سقیفہ پیش آیا)۔

۱۔ اگرچہ معادہ اس پوچ عبارت سے حضرت علی کی تحقیر کرنا چاہتا تھا لیکن حضرت علی کی یہی مدد طلبی آپ کی بہادری اور قوی ارادے کو ظاہر کرتی ہے کہ اس قبیلہ رجال سے مرعوب نہیں ہوئے بلکہ جہاں تک ہو سکتا تھا احتجاج اور اعتراض کیا۔ یہاں تک کہ عملاً لوگوں کو دعوت دی کہ ان کی مدد کریں اور باطل کے اقتدار کا خاتمہ کریں۔

یہ سن کر مالک نے کہا: ”واللہ ماحدث شیء ولکنکم خنتم اللہ ورسولہ“
خدا کی قسم! کوئی نیا واقعہ ہرگز پیش نہیں آیا اصل بات یہ ہے کہ تم نے خدا اور رسول
سے خیانت کی ہے۔

پھر وہ حضرت ابوبکر کے پاس گیا اور ان سے کہا:
ابوبکر! تو رسول خدا کے منبر پر کیوں بیٹھ گیا جب کہ رسول خدا کا نامزد کیا ہوا وحی ابھی
زندہ سلامت ہے؟

حضرت ابوبکر نے کہا: ایزویوں پر پیشاب کرنے والے اس بدو کو مسجد سے باہر نکال دو۔
اس حکم کے ملتے ہی عمر بن خطاب، خالد بن ولید اور قنفذ کھڑے ہوئے اور اسے
خوب لائیں رسید کیں اور اسے ذلیل و خوار کر کے مسجد سے نکال دیا۔

اس ہتک آمیز سلوک کے بعد مالک بن نویرہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر اپنے علاقہ کی
طرف روانہ ہوا اور جاتے وقت اس نے یہ شعر پڑھے:

اطعنا رسول اللہ ماکان بیننا	فیا قوم ماشانی و شان ابی بکر
اذامات بکر قام بکر (عمر) مکانہ	فتلک بیت اللہ قاصمۃ الظہر
یلذب ویغشاہ العنار کانما	یجاہد جما او یقوم علی قبر
فلو قام بالامر الوصی علیہم	اقمنا ولوکان القیام علی الجمر

جب تک رسول خدا ہمارے درمیان موجود رہے تو ہم ان کی اطاعت کرتے رہے۔
لوگو! میرا اور ابوبکر کا معاملہ کہاں تک انجام پائے گا۔ (میں کس دلیل کے تحت اس کی
بیعت کروں)۔

جب ابوبکر کی وفات ہوگی تو عمر اس کا قائم مقام بن جائے گا۔ کعبہ کی قسم یہ بات تو
کمر توڑنے والی ہے۔

عمر، ابوبکر کا دفاع کرتا ہے اور اس کی لغزشوں کو یوں چھپاتا ہے جیسا کہ وہ کسی گروہ

سے جہاد کر رہا ہو یا کسی قبر کے کنارے سوگ میں مصروف ہو۔

اگر وہی رسول ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے تو ہم ان کے ساتھ ہم آواز ہو کر قیام کریں گے اگرچہ ہمیں اس کے لئے آگ کے شعلوں کو بھی پھلانگنا پڑے۔
(بعض لوگوں نے آخری شعر کا مصرع یوں پڑھا:

”فلو طاف فينا من قریش عصابة“

یعنی اگر قریش میں سے ایک طاقت ور گروہ ہمارے درمیان چکر لگائے تو ہم ان کی مدد کریں۔)

مالک بن نویرہ کا انجام

جب حضرت ابو بکر کی حکومت مستحکم ہو گئی تو انہوں نے خالد بن ولید سے کہا:

تم اس دن موجود تھے جب مالک بن نویرہ نے ہم پر اعتراض کیا تھا اور ہمارے خلاف اس نے شعر کہے تھے۔ تمہیں یاد رکھنا چاہئے کہ ہم اس کے مکر اور حیلہ سے مطمئن نہیں ہیں۔ ہمیں اس سے یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ہماری حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے حیلہ و بہانہ سے قتل کر دو۔ اور اس کے ساتھی اگر تمہارے ساتھ جنگ کریں تو تم انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دو اور ان کی عورتوں کو قید کر لو کیونکہ یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ میں تمہیں لشکر دے کر اس کی طرف روانہ کرتا ہوں۔

خالد لشکر لے کر سرزمین ”بطاح“ کی طرف روانہ ہوا جہاں مالک بن نویرہ کی رہائش تھی جب مالک بن نویرہ نے یہ سنا تو وہ بھی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر میدان میں آیا۔ مالک اپنے دور کا بہادر اور جری شخص تھا وہ ایک سو جنگجو افراد کے برابر شمار کیا جاتا تھا۔

جب خالد نے دیکھا کہ مالک بھی آمادہ ہے تو اس نے اس مکاری کرتے ہوئے یہ عہد و پیمان کیا کہ میں تم سے جنگ کرنے کے لئے نہیں آیا اور میں تمہیں امان دیتا ہوں۔

مالک بن نویرہ بھی بڑا دانا تھا اس نے خالد کی امان پر اعتماد نہ کیا۔ چنانچہ خالد نے قسم کھڑی کہ اس کو یقین دلایا کہ میں تم سے دھوکہ نہیں کروں گا اور میں تمہارے لئے کوئی برا ارادہ نہیں رکھتا۔

مالک نے خالد کی قسموں پر اعتبار کر لیا اور خالد کو اس کے لشکر سمیت اپنا مہمان بنا لیا۔ جب رات کا ایک حصہ گزرا تو خالد اپنے ساتھ چند افراد کو لے کر چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہوا اور اسے سوتے میں قتل کر دیا۔ اور اس پر مزید قسم یہ ڈھایا کہ اس کی بیوی ”ام تمیم“ کو اپنی بیوی بنا لیا اور اس سے زنا کیا۔ مالک کے سر کو ایک دیگ میں رکھا اور پھر اس دیگ میں اپنی شادی کا ولیمہ تیار کیا۔ پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ خالد نے اپنے لشکر کو اس دیگ میں پکا ہوا کھانا کھلایا۔ اس کے بعد خالد نے مالک کے تمام قبیلہ کی عورتوں کو جنگی کینڑیں بنا لیا اور کہا کہ یہ لوگ مرد ہیں اور دین اسلام سے خارج ہیں۔

علی کی زبانی مالک کا مرثیہ

جب امیر المؤمنین نے مالک بن نویرہ کے قتل اور ان کی مستورات کی قید کی خبر سنی تو آپ کو اس سے سخت صدمہ پہنچا اور آپ نے کلمہ استرجاع یعنی ”انا لله وانا الیہ راجعون“ کی تلاوت کی۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھے۔

اصبر قليلا فبعد العسر تيسير
وكل امر له وقت وتقدير
وللمهيمن في حالاتنا نظر
وفوق تدبيرنا لله تقدير

کچھ دیر صبر کرو کیونکہ دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لئے ایک وقت اور ایک اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے حالات پر نظر ہے اور ہماری تدبیر سے خدا کی تقدیر بند ہوا ہے۔

مؤلف کہتا ہے کہ مالک بن نویرہ کے قتل کے واقعہ کو تمام شیعہ سنی مؤرخین نے نقل کیا ہے۔^۱

۱۔ اس واقعہ کو تاریخ طبری، جلد سوم، ص ۲۲۱۔ تاریخ ابن اثیر، جلد سوم، ص ۱۳۹۔ اسد الغابہ، جلد چہارم،

ص ۲۹۵ اور تاریخ ابن عساکر، جلد پنجم، ص ۱۰۵ پر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

ابوققادہ کی ناراضگی اور شیخین کے نظریات

ابوققادہ انصاری خالد کے لشکر میں موجود تھا۔ جب اس نے خالد کا یہ بھیا تک جرم دیکھا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ آیا اور حضرت ابوبکر کے پاس گیا اور تمام واقعہ من وعن سنایا اور کہا کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسے لشکر میں شمولیت اختیار نہیں کروں گا جس کا سالار خالد ہوگا۔

ابوبکر نے کہا: خالد نے فریب کر کے عربوں کا مال لوٹا ہے اور اس نے میرے فرمان کی مخالفت کی ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے ابوبکر سے کہا کہ خالد سے قصاص لینا ضروری ہے۔ پھر چند دنوں بعد خالد مدینہ آیا تو اس نے نیا لباس پہنا ہوا تھا، اس پر اپنی زرہ لگائی ہوئی تھی اور ایٹھی دستار میں دو تیر پیوست کئے ہوئے تھے۔ وہ اس ہیئت سے مسجد میں داخل ہوا۔

حضرت عمر نے اسے حالت میں دیکھا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی دستار سے تیر نکال کر ان کے نکلے کر دیئے اور خالد سے کہا:

اے اپنی جان کے دشمن! تو نے ایک مسلمان پر چڑھائی کی اور اسے قتل کر دیا پھر اس کی بیوہ کو اپنی بیوی بنا لیا۔ خدا کی قسم ہم تجھے سنگسار کریں گے۔

خالد حضرت عمر کی تیز تند باتیں سن کر خاموش رہا اور اس نے سمجھا کہ شاید اس کے متعلق ابوبکر کی بھی وہی رائے ہے جو عمر کی ہے۔ پھر وہ حضرت ابوبکر کے گھر گیا اور ان سے معذرت کی اور انہوں نے اس کی معذرت قبول کی اور اسے معاف کر دیا۔

حضرت ابوبکر کی رضا مندی حاصل کرنے کے بعد خالد مسجد آیا جہاں حضرت عمر موجود تھے۔ خالد نے حضرت عمر کو صدا دے کر کہا: ام شملہ کے فرزند! میرے قریب آؤ!

خالد کا یہ گستاخانہ لہجہ دیکھ کر حضرت عمر سمجھ گئے کہ خالد حضرت ابوبکر کی آ شیر باد حاصل

رچکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے خالد کو کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر گھر چل دیئے۔
علامہ مجلسی رقم طراز ہیں:

حضرت عمر کی طرف سے خالد کی سرزنش حدود شریعت کی وجہ سے نہ تھی بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زمانہ جاہلیت میں مالک بن نویرہ کے حلیف تھے۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ خالد بن وسید نے ان کے حریف سعد بن عبادہ رئیس انصار کو قتل کیا ہے تو انہوں نے اسے معاف کر دیا۔
بعض رواۃ شیعہ ائمہ اہل بیت سے روایت کی ہے کہ خلافت عمر کے زمانے میں ایک دن مدینہ سے باہر حضرت عمر کی ملاقات خالد سے ہوئی اور انہوں نے خالد سے کہا: تو نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا تھا؟

خالد نے کہا: جی ہاں! میرے اور اس کے درمیان کدورت تھی چنانچہ میں نے اپنی کدورت مٹانے کے لئے اسے قتل کیا تھا (مگر تم یہ بھی تو دیکھو) تمہارے اور سعد بن عبادہ کے درمیان بھی کدورت تھی میں نے تمہاری کدورت مٹانے کیلئے تمہارے حریف کو بھی قتل کیا ہے۔
خالد کی یہ بات سن کر حضرت عمر خوش ہوئے اور اسے سینہ سے لگا کر کہا: انت سیف اللہ و سیف رسولہ: بے شک تو خدا اور اس کے رسول کی تلوار ہے۔

قرآن کی جمع و ترتیب

سُلیم بن قیس ہلالی عامری نے سقیفہ کی روداد سلمان فارسی سے نقل کی اور اس میں انہوں نے لکھا:

”جب حضرت علی نے لوگوں کی بے وفائی اور عذر تراشی کا مشاہدہ کیا تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور قرآن مجید جمع کرنا اور ترتیب دینا شروع کر دیا اور آپ نے یہ طے کر لیا کہ جب تک قرآن مجید کو جمع نہیں کر لیں گے اس وقت تک اپنے گھر سے باہر نہیں آئیں گے۔

اس سے قبل قرآن مجید کی آیات مختلف اوراق اور تختیوں اور گوسفند کے کندھوں کی

ہدیوں اور کپڑوں پر لکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے سب کی ستابت کی اور تازیل و تاویل، ناخ و منسوخ کی نشان دہی فرمائی۔ اس دوران حضرت ابوبکر نے آپ کو پیغام بھیجا کہ گھر سے باہر آؤ اور بیعت کرو۔

حضرت علیؑ نے جواب میں کہلا بھیجا: میں قرآن کی جمع آوری میں مصروف ہوں اور میں قسم کھا چکا ہوں کہ جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کر لوں اس وقت تک نماز کے عداوہ اپنے کندھوں پر عبا نہیں ڈالوں گا۔

ابوبکر اور ان کے ساتھیوں نے کئی روز تک خاموشی اختیار کی یہاں تک کہ حضرت علیؑ نے قرآن مجید ترتیب دے کر جمع کر لیا۔ آپ نے ترتیب شدہ نسخہ کو کپڑے کے تھیلے میں رکھا اور اس کے منہ پر مہر لگا دی۔

ایک اور روایت میں مذکور ہے: حضرت علیؑ نے قرآن مجید کو اٹھایا اور قبر رسولؐ کے پانے آئے۔ قرآن مجید کو زمین پر رکھا اور دو رکعت نماز ادا کی اور رسول خداؐ پر سلام کیا۔ پھر لوگ حضرت ابوبکر کے ساتھ مسجد میں جمع ہو گئے۔ حضرت علیؑ نے بلند آواز سے لوگوں کو خطاب کر کے کہا:

”لوگو! رسول خداؐ کی رحلت کے بعد میں مصروف رہا۔ پہلے تو میں آنحضرتؐ کی تجہیز و تکفین میں مصروف رہا اس کے بعد میں نے قرآن مجید کو مرتب کیا یہاں تک کہ میں نے پورے کا پورا قرآن جمع کر لیا ہے۔ اور وہ اس تھیلے میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں جو رسول خداؐ نے میری سامنے تلاوت نہ کی ہو اور مجھ سے نہ لکھوائی ہو اور مجھے اس کی تاویل کی تعلیم نہ دی ہو۔“

”وگو! میں یہ اعلان اس لئے کر رہا ہوں تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس بات سے غافل تھے۔“

اس وقت آپ نے فرمایا: ”تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو گے کہ میں نے

تمہیں اپنی مدد کی دعوت نہ دی تھی، تمہیں اپنا حق یاد نہ دلایا تھا اور میں نے تمہیں کتاب اللہ کی اول سے آخر تک اطلاع نہ دی تھی۔“

حضرت عمر نے کہا: ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور اس کے باوجود تم اپنے جمع کئے ہوئے قرآن کی دعوت دے رہے ہو۔ ہمیں اس کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ تمہارا جمع کیا ہوا قرآن ہمیں بے نیاز نہیں کر سکے گا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا: تم قرآن رکھ دو اور جا کر اپنا کام کرو۔

وصیت پیغمبرؐ کی یاد دہانی

حضرت علیؑ نے لوگوں سے فرمایا: رسول خداؐ نے تمہیں وصیت کی تھی کہ میں تم میں دو ڈراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور میری عنترت جو کہ میرے اہلیت ہیں۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ لہذا تم لوگ قرآن قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ مجھے بھی قبول کرو تا کہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ جاری رکھوں۔ اور میں تم لوگوں سے قرآن کے نسخ و منسوخ، تاویل اور محکم و متشابہ اور حلال و حرام کو بہتر جانتا ہوں۔

حضرت عمر نے کہا: اس قرآن کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تا کہ قرآن تم سے جدا نہ ہو اور تم قرآن سے جدا نہ ہو۔ ہمیں نہ تو تمہارے جمع کردہ قرآن کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری ضرورت ہے۔

حضرت علیؑ نے قرآن مجید اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے گئے۔ اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر قرآن مجید کو اپنی آنکھوں میں رکھا اور اس کی تلاوت کر کے روتے رہے۔

بھائی سے ملاقات

اس دوران ان کے بھائی عقیل گھر میں آئے اور بھائی سے کہا: آپ کیوں روتے رہے

ہیں خدا آپ کو کبھی نہ رلائے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: بھائی جان! خدا کی قسم میرے رونے کا سبب قریش اور اس کے طرف دار ہیں جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے، حق سے منہ موڑ رہے ہیں اور فساد اور جہالت کی طرف مڑ گئے ہیں۔ وہ اختلاف و نفاق کی وادی اور سرگردانی کے بیابان میں پھنس چکے ہیں اور مجھ سے جنگ کرنے کے لئے متحد ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ لوگ رسول خداؐ سے جنگ کے لئے متحد ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی سزا دے گا۔ ان لوگوں نے میرے رشتہ قرابت کو قطع کیا ہے۔ اور میرے ابن عم پیغمبر خداؐ کی حاکمیت کو ہم سے چھین لیا ہے۔

پھر آپ بلند آواز سے روئے اور انالہلہ وانالہہ راجعون بہہ کر بطور تمثیل یہ اشعار پڑھے

فان تمسلینی کیف انت فانی صبور علی ریب الزمان صلیب

یعز علی ان تری بی کابہ فی شمت عاد اویساء حبیب

اگر تو مجھ سے میرا حال پوچھے تو میں کہوں گا کہ میں زمانے کی سختیوں پر صبر کرنے والا سخت جان شخص ہوں۔

یہ بات مجھے ناگوار ہے کہ رنج و غم کے آثار لوگوں کو مجھ میں دکھائی دیں جس سے دشمن خوش ہو اور دوست پریشان ہو۔

حضرت ابو بکر کا پیغام اور حضرت علیؑ کا جواب

قارئین کرام! اب ہم سلیم بن قیس کی روایت کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ پھر حضرت علیؑ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ کسی کو حضرت علیؑ کے پاس بھیجو کہ وہ آئیں اور بیعت کریں کیونکہ علیؑ کی بیعت کے بغیر ہماری خلافت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ہماری طرف سے انہیں امان ہوگی۔

حضرت ابو بکر نے ایک شخص کو قاصد بنا کر بھیجا اور اس سے کہا کہ تم علیؑ سے کہو۔

خليفة رسول کی دعوت پر ہیں۔۔۔۔۔

قاصد نے حضرت علیؑ کے سامنے ان کا پیغام ان کے الفاظ میں بیان کیا۔ حضرت علیؑ نے اس سے فرمایا:

تجرب ہے کہ اتنی جلدی رسول خداؐ کی تکذیب کے مرتکب ہو گئے۔ ابوبکر اور اس کے تمام ساتھی جانتے ہیں کہ خدا اور رسول خداؐ نے میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ قاصد نے حضرت علیؑ کا جواب حضرت ابوبکر کو پہنچایا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم اب جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ امیر المؤمنین کی دعوت پر لبیک کہیں۔ قاصد حضرت علیؑ کے پاس آیا اور مذکورہ الفاظ میں پیغام پہنچایا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: تجرب ہے ابھی تو رسول خداؐ کو دنیا سے رحلت فرمائے اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ ان لوگوں کو یہ باتیں فراموش ہو جائیں۔

خدا کی قسم! ابوبکر جانتا ہے کہ یہ نام میرے علاوہ کسی اور کے لئے صحیح نہیں ہے۔ حضرت رسول خداؐ نے ابوبکر کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرے۔

اور ابوبکر ان سات افراد میں شامل تھے جنہیں رسول اکرمؐ نے مجھے امیر المؤمنین کہہ کر سلام کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان سات افراد میں سے ابوبکر اور اس کے ساتھی (عمر) نے رسول اکرمؐ سے پوچھا تھا۔

کیا یہ حکم خدا اور اس کے رسولؐ کی طرف سے ہے؟

پیغمبر اکرمؐ نے انہیں کہا تھا:

نعم حقا من اللہ ورسوله انه امير المؤمنين وسيد المسلمين وصاحب لواء
الغرامحجلين يعقده اللہ عزوجل يوم القيامة على الصراط فيدخل اوليائه الجنة
واعدائه النار. یعنی جی ہاں خدا اور رسولؐ کی طرف سے علیؑ ہی حقیقی امیر المؤمنین اور سید
المسلمین اور روشن و نورانی چہرے رکھنے والوں کا علمدار ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے پل
صراط پر بٹھائے گا۔ وہ اپنے دوستوں کو جنت اور دشمنوں کو دوزخ میں داخل کرے گا۔

قاصد نے حضرت علیؑ کا یہ جواب حضرت ابوبکرؓ کو پہنچایا۔ چنانچہ وہ اس دن حضرت علیؑ کو بلانے سے باز رہے۔

سُلم بن قیس حضرت سلمان فارسیؓ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

رات ہوئی تو حضرت علیؑ نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہؑ زہراؑ کو سواری پر بٹھایا اور اپنے دونوں فرزندوں حسنؑ و حسینؑ کو بازو سے پکڑا اور رسول خداؐ کے اصحاب کے دروازوں پر گئے پس کوئی ایسا صحابی باقی نہ بچا جس کے پاس آپ تشریف نہ لے گئے ہوں، انہیں اپنے حق کی یاد دہانی نہ کرائی ہو اور انہیں اپنی مدد کی دعوت نہ دی ہو۔ لیکن ہم چار افراد کے علاوہ حضرت علیؑ کی دعوت پر کسی نے لبیک نہ کہی اور وہ چار یہ ہیں:

۱۔ سلمانؓ ۲۔ ابوذرؓ ۳۔ مقدادؓ ۴۔ زبیر بن عوامؓ۔

ہم چاروں نے اپنے سر منڈوائے اور آپ کی مدد کے لئے کمر بستہ ہو گئے۔ حضرت علیؑ کی حمایت میں زبیر بن عوامؓ کی بصیرت ہم سے زیادہ تھی۔

خانہ بتول شعلوں کی لپیٹ میں

جب حضرت علیؑ نے ملاحظہ کیا کہ لوگوں نے ان سے بے وفائی کی ہے، ان کی مدد پر آمادہ نہیں ہیں اور حضرت ابوبکرؓ سے وابستگی اختیار کر چکے ہیں تو آپ نے خانہ نشینی اختیار کر لی اور خاموش ہو کر اپنے گھر بیٹھ گئے۔

حضرت عمرؓ نے ابوبکرؓ سے کہا: تم علیؑ کو پیغام کیوں نہیں بھیجتے کہ وہ آ کر تمہاری بیعت کریں۔ کیونکہ اس وقت صرف علیؑ اور ان کے چار ساتھیوں نے ہی بیعت نہیں کی ان کے علاوہ باقی لوگ بیعت کر چکے ہیں۔

ابوبکرؓ نرم دل اور دھیما مزاج رکھنے والے تھے جب کہ عمرؓ سخت دل، تند مزاج اور سخت

زبان تھے۔

عمر نے کہا: میں ”قُفُذ“ کو علیؑ پاس روانہ کر رہا ہوں۔

”قُفُذ“ ایک سخت دل اور تند خو اور بے رحم انسان تھا۔ وہ حضرت ابو بکرؓ کا آزاد کردہ

غلام تھا اور اس کا تعلق بنی عدی بن کعب سے تھا۔

ابو بکرؓ نے ایک دستہ قُفُذ کے ہمراہ روانہ کیا۔ قُفُذ حضرت علیؑ کے دروازے پر پہنچا اور آپؑ

سے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ لیکن حضرت علیؑ نے اسے داخل ہونے کی اجازت نہ دی۔

قُفُذ کے ساتھی مسجد نبویؐ میں واپس آئے جہاں شیخین بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے

کہا: علیؑ نے ہمیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔

عمر نے کہا: تم واپس چلے جاؤ اگر وہ تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ دیں تو تم اجازت

کے بغیر ہی گھس جاؤ۔

وہ لوگ حضرت علیؑ کے دروازے پر آئے اور انہوں نے پہلے حضرت علیؑ سے داخل

ہونے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز سن کر حضرت فاطمہؓ دروازے کے قریب آئیں اور

فرمایا: ”میں تمہارے لئے بغیر اجازت داخل ہونے کو ممنوع قرار دیتی ہوں۔“

حضرت سیدہؓ کا یہ جواب سن کر قُفُذ کے ساتھی دوبارہ مسجد نبویؐ میں آئے۔ مگر قُفُذ

وہیں علیؑ و بتولؑ کے دروازے پر کھڑا رہا۔ واپس آنے والوں نے حضرت فاطمہؓ کا جواب

انہیں سنایا۔

یہ سن کر عمر ناراض ہوئے اور کہا: ہمارا عورتوں سے کیا واسطہ ہے؟

پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: لکڑیاں جمع کرو۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کیں

اور عمر انہیں اپنے ساتھ لے کر دروازہ زہراؑ پر پہنچے اور حضرت علیؑ کے گھر کے گرد لکڑیاں جمع

کر کے رکھ دی گئیں۔ اس وقت گھر میں علیؑ و زہراؑ اور حسن و حسینؑ تھے۔ عمر نے آواز دے کر کہا

جسے گھر میں بیٹھے ہوئے تمام افراد نے سنا۔

واللہ لتخربن جن یا علی ولتبا یعن خلیفۃ رسول اللہ والا اضرمت علیک

النار خدا کی قسم! تمہیں باہر آ کر خلیفہ رسول کی بیعت کرنی ہوگی ورنہ میں تمہارے گھر کو نذر آتش کر دوں گا۔

حضرت سیدہ نے فرمایا: آخر تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کرنا چاہتا ہے؟
 عمر نے کہا: دروازہ کھولو ورنہ میں تمہیں جلا دوں گا۔ حضرت سیدہ نے فرمایا: کیا تجھے میرے گھر میں داخل ہوتے ہوئے خدا کا خوف لاحق نہیں ہوتا؟

عمر وہاں سے نہ گئے اور اپنے ساتھیوں سے آگ طلب کی اور اس سے سیدہ کے دروازے کو آگ لگادی۔ پھر اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ ٹوٹ گیا اور عمر گھر میں داخل ہو گیا۔

حضرت سیدہ اس کے سامنے آئیں اور فریاد کر کے کہا: یا ابتاہ یا رسول اللہ۔
 اے اباجان، اے خدا کے رسول (آئیے دیکھیں آپ کی امت ہم سے کیا سلوک کر رہی ہے) عمر نے اپنی نیام میں بند تلوار کو بلند کیا اور نیام حضرت زہرا کے پہلو پر مارا۔ سیدہ کی چیخ بلند ہوئی اور رو کر کہا۔ یا ابتاہ: ہائے اباجان!

پھر عمر نے اپنا تازیانہ بلند کر کے حضرت سیدہ کے بازو پر مارا۔

بی بی نے اپنے والد کو مخاطب کر کے کہا:

یا رسول اللہ لبئس ما خلفک بہ ابو بکر و عمر

رسول خدا! دیکھیں آپ کے بعد ابو بکر و عمر نے ہم سے کتنا برا سلوک کیا ہے۔

اس وقت حضرت علیؑ نے اٹھ کر عمر کا گریبان پکڑا اور اسے زمین پر پٹخا کہ اس کی گردن اور ناک زخمی ہوگئی۔ حضرت علیؑ نے چاہا کہ اسے قتل کر دیں مگر آپ کو اس وقت رسول خدا کی وصیت یاد آگئی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:

”ضحاک جہیہ کے فرزند! اس خدا کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو مقام نبوت سے مکرم کیا ہے اگر پہلے سے اللہ کا حکم جاری نہ ہو چکا ہوتا اور رسول خدا کی وصیت بھی موجود نہ ہوتی

تو آج تجھے میرے گھر میں داخل ہونے کی ہرگز جرأت نہ ہوتی۔

عمر نے ایک شخص کو ابوبکر کے پاس بھیج کر مدد طلب کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ابوبکر کے بہت سے یہی خواہ آگئے اور آتے ہی حضرت علیؑ کے گھر میں داخل ہو گئے۔

پھر اچانک علیؑ اٹھے اور آپؐ نے اپنے ہاتھوں میں تلوار پکڑ لی۔

اسی اثناء میں قنفذ ابوبکر کے پاس واپس آچکا تھا کیونکہ وہ حضرت علیؑ کی شجاعت و جوانمردی سے واقف تھا اسی لئے وہ حضرت علیؑ کے گھر سے بھاگ کر مسجد میں آیا اور ابوبکر کو روداد سنائی۔

ابوبکر نے قنفذ سے کہا: فوراً علیؑ کے گھر چلا جا اگر وہ گھر سے باہر نکل آئے تو اسے یہاں لے آ اور اگر علیؑ گھر سے باہر نہ نکلے تو گھر کو کینوں سمیت نذر آتش کر دے۔

قنفذ اٹھا اور اپنے ساتھیوں سمیت اجازت کے بغیر حضرت علیؑ کے گھر میں داخل ہوا حضرت علیؑ نے تلوار اٹھانا چاہی لیکن قنفذ نے آپؐ کو اس کا موقع ہی نہ دیا اور اس نے آپؐ کے ہاتھوں سے تلوار چھین لی۔

اسی اثناء میں حضرت زہراؑ اپنے شوہر کی حفاظت کے لئے آگے بڑھیں تو قنفذ نے تازیانہ بلند کر کے حضرت سیدہ کو مارا۔

فماتت حين ماتت وان في عضدها مثل الدمع من ضربته. وفات کے وقت حضرت سیدہ کے بازو پر دست بند کی طرح سے اس کا نشان موجود تھا۔

پھر حضرت علیؑ کو مجبور کر کے ابوبکر کے سامنے پیش کیا گیا اور اس دوران عمر اور ان کے ساتھی یعنی خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، سالم غلام آزاد شدہ ابی حذیفہ، معاذ بن جبل، مغیرہ بن شعبہ، اسید بن حضیر اور بشیر بن سعد جیسے افراد تلواریں بے نیام کئے ہوئے علیؑ کے سر پر موجود رہے۔

بددعا کا فیصلہ

عیاشی روایت کرتے ہیں: جب لوگ حضرت علیؑ کو جبراً مسجد میں لے گئے تو حضرت سیدۃ برداشت نہ کر سکیں گھر سے باہر آئیں اور انہوں نے ابو بکر سے کہا۔

کیا تم لوگ مجھ سے میرے شوہر کو چھین کر مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم! اگر تم نے اسے رہا نہ کیا تو میں اپنے سر کے بال کھول کر اپنے والد کی قبر پر جاؤں گی اور خدا سے اس ظلم کی فریاد کروں گی۔

پھر حضرت سیدۃ نے حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا اور نبی اکرمؐ کی قبر پر آئیں۔

حضرت علیؑ کو اس معاملہ کا علم ہوا تو آپؑ نے سلمان فارسیؓ سے فرمایا ”جاؤ اور بنت مصطفیٰؑ کو روکو! میں گویا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ کے دونوں اطراف میں زلزلہ آچکا ہے۔ اور مدینہ کا پورا شہر زمین میں جھنس رہا ہے۔

خدا کی قسم! اگر فاطمہؑ نے قبر پیغمبرؐ پر اپنے بال کھول کر خدا کے حضور فریاد کی تو اہل مدینہ کو زندہ رہنے کی مہلت نہیں دی جائے گی اور زمین تمام لوگوں کو ننگل لے گی۔

یہ سنتے ہی سلمانؓ بڑی تیزی سے حضرت سیدۃ کے پاس آئے اور عرض کی: دختر محمدؐ خداوند عالم نے آپ کے پدر بزرگوار کو عالمین کے لئے رحمت بنایا ہے آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں اور بددعا نہ کریں۔

حضرت سیدۃ نے فرمایا: سلمان! (میں بددعا کیسے نہ کروں) یہ لوگ علیؑ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب میرا صبر ختم ہو چکا ہے۔ مجھے اپنے بابا کی قبر پر بال کھولنے دو۔ پھر میں خدا کی بارگاہ میں فریاد کروں گی۔

سلمانؓ نے کہا عرض کی: مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کی بددعا سے مدینہ میں زلزلہ آجائے گا، زمین اپنا منہ کھول لے گی اور اہل مدینہ کو ننگل لے گی۔ آپ کے خاندان حضرت

علی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ بددعا نہ کریں اور واپس چلی جائیں۔

اپنے شوہر کا حکم سن کر حضرت سیدہ نے کہا: اذا رجع واصبر واسمع له واطيع
اس صورت میں، میں واپس جا رہی ہوں اور صبر کروں گی کہ میں نے اپنے شوہر کا
فرمان سن لیا اور اس کی اطاعت کی۔

علامہ طبری کتاب الاحتجاج میں نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا: جب
لوگ حضرت علی کو باہر لائے تو بنی ہاشم کی تمام عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر رسول خدا کی قبر
پر آئیں۔ حضرت فاطمہ نے آواز دی:

میرے ابن عم کو رہا کرو۔ اس ذات کی قسم جس نے محمدؐ، مصطفیٰ کو حق کے ساتھ
مبعوث کیا ہے، اگر تم نے انہیں نہیں چھوڑا تو میں اپنے بال کھول دوں گی، بیغیر خدا کا گرتے اپنے
سر پر رکھوں گی اور اپنے خدا سے فریاد کروں گی۔ خدا کی قسم! اللہ کی نظر میں ناقہ صالح کا مقام
میرے حسنین سے زیادہ نہیں ہے۔

سلمانؓ روایت کرتے ہیں: میں اس وقت حضرت فاطمہ کے قریب تھا۔ خدا کی قسم!
میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں زمین سے بلند ہونے لگیں اور اتنی بلند ہوئیں کہ ان کے
نیچے سے انسان گزر سکتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر میں نے حضرت سیدہ سے عرض کی: اے عظیم
خاتون اور میری سردار بی بی! اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر
بھیجا ہے۔ آپ عذاب کا سبب نہ بنیں۔

حضرت سیدہ اپنے گھر کو واپس آئیں اس کے ساتھ ہی مسجد کے شگاف آپس میں
پیوست ہو گئے اور دیواریں اپنی جگہ واپس آئیں تو ان کی بنیادوں سے غبار اٹھا اور ہماری ناک
میں گھس گیا۔

محدث الاسلام محمد بن یعقوب کلینی نے امام محمد باقرؑ و امام جعفر صادقؑ سے روایت کی۔
انہوں نے فرمایا: جب لوگوں نے حضرت علیؑ سے یہ سلوک کیا تو حضرت فاطمہ نے عمر کے لباس

کو پکڑ کر زمین کی طرف کھینچا اور فرمایا:

فرزند خطاب مجھے خدا کی قسم! اگر مجھے بے گناہ افراد کی بلاکت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنے خدا سے فریاد کرتی اور میرا خدا میری بددعا کو فوراً قبول کرتا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب لوگ امام علیؑ کو گھر سے پکڑ کر باہر لے گئے تو بی بی فاطمہ نے رسول خداؐ کا کرتہ اپنے سر پر رکھے حسینؑ کے ساتھ ابوبکر کے پاس آئیں اور اس سے کہا: ابوبکر مجھ سے تیرا کیا واسطہ ہے تو میرے شوہر کو قتل کر کے میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم! اگر میرے سر کے بال کھول کر درگاہ خداوندی میں بددعا کرنا منسب ہوتا تو میں ایسا ہی کرتی۔

اس اثناء میں ایک حکومت کے بھی خواہ نے ابوبکر سے کہا:

”تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سیدۃ کی بددعا سے تمام لوگ بلاک ہو جائیں؟ تب انہوں نے حضرت علیؑ کو چھوڑ دیا۔ حضرت علیؑ نے حضرت زہراؑ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر گھر چلے گئے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ امام باقرؑ نے فرمایا: واللہ لو نشرت شعرها ماتوا اطراً۔ خدا کی قسم اگر فاطمہؑ اپنے بال کھول دیتیں تو تمام افراد مر جاتے۔

واقعة بیعت ابن ابی الحدید کی زبانی

اہل سنت کے معروف عالم ابن ابی الحدید نے جوہری کی کتاب السقیفہ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شعی کی روایت ہے کہ ابوبکر نے عمر سے کہا: خالد بن ولید کہاں ہے؟ عمر نے خالد کا پتہ بتایا۔ اور خالد کو بلایا گیا جب وہ آیا تو ابوبکر نے عمر اور خالد سے کہا: تم دونوں علیؑ اور زبیر کے پاس جاؤ اور انہیں یہاں لے آؤ۔

عمر اور خالد دونوں دروازہ زہراؑ پر آئے۔ خالد باہر کھڑا رہا اور عمر گھر میں داخل ہوئے اور زبیر سے کہا: تم نے یہ تلوار ہاتھ میں کیوں اٹھا رکھی ہے؟

زبیر نے کہا: میں نے یہ تلوار بیعت علی کی غرض سے تیار کی ہوئی ہے۔

اس وقت گھر میں مقداد اور تمام بنی ہاشم جمع تھے۔ عمر نے زبیر سے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور گھر میں پڑے ہوئے پتھر پر اس زور سے ماری کہ تلوار ٹوٹ گئی۔ پھر انہوں نے زبیر کو ہاتھ سے پکڑا اور گھر سے باہر لے گئے اور خالد سے کہا: ”زبیر کا خیال رکھنا۔“ اس وقت اہل حکومت کے بہت سے یہی خواہ دروازہ کے باہر عمر اور خالد کی حفاظت کے لئے موجود تھے۔

پھر عمر دوبارہ علی کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت علیؑ سے کہا: اٹھو اور بیعت کرو۔
حضرت علیؑ نہ اٹھے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا۔

عمر نے علیؑ کا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ کہا کہ اٹھو اور بیعت کرو۔

اس بار بھی حضرت نے ان کی بات نہ مانی تو وہ جبراً آپ کو باہر نکال لائے اور خالد کے حوالے کر دیا۔ خالد کے پاس اس وقت بہت سے مددگار موجود تھے۔

پھر عمر اپنے ساتھیوں کی مدد سے علیؑ اور زبیر کو جبراً مسجد میں لے آئے۔ اس وقت لوگ جمع ہو کر اس منظر کو دیکھنے لگے اور لوگوں کے اثر دہام سے مدینہ کی گلیاں بھر گئیں۔

حضرت فاطمہؑ نے جب اہل حکومت کا یہ رویہ دیکھا تو وہ اپنے دروازے پر آئیں۔ بی بی کنیؑ آہ و بکا سن کر مستورات بنی ہاشم بھی جمع ہو گئیں اور انہوں نے بی بی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔

حضرت فاطمہؑ نے فرمایا: ”ابوبکر! تم نے بڑی جلدی خاندان محمدؐ پر پوش کی ہے اور تم نے بہت بڑی جسارت کی ہے۔ خدا کی قسم! میں جب تک زندہ رہوں گی، عمر سے گفتگو نہیں کروں گی۔“

راوی کہتا ہے کہ جب علیؑ اور زبیر نے بیعت کر لی تو تمام قسم کی شورش تھم گئی۔ ابوبکر حضرت فاطمہؑ کے پاس آئے، ان سے عمر کی سفارش کی اور حضرت فاطمہؑ سے درخواست کی

کہ وہ اس سے درگزر فرمائیں، حضرت فاطمہ راضی ہوئیں۔!

ابن ابی الحدید مذکورہ روایات نقل کر کے لکھتے ہیں:

میرے نزدیک صحیح ترین بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جب دنیا سے رخصت ہوئیں تو وہ ابو بکر و عمر پر ناراض تھیں اسی لئے انہوں نے وصیت کی تھی کہ شیخین ان کے جنازہ میں شرکت نہ کریں۔ ہمارے ساتھیوں کی نظر میں شیخین کا یہ فعل گناہ صغیرہ تھا جو قابل بخشش ہے۔ البتہ ابو بکر و عمر کو حضرت فاطمہ کا احترام کرنا چاہئے تھا اور ان کے مقام عظمت کو مد نظر رکھنا چاہئے تھا۔ لیکن انہیں اختلاف و تفرقہ کا خوف تھا اسی لئے انہوں نے وہ کچھ کیا جو ان کی نظر میں مناسب تھا۔

شیخین دین اور قوت یقین میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ لہذا اگر ایسے امور ثابت بھی ہو جائیں تو وہ بھی گناہ کبیرہ نہیں ہوں گے بلکہ ایسے واقعات گناہ صغیرہ شمار کئے جائیں گے جو دوستی و دشمنی کا معیار نہیں بن سکتے۔! (اتنی کلامہ)

(اب ہم اس امر کا فیصلہ اپنے زندہ ضمیر، منصف مزاج قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ کیا ابن ابی الحدید نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط اور آیا ان واقعات کا تعلق گناہان صغیرہ سے ہے یا گناہان کبیرہ سے ہے؟)

سیدۃ درودیوار کے درمیان

علامہ مجلسی بحار الانوار میں کتاب سلیم بن قیس کے حوالے سے رقم طراز ہیں:

ابان بن عیاش نے سلیم سے نقل کیا کہ سلمان اور عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ جب رسول خدا نے وفات پائی اور ابھی آپ کا جنازہ دفن بھی نہ ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا، مرتد ہو گئے، اپنے حقیقی نصب العین سے منحرف ہو گئے اور آنحضرت کی طرف سے مقرر کردہ امر کی مخالفت میں مجتمع ہو گئے۔

حضرت علیؑ نے آنحضرتؐ کو غسل وکفن دیا، انہیں حنوط کیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو لحد میں اتارا۔

ان مراحل سے فارغ ہو کر آپ اپنے گھر آئے اور رسول خداؐ کی وصیت کے تحت آیات قرآنی کی تنظیم و ترتیب میں مشغول ہو گئے۔ ان مصروفیات کی وجہ سے آپؐ گرد و پیش کے حالات سے لاتعلق رہے۔

عمر نے ابوبکر سے کہا: سب لوگوں نے تمہاری بیعت کر لی ہے لیکن علیؑ اور ان کے خاندان نے تمہاری بیعت نہیں کی کسی شخص کو ان کے پاس روانہ کرو تا کہ وہ بھی تمہاری بیعت کریں۔ ابوبکر نے عمر کے ابن عم قنفذ کو اس لئے منتخب کیا اور اس سے کہا کہ تم علیؑ سے پاس جا کر کہو کہ خلیفہ رسولؐ کی دعوت پر لبیک کہو۔

قنفذ کئی بار ابوبکر کی طرف سے حضرت علیؑ کے پاس گیا اور انہیں ابوبکر کا پیغام پہنچایا لیکن ہر بار حضرت علیؑ نے ابوبکر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔

(جب کئی بار بلانے کے باوجود بھی علیؑ نہ آئے تو) عمر ناراض ہو کر اٹھے، خالد بن ولید و قنفذ کو ساتھ لیا اور اپنے ساتھ آگ اور نکلڑیاں لے کر روانہ ہوئے۔

یہ لوگ اپنے بہت سے ساتھیوں کے جلو میں دروازہ بتولن پر پہنچے۔ حضرت زہراؑ نے سر پر سوئے کی پٹی باندھی ہوئی تھی اور فراق پیغمبرؐ کے صدمہ سے نحیف و مزار ہو چکی تھیں۔

عمر نے دروازہ پر صدا دے کر کہا: فرزند ابوطالب! دروازہ کھولو۔

فاطمہ زہراؑ نے فرمایا: عمر! ہمیں تجھ سے کیا واسطہ ہے۔ تو ہمارا چیچھا کیوں نہیں چھوڑتا جبکہ ہم تو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

عمر نے کہا: دروازہ کھول دو ورنہ میں اسے تمہارے سامنے جلا دوں گا۔

حضرت فاطمہؑ نے فرمایا: کیا تجھے خوف خدا نہیں آتا؟ تو میرے گھر میں میری

اجازت کے بغیر کیوں داخل ہونا چاہتا ہے اور تو ہم پر کیوں حملہ آور ہونا چاہتا ہے؟

عمر اپنے ارادے سے باز نہ آئے پھر آگ طلب کی اور دروازہ کو آگ لگا دی جب دروازہ آدھا جل گیا تو انہوں نے دروازہ کو دھکا دیا۔ حضرت فاطمہؑ نے فریاد کرتے ہوئے کہا: یا ابتاہ یا رسول اللہ! اے ابا جان، اے اللہ کے رسول! عمر نے اپنی تلوار کو جو کہ نیام میں بند تھی، بلند کیا اور اس نیام کو جناب زہراؑ کے پہلو میں چھو دیا۔

حضرت زہراؑ کی چیخ بلند ہوئی۔ پھر عمر نے اپنا تازیانہ بلند کیا اور حضرت زہراؑ کے بازو پر مارا حضرت زہراؑ نے تازیانہ کھا کر اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے کہا: یا ابتاہ! ہائے ابا جان۔ حضرت علیؑ جلدی سے اٹھے اور انہوں نے عمر کا گریبان پکڑ کر زمین کی طرف کھینچا جس کی وجہ سے عمر زمین پر آرا جس سے اس کی گردن اور ناک زخمی ہوئی۔

حضرت علیؑ نے چاہا کہ اسے قتل کر دیں لیکن رسول خدا کی وصیت یاد آئی کہ آنحضرتؐ نے آپؐ کو صبر و تحمل کا حکم دیا تھا۔ پھر آپؐ نے فرمایا: فرزند ضحاک! اس خدا کی قسم جس نے محمدؐ کو مقام نبوت سے مہرم نیا ہے اگر پیغمبر خدا کی وصیت نہ ہوتی تو تجھے پتہ چیل جاتا کہ تو اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہونے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔

عمر نے اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کی۔ لوگ ان کی مدد کیلئے دوڑتے ہوئے حضرت علیؑ کے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت علیؑ کو پکڑ کر مسجد لے گئے۔ اس وقت حضرت زہراؑ دروازے کے قریب کھڑی تھیں۔ شنفذ نے حضرت سیدۃ کو زور سے تازیانہ مارا۔ جب حضرت زہراؑ دین سے روانہ ہوئیں تو اس تازیانہ کا نشان کسی بازو بند کی طرح آپ کے بازو پر موجود تھا۔ بعد ازاں شنفذ نے وہ دروازہ حضرت سیدۃ کے پہلو پر بڑا دیا جس کی وجہ سے بی بی کی کچھ پسلیاں ٹوٹ گئیں اور بی بی کے شکم میں جو بچہ تھا، اس کا اسقاط ہو گیا۔

اس المناک واقعہ کے بعد حضرت سیدۃ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئیں اور اسی صدمہ سے ان کی شہادت ہوئی۔

قنفذ کی قدردانی

مؤلف کہتا ہے کہ سلیم بن قیس سے منقول ہے:
ایک جنگی کے سال عمر بن خطاب نے تمام لوگوں کے وظائف نصف کر دیئے لیکن قنفذ کو پورا وظیفہ ملتا رہا۔

سلیم کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا تو میں نے وہاں بنی ہاشم کے رُوہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بنی ہاشم کے علاوہ اس حلقہ میں سلمان، ابوذر، مقداد، محمد بن ابی بکر، عمر بن ابی سلمہ اور قیس بن سعد بن عبادہ بھی موجود تھے۔

عباس بن عبدالمطلب نے حضرت علی سے کہا:
آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ عمر نے تمام لوگوں کے وظائف نصف کر دیئے ہیں لیکن قنفذ کو پورا وظیفہ مل رہا ہے۔

حضرت علی نے ادھر ادھر دیکھا پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور فرمایا:
”شکر لہ ضربۃ ضربہا فاطمہ بالسوط فما تت وفی عضوہا اثرہ کانہ المملح“ قنفذ کا وظیفہ اس لئے کم نہیں کیا گیا کہ اس ذریعہ سے اس کے اس تازیانہ کی قدردانی کی گئی جو اس نے حضرت فاطمہ کو مارا تھا۔ جب فاطمہ کی وفات ہوئی تو ان کے بازو پر بازو بند کی طرح سے اس تازیانے کا نشان موجود تھا۔

امام حسن کی مغیرہ بن شعبہ سے گفتگو

سلیم بن قیس بیان کرتے ہیں:

امام حسن مجتبیٰ نے معاویہ اور اس کے طرفداروں کے اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے مغیرہ بن شعبہ سے کہا تھا:

مغیرہ بن شعبہ! تو خدا کا دشمن، قرآن کا مخالف اور رسول خدا کی تکذیب کرنے

والا ہے... تو نے ہی دختر پیغمبر کو ضرب مار کر انہیں زخمی کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے جنین کا اسقاط ہوا تھا۔ تو نے اپنی اس جسارت و بے باکی سے رسول خدا کی مخالفت کی ہے اور تو نے رسول خدا کے اس فرمان کو جو انہوں نے اپنی بیٹی سے فرمایا تھا، حقیر سمجھا، حالانکہ رسول خدا نے اپنی نور نظر سے فرمایا تھا:

انت سیدہ نساء اهل الجنة: تو خواتین اہل جنت کی سردار ہے۔

مغیرہ! اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ میں ڈالے گا اور جھوٹ بولنے والوں کے گنہ کا بوجھ تیری

گردن میں ڈالے گا!

حضرت علی کے لئے سیدہ کی حمایت

فلسفی اور محقق فیض کاشانی کتاب علم الباقین میں التہاب نیران الاحزان کے حوالے

سے حضرت علی کے گھر پر یورش کے عنوان سے لکھتے ہیں:

عمر کچھ طلقاء اور منافقین کو ساتھ لے کر حضرت علی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔

جب حمد آوروں کا گروہ وہاں پہنچا تو دروازہ کو بند پایا۔ انہوں نے آواز دے کر کہا:

علی! گھر سے باہر آؤ کیونکہ رسول خدا کا خلیفہ تمہیں یاد کرتا ہے۔

حضرت علی نے دروازہ نہ کھولا۔ حملہ آور لکڑیاں لائے اور دروازے کے قریب رکھ

دیں اور گھر کو جلانے کے لئے آگ لائے۔ عمر نے آواز دے کر کہا: خدا کی قسم! اگر دروازہ نہ

کھولا گیا تو میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔

حضرت سیدہ نے خیال کیا کہ یہ لوگ گھر کو جلانا چاہتے ہیں۔ اسی لئے آپ نے اٹھ

کر دروازہ کی زنجیر کھولی۔ مگر حملہ آوروں نے سیدہ کو سر پر چادر اوڑھنے کی فرصت نہ دی۔ اتنے

۱۔ روایات میں حضرت فاطمہ کو مضروب کرنے میں مغیرہ بن شعبہ کا نام نہیں آتا لیکن یہ خاندان رسالت

کے خدفا شوہر اور شیطن کا محرک تھا۔ غالباً اسی لئے امام حسن نے پہلوئے فاطمہ پر ضرب لگانے اور قتل

کرنے میں اس کے کردار کی نشاندہی کی ہے۔ (مترجم فارسی)

میں عمر نے دروازے کو دھکا دیا حضرت فاطمہ اپنے آپ کو نامحرموں سے بچانے کے سئے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں۔ دروازے کو جیسے ہی دھکا دیا گیا تو حضرت سیدۃ درود یوہار کے درمیان پھنس گئیں۔ پھر عمر اپنے ساتھیوں کو لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت علیؑ فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حملہ آوروں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ اور ان کے دامن و گریبان کو پکڑ کر زبردستی مسجد کی طرف لے چلے۔

حضرت فاطمہ حملہ آوروں کے سامنے آئیں اور ان کے اور اپنے شوہر علیؑ کے درمیان کھڑی ہو گئیں اور فرمایا: ”خدا کی قسم میں اپنے چچا زاد کو یوں ظلم کے ساتھ جانے نہیں دوں گی۔ تم پر افسوس تم نے کتنی جلدی خدا اور اس کے رسولؐ سے خیانت کی ہے۔ تم نے رسول خداؐ کے خاندان پر ظلم کیا ہے۔ حالانکہ رسول خداؐ تمہیں ہماری بیروی اور محبت کا حکم دے کر گئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اپنے معاملات میں میرے خاندان سے تمسک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قل لا اسئلكم علیہ اجر الا المودة فی القربی (الشوریٰ - ۲۳)۔

(کہہ دیجئے کہ میں تم سے نبوت و رسالت کی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے رشتہ داروں سے دوستی رکھو۔)

راوی کا بیان ہے کہ حضرت سیدۃ کی یہ گفتگو سن کر بہت سے افراد متفرق ہو گئے، مگر عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنے چچا زاد قنفذ سے کہا کہ فاطمہ کے تازیانہ مارو۔

قنفذ نے حضرت زہراؑ کی پشت اور پہلو پر تازیانہ مارا جس کا نشان آپ کے بدن نازنین پر پڑ گیا اور اس ضربت کی وجہ سے سیدۃ کے بچے کا اسقاط ہوا۔ جس کا نام پیغمبر اکرمؐ نے محسن رکھا تھا۔

حملہ آور امیر المؤمنین کو کشاں کشاں مسجد کی طرف لے گئے اور ابو بکر کے سامنے لے جا کر پیش کیا۔

میں عمر نے دروازے کو دھکا دیا حضرت فاطمہ اپنے آپ کو نامحرموں سے بچنے کے لئے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں۔ دروازے کو جیسے ہی دھکا دیا گیا تو حضرت سیدہ درودیوار کے درمیان پھنس گئیں۔ پھر عمر اپنے ساتھیوں کو لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت عقی فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حملہ آوروں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ اور ان کے دامن و گریبان کو پکڑ کر زبردستی مسجد کی طرف لے چلے۔

حضرت فاطمہ حملہ آوروں کے سامنے آئیں اور ان کے اور اپنے شوہر عقی کے درمیان کھڑی ہو گئیں اور فرمایا: ”خدا کی قسم میں اپنے چچا زاد کو یوں ظلم کے ساتھ جانے نہیں دوں گی۔ تم پر افسوس تم نے کتنی جلدی خدا اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ تم نے رسو خدا کے خاندان پر ظلم کیا ہے۔ حالانکہ رسول خدا تمہیں ہماری پیروی اور محبت کا حکم دے کر گئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اپنے معاملات میں میرے خاندان سے تمسک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة فی القربى (الشوریٰ - ۲۳)۔

(کہہ دیجئے کہ میں تم سے نبوت و رسالت کی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے رشتہ داروں سے دوستی رکھو۔)

راوی کا بیان ہے کہ حضرت سیدہ کی یہ گفتگو سن کر بہت سے افراد متفرق ہو گئے، مگر عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنے چچا زاد قنفذ سے کہا کہ فاطمہ کے تازیانہ مارو۔

قنفذ نے حضرت زہراء کی پشت اور پہلو پر تازیانہ مارا جس کا نشان آپ کے بدن نازنین پر پڑ گیا اور اس ضربت کی وجہ سے سیدہ کے بچے کا اقطا ہوا۔ جس کا نام پیغمبر اکرمؐ نے محسن رکھا تھا۔

حملہ آور امیر المؤمنین کو کشاں کشاں مسجد کی طرف لے گئے اور ابوبکر کے سامنے لے جا کر پیش کیا۔

حضرت زہراؑ زخمی حالت میں اپنے شوہر کو چھڑانے کی غرض سے مسجد میں آئیں اور آپ نے آتے ہی حضرت علیؑ کے ہاتھ سے پکڑا اور چابا کے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ لیکن مخالفین نے ایسا نہ کرنے دیا۔ پھر آپ اپنے والد کی قبر پر آئیں اور آپ نے سوز دل اور آہ جانکاہ سے رُیہ کیا اور یہ اشعار پڑھے۔

نفسی علی زفراتها معبوسة باليتها خرجت مع الزفرات
لاخیر بعدک فی الحیاة وانما ابکی مخافة ان تطول حیاتی

میری جان غم اندوہ کے ساتھ میرے سینے میں مجبوس ہے۔ اے کاش میری جان بھی غم و اندوہ سے ساتھ نکل جاتی۔ باباجان! آپ کے بعد زندگی میں کوئی خیر و نیکی نہیں ہے۔ میں رو رہی ہوں اس لئے کہ آپ کے بعد زندہ کیسے رہ گئی۔

پھر فرمایا۔ اباجان! ہائے آپ کی جدائی اور ہائے آپ کے پیار سے بواحسن امیر المؤمنین کی جدائی۔ آپ کے دو فرزند حسن و حسین کے والد کی جدائی۔ جسے آپ نے بچپن میں پالا تھا اور جب وہ بڑا ہوا تو آپ نے اسے اپنا بھائی مقرر کیا اور جو آپ کا محبوب ترین فرد تھا، جس نے قبول اسلام میں سب سے سہقت کی تھی۔ اور جس نے آپ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہائے والد بزرگوار اور بہترین خلاق! آ کر اپنے بھائی کی حالت دیکھیں۔

”فہاہو یساق فی الاسر کمایساد البعیر“ آج اسے قید کر کے یوں پھرایا جا رہا ہے جیسا کہ اونٹ کو پھرایا جاتا ہے۔

پھر آپ نے ایک نالہؑ جاسوز بلند کیا اور کہا:

وامحمداه! واجیباه! واباہ! وابا و ابالقاسماہ! واحمداه و اقلہ ناصرہ
واغوثاہ واطول کربتہاہ واحزنہاہ ومصبتہاہ وسوء صباحہاہ۔ یا محمدؑ فریاد! اے دوست فریاد!
اے واد فریاد! اے ابوالقاسم فریاد! اے احمد فریاد! مددگاروں کی کمی کی فریاد! زیدہ مصائب و
آلام کی فریاد! اس روز تلخ کی فریاد!

اس کے بعد حضرت سیدۃ نے ایک چیخ بلند کی اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ نبی کے رونے کی آواز سن کر لوگ رونے لگے۔ ان کے رونے کی صدا میں بلند ہوئیں تو مسجد نبوی، تم سرا میں تبدیل ہو گئی۔

لوگوں نے حضرت علیؑ کو ابو بکر کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ اور ابو بکر بیعت کرو۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: خدا کی قسم! میں بیعت نہیں کروں گا کیونکہ تمہاری گردنوں میں میری بیعت کا فائدہ ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ (یعنی تم نے غدیر خم میں میری بیعت کی تھی تمہیں اس بیعت پر قائم رہنا چاہئے تھا)۔

بیعت سے انکار

عدی بن حاتم جو کہ رسول خدا کے اصحاب اور حضرت علیؑ کے دوستوں میں سے تھے، کا

بیان ہے

خدا کی قسم! آج تک میرا دل کسی واقعہ پر اتنا نہیں کڑھا جتنا کہ اس دن کڑھا تھا جب لوگ علیؑ کو دامن و گریبان سے پکڑ کر زبردستی مسجد میں لائے اور ان سے کہا کہ تم ابو بکر کی بیعت کرو۔

علیؑ نے کہا: اگر میں بیعت نہ کروں تو پھر؟

انہوں نے جواب دیا: ہم تیری گردن جدا کر دیں گے۔

یہ سن کر علیؑ نے آسمان کی طرف سراٹھا کر کہا: پروردگار! میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کیلئے یہاں لائے ہیں جب کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول خدا کا بھائی ہوں۔

مخالفین نے کہا: اپنے ہاتھ کو بیعت کے لئے پھیلاؤ۔

حضرت علیؑ نے ان کا کہنا نہ مانا تو انہوں نے زبردستی حضرت کے ہاتھ کو پکڑ لیا آپ

نے اپنی مٹھی بند کر لی لوگوں نے مٹھی کھولنے کی پوری کوشش کی لیکن کسی سے آپ کی مٹھی نہ کھل سکی۔ پھر انہوں نے ابو بکر کا ہاتھ بڑھا کر آپ کی مٹھی کے ساتھ مس کیا۔^۱

حضرت علیؑ نے قبر رسولؐ کی طرف رخ کر کے کہا: یا بنی ام ان القوم استضعفونی

و کادوا یقتلوننی (الاعراف ۱۵۰)

میرے مان جائے قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔

راوی کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے ابو بکر کو مخاطب کر کے یہ دو شعر پڑھے:

فان كنت بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب

وان كنت بالقریبی حججت خصيمهم فغيرك اولی بالسی واقرب

اگر تو باہمی مشاورت سے برسر اقتدار آیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ مشورہ دینے

والے (میرق طرح) ہی غائب تھے۔

اور اگر تو نے قرابت کے ذریعہ استدلال کیا ہے تو تیرا غیر (یعنی میں) نبی اکرم کا

زیادہ قرابت دار ہے۔^۲

آپؐ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے: واعجباہ اتكون الخلفة بالصحابہ ولا تكون

بالقرابة والصحابه. یعنی تعجب ہے خلافت صحابیت سے تو ثابت ہو سکتی ہے لیکن صحیبت اور

قرابت سے ثابت نہیں ہوتی!!؟

اقرار جرم

عمر بن خطاب نے اپنے دور اقتدار میں معاویہ بن ابوسفیان کو ایک تفصیلی خط لکھا تھا

جس میں انہوں نے بیعت علیؑ اور گھر جلانے کی روداد بڑی وضاحت سے تحریر کی تھی۔ اس خط

میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی تحریر تھا۔

۱۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ (مترجم فارسی)

۲۔ یہ شعر نجیب الماخذ میں سکت ۱۹۰ میں مذکور ہے۔

..... میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے مشورہ کرنے کے بعد علیؑ کے گھر گیا۔ علیؑ کی کینزِ فضہ باہر آئی تو میں نے اس سے کہا: علیؑ سے کہو کہ وہ باہر آئیں اور ابو بکرؓ کی بیعت کریں کیونکہ تمام مسلمان ان کی بیعت کر چکے ہیں۔

فضہ نے کہا: امیر المؤمنین علیؑ (قرآن کی جمع آوری میں) مصروف ہیں۔ میں نے کہا: ان باتوں کو رہنے دے۔ علیؑ سے جا کر کہہ کہ وہ باہر آئیں ورنہ ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے اور انہیں زبردستی پکڑ کر باہر لے آئیں گے۔

اس وقت فاطمہؑ آئیں اور دروازہ کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا: ”اے جھوٹے اور گمراہ لوگو! کیا کہتے ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: کیا تو فاطمہؑ ہے؟

اس نے کہا: ہاں! عمر تو کیا چاہتا ہے؟

میں نے کہا: تیرے ابن عم نے جواب کے لئے تجھے یہاں کیوں بھیجا اور خود پردوں میں کیوں چھپا بیٹھا ہے؟

فاطمہؑ نے مجھ سے کہا: طغیانک یا عمر! اخرجنی والزمک الحجة وکل ضال غوی۔ یعنی تیری سرکشی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ میں یہاں تجھ پر اور تمام منخرِف اور گمراہ افراد پر حجت تمام کرنے آئی ہوں۔

میں نے کہا: یہ بیہودہ اور زنانہ گفتگو رہنے دو اور علیؑ سے کہو کہ وہ گھر سے باہر نکلیں۔ فاطمہؑ نے کہا: لاحب ولاكرامة..... تو کسی محبت اور عزت کے لائق نہیں ہے۔ کیا تو مجھے شیطان کے گروہ سے ڈرانا چاہتا ہے؟ تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ شیطان کا گروہ کمزور اور ناتواں ہوتا ہے۔

میں نے کہا: اگر علیؑ باہر نہ نکلا تو بہت سی لکڑیاں یہاں لے آؤں گا اور اس گھر کو اس میں رہنے والوں سمیت جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ یا علیؑ کہ گھر سے پکڑ کر بیعت کے لئے مسجد

میں لے جاؤں گا۔

پھر اس وقت میں نے قنقد سے تازیانہ لے کر فاطمہ کو تازیانہ مارا۔ پھر میں نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم لوگ لکڑیاں لے آؤ اور میں نے فاطمہ سے کہا: اب میں اس گھر کو آگ لگاتا ہوں۔

فاطمہ نے کہا: اے خدا و رسول! اور امیر المؤمنین کے دشمن!

اور اس کے ساتھ اس نے مجھے گھر میں داخل ہونے سے روکنے کے لئے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے تو میں نے اس کے ہاتھوں کو شدت سے جھٹک دیا اور میں نے دروازہ کو زور سے دھکا دیا اور میں نے فاطمہ کے ہاتھوں پر تازیانہ مارا تاکہ وہ دروازے کو چھوڑ دے اور دور ہو جائے۔

تازیانہ کھا کر اس نے آہ وزاری شروع کی اور اس نے اتنے دردناک بین کئے کہ میرا اپنا دس بھی نرم ہونے لگا اور ایک مرتبہ میں نے یہاں تک سوچا کہ یہاں سے واپس چلا جاؤں لیکن میرے ذہن میں وہ کینہ تازہ ہو گیا جو (علیق کے) ہمارے بزرگوں کے قتل کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا۔

یہ سوچ کر میں نے دروازے کو زور سے ٹھوکر ماری لیکن وہ اسے اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئی تھیں کہ وہ نہ کھلا۔ جس وقت میری ٹھوکر دروازے پر پڑی اس وقت فاطمہ نے رور و کر کہا:

یا اباہ یا رسول اللہ ہکذا یفعل بحیبتک وابتک . آہ یا فضاۃ الیک
فخذ بنی فقد واللہ قتل مافی احشائی من حمل .

اباجان! اے رسول خدا! آپ کی پیاری بیٹی سے یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اے فضا! آؤ اور مجھے سہارا دو۔ خدا کی قسم میرے شکم کے بچے کو قتل کیا جا چکا ہے۔

میں نے اندازہ کیا کہ فاطمہ دروازہ کی شدت میں مبتلا ہے اور اس نے دیوار کا

سہرا لیا ہوا ہے۔ پھر میں نے دروازے کو پوری قوت سے دھکا دیا اور فاطمہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔ فاطمہ تکلیف کے عالم میں میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس نے مجھے روکنا چاہا لیکن اس وقت مجھے اتنا غصہ چڑھا ہوا تھا کہ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ چنانچہ اس غصہ کی شدت میں میں نے فاطمہ کو طمانچہ مارا کہ فاطمہ زمین پر گر گئی..... الی آخر۔!

داستان مظلومیت بزبان زہر اسلام اللہ علیہا

کتاب ارشاد القلوب میں مرقوم ہے کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا:

حملہ آور بہت سی لکڑیاں ہمارے دروازے پر لے آئے اور وہ ہم سمیت ہمارے گھر کو جانا چاہتے تھے۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ان لوگوں کو خدا و رسول کے واسطے دیتی رہی کہ وہ ہم سے کوئی سروکار نہ رکھیں اور ہماری مدد کریں۔ مگر عمر نے ابوبکر کے آزاد کردہ غلام قنفذ سے تازیانہ لیا اور میرے بازو پر اس زور سے مارا کہ اس کا نشان کسی دست بند کی طرح میرے بازو پر ثبت ہو گیا پھر اس نے زور سے دروازے پر ٹھوکر ماری اور میری طرف گرایا۔ وہ دروازہ میرے پہلو پر گرا جس کی وجہ سے میں زمین پر گر گئی۔ میرے دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور شعلوں سے میرا چہرہ جھلس رہا تھا۔ میرا دشمن اپنے ہاتھوں سے مجھے زد و کوب کرتا رہا اور میرے گوشوارے ٹوٹ کر گر گئے۔ درد زہ نے مجھے بے چین کر دیا اور میرا بے گناہ محسن ساقط اور قتل ہو گیا۔

۱۔ بحار الانوار طبع قدیم جلد ہفتم ص ۲۲۲ بحوالہ دلائل الامامة جلد دوم۔

وضیح رہے کہ اس خط کا انکشاف اس وقت ہوا جب امام حسین شہید ہو گئے اور عبداللہ بن عمر مدینہ کے چند افراد کو ساتھ لے کر یزید کے پاس دمشق گیا اور اسے شہادت امام حسین کے متعلق اہل سنت ملامت کی تو یزید نے کہا کہ تو اپنے والد کا خط پڑھنا چاہتا ہے؟ عبداللہ نے کہا جی ہاں۔ پھر یزید نے ایک صندوق سے مذکورہ خط نکال کر عبداللہ کے سامنے رکھا جس میں درج بالا گفتگو موجود تھی۔ (مترجم فارسی)

شب معراج مظلومیت سیدہ کی پیش گوئی

اللہ تعالیٰ نے شب معراج جہاں اپنے حبیب کو بہت سے آنے والے واقعات کی خبر دی تھی ان میں سے ایک خبر یہ بھی تھی:

”بہر حال تیری بیٹی پر لوگ ظلم کریں گے، اسے اس کے حق سے محروم کر دیں گے اور تو نے جو اس کا حق مقرر کیا ہوگا لوگ اس کا وہ حق بھی اس سے غصب کر لیں گے اور لوگ تیری اس حاملہ بیٹی کو زد و کوب کریں گے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہو جائیں گے اور اسے محزون و مغموم کریں گے۔ اس وقت اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ اور ضربات کے اثر سے لوگ اس بچے کو سقط کریں گے اور اس کو قتل کریں گے۔“

پیغمبرؐ نے یہ سن کر کہا: انا لله وانا اليه راجعون: خدایا! میں ان امور کو تسلیم کرتا ہوں اور تیرے فرمان کے سامنے سر جھکاتا ہوں اور تجھ سے صبر و توفیق کا طلب گزار ہوں۔

زہراؑ کو اذیت دینے والوں پر کیسا عذاب ہوگا؟

روایت میں مذکور ہے۔

قیامت کے دن سب سے پہلے محسن بن علی کا مقدمہ پیش کیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ محسن کے قاتل اور قنفذ کے لئے حکم صادر ہوگا کہ انہیں عرصہ محشر میں لایا جائے۔ انہیں آتشیں تازیانے لگائے جائیں گے کہ اگر ان تازیانوں میں سے ایک تازیانہ تمام سمندروں میں گرجائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک سمندر اس کی گرمی سے کھولنے لگ جائیں گے۔ اور اگر ایک تازیانہ دنیا کے تمام پہاڑوں پر گرا دیا جائے تو پہاڑ پگھل کر خاکستر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ محسن کے قاتل اور قنفذ کو وہی تازیانے مارے جائیں گے۔

مفضل بن عمر نے ایک طولانی حدیث میں امام جعفر صادقؑ سے نقل کیا ہے۔ آپؑ نے فرمایا: قیامت کے دن حضرت ام المؤمنین خدیجہ اور حضرت علیؑ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت

اسد محسن کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گی اور ریرہ وزاری کر رہی ہوں گی۔ محسن کی وادہ حضرت سیدۃ قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت کر رہی ہوں گی (۱) ہذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ یعنی یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ (سورۃ الانبیاء، آیت ۱۰۳)

(۲) یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضراً وما عملت من سوء تود لو ان بینھا و بینہ امداداً بعیداً..... یعنی اس دن کو یاد کر دو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی جن کر دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا۔ (سورۃ آل عمران آیت ۳۰)

یہ فرما کر امام جعفر صادق اتار روئے کہ آپ کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا: لا قوت عین لا تبکی عندها الذکر اس آنکھ کو کبھی ٹھنڈک نصیب نہ ہو جو اس ذکر مصیبت پر نہ روئے۔

قیامت میں علیؑ کا خزانہ

پیغمبر اکرمؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا: ان لک کتبا فی الجنة انت ذو قرنیہا

جنت کا خزانہ تمہارے لئے ہے اور تم ہی دو شاخوں والے ہو۔

(دو شاخوں سے امام حسین اور امام حسن علیہما السلام مراد ہیں جو کہ جنت کے نئے

باعث زینت ہوں گے)

مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا کہ خزانہ سے مراد محسن بن علی ہے جس کا درود یوار کے درمیان اسقاط ہوا تھا۔ اور ہمارے وہ استاد اس روایت سے استدلال کرتے تھے کہ انسان کا اسقاط شدہ بچہ دروازہ جنت کے قریب ناراض حالت میں کھڑا ہوا ہوگا، اسے جنت میں جانے کے لئے کہا جائے گا تو وہ جواب میں کہے گا:

میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے والدین مجھ سے پہلے جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔

قول نظامؑ

سید بزرگوار مولانا میر حامد حسن ہندی اپنی کتاب ”عجبات الانوار“ میں کتاب ”الوفی باوفیت“ تالیف صلاح الدین صفری (عالم اہل سنت) کے حوالے سے ابو عمرو جاحظ کے استاد ”نظام“ کے متعلق لکھتے ہیں کہ نظام نے کہا:

پیغمبر اکرمؐ نے اس بات کی تصریح کر دی تھی کہ خلافت علیؑ کا حق ہے اور آنحضرتؐ نے علیؑ کو اس مقام پر معین کیا تھا اور تمام صحابہ اس سے آگاہ تھے۔ لیکن عمر نے ابوبکر کی خاطر اسے چھپایا۔

نظام نے اپنے سلسلہ کلام میں کہا ہے: عمر نے ابوبکر کی بیعت خلافت کے دن حضرت فاطمہ کے پہلو پر ضرب ماری تھی جس کی وجہ سے محسن کا اسقاط ہوا تھا۔ (اسی طرح شہرستانی کی کتاب اہلسل والخل میں تحریر ہے)۔

پیغمبر اکرمؐ نے خون ”ہبار“ کو مباح کیوں کیا تھا؟

مشہور سنی عالم ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں تحریر کرتے ہیں:

فتح مکہ (جو ۱ھ میں واقع ہوئی) کے وقت رسول خداؐ نے ہبار بن اسود کا خون مباح قرار دیا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ جب رسول خداؐ کی بیٹی زینب ہجرت کر کے مدینہ چرہی تھیں تو اس نے نیزہ سے انہیں محمل میں خوفزدہ کیا تھا جسکی وجہ سے حضرت زینب کے شکم کا بچہ ساقط ہو گیا تھا۔ اس لئے رسول خداؐ نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کے اعلان کے باوجود اس کے خون کو مباح قرار دیا تھا۔

میں (ابن ابی الحدید) نے یہ روایت اپنے استاد ابو جعفر نقیب کے سامنے پڑھی تو

۱۔ ابراہیم بن سيار بصرى معروف بہ نظام (متوفى ۸۳۵-۸۳۵) مشہور و معروف معتزلى متکلم تھے اور دنیائے اسلام کے عظیم عالم تھے۔ (المعجم فی الاعلام)

انہوں نے کہا۔

رسول خداؐ نے ہبار بن اسود کا خون اس وجہ سے مباح کیا تھا کہ اس نے آپ کی صاحبزادی زینب کو خوفزدہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے معصوم ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر خدا زندہ ہوتے تو آپ اس شخص کا خون بھی مباح قرار دیتے جس نے حضرت فاطمہؑ کو خوفزدہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا حمل گر گیا تھا۔

میں نے اپنے استاد سے کہا کہ کیا میں آپ کی طرف سے نقل کروں کہ فاطمہؑ کو خوفزدہ کیا گیا تھا اور اس وجہ سے ان کے محسن کا اسقاط ہوا تھا؟

ابو جعفر نقیب نے کہا: اس روایت کے متعلق توقف کرتا ہوں اور اپنی کوئی خاص نظریہ نہیں رکھتا اور اس کی وجہ وہ روایات ہیں جو کہ میرے پاس موجود ہیں۔ (یوں وہ بے چارہ تقیہ کر گیا)۔

مؤلف کہتا ہے کہ سید جزوعی نے کیا ہی اچھا لکھا تھا:

جرعاعا من بعد والدا الغیظ مرارا فینس ماجر عاھا

اغضباھا واغضبا عند ذاک اللہ رب السماء اذ اغضباھا

بنت من؟ ام من؟ حليلة من؟ ویل لمن سن ظلمھا واذاھا

ان دو اشخاص نے رسول خداؐ کی وفات کے بعد حضرت زہراؑ کو غیظ و غضب کے کئی گھونٹ پلائے۔ اور انہوں نے آپ کو غیظ و غضب کے گھونٹ پلا کر بہت ہی برا کیا۔ ان دونوں نے سیدہ کو ناراض کیا بلکہ آسمان کے مالک اللہ کو ناراض کیا۔

ہائے فاطمہؑ کس کی بیٹی تھیں، کس کی ماں تھیں اور کس کی زوجہ تھیں؟ اس کے لئے ہلاکت ہے جس نے ان پر ظلم و اذیت کی ابتدا کی۔

مصائب زہرا سے ائمہ کو کتنا دکھ پہنچا

امام محمد تقیؑ کا دکھ

طبری امامی نے دلائل الامتہ میں زکریا بن آدم کی زبانی نقل کیا۔ اس کا بیان ہے
میں امام علی رضا علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ کے غلام آپ کے فرزند محمد تقی
علیہ السلام کو آپ کے پاس لائے۔ اس وقت ان کی عمر چار برس سے بھی کم تھی۔ جب معصوم بچے
کو والد کے پاس لایا گیا تو انہوں نے زمین پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کافی دیر تک
سوچتے رہے۔

امام علی نے اپنے نور نظر سے فرمایا: میں تم پر قربان! کس طویل فکر میں چلے گئے؟
امام محمد تقی نے کہا: میں ان مصائب کے بارے میں سوچتا ہوں جو میری دادی حضرت
فاطمہؑ پر وارد ہوئے۔ خدا کی قسم! میں ان دو افراد کو قبر سے نکال کر ان کے جسموں کو آگ میں
جلا دوں گا۔ پھر ان کی خاک سمندر میں بہا دوں گا۔

امام علی رضائے اپنے فرزند کو اپنے قریب کیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان
بوسہ دیا اور فرمایا: میرے ماں باپ تم پہ قربان تم اس امر (امت) کے لائق ہو۔

امام باقرؑ و امام صادقؑ کا دکھ

منقول ہے کہ امام محمد باقرؑ جب بھی بخار میں مبتلا ہوتے تو آپ اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے۔ فاطمہ بنت محمدؑ۔ اے فاطمہ دختر محمدؑ۔

علامہ مجلسی نے اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام محمد باقرؑ، حضرت سیدہ کے بابرکت نام کے ذریعہ (اللہ سے) بخار سے شفا طلب کرتے تھے۔

مؤلف کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بخار امام علیہ السلام کے ذہنی وجود پر اثر کرتا تھا اسی طرح سے حضرت سیدہ کے مصائب امام علیہ السلام کے دل کو گھمیل کرتے تھے۔ امام علیہ السلام بخار کو دور کرنے کے لئے ٹھنڈا پانی استعمال کرتے تھے اور آل کے زخموں کے درد کی شدت کو کم کرنے کے لئے اپنی مبارک دادی کا نام لیتے تھے۔

ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک غمگین شخص لمبی سانس کے ذریعہ سے اپنے غم کے غبار کو ہٹا کرتا ہے۔ مصائب زہراؑ کی وجہ سے ان کی اولاد طاہرین کے قلب و جگر زخمی تھے۔ مجاہدین کی کثرت تھی اور انہیں تقیہ سے کام لینا پڑتا تھا اسی لئے وہ کھل کر اپنی مظلومہ دادی کے مصائب بیان نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب بھی ان کے سامنے کوئی مومن حضرت فاطمہؑ کا نام لیتا تو ان کے دلوں کا درد تازہ ہو جاتا تھا اور ان کے چہرے سے غم کے آثار ظاہر ہونے لگتے تھے۔ اس حقیقت کا اندازہ حسب ذیل روایت سے بھی ہوتا ہے۔

امام جعفر صادقؑ کے اصحاب میں ایک شخص کا نام سکونی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی عطا فرمائی تو امام جعفر صادقؑ نے اس سے پوچھا تو نے اپنی بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟
سکونی نے عرض کی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔

یہ نام سنتے ہی امام سے منہ سے آد، آد کے الفاظ نکلے پھر آپ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا اور غمگین ہو گئے۔

اس سے قبل ہم یہ تحریر کر چکے ہیں کہ جب رسول خدا کے چچا عباس نے حضرت علی سے کہا تھا کہ آخر عمر، قنفذ کو اس کا وظیفہ مکمل کیوں دے رہا ہے اور اس کی تنخواہ میں سے کوئی کٹوتی کیوں نہیں کی ہے؟

حضرت علی نے ادھر ادھر دیکھا، آپ کی آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو اور فرمایا: اس ذریعہ سے وہ اس تازیانہ کا شکر یہ ادا کر رہا ہے جو قنفذ نے فاطمہ زہرا کے رسید کیا تھا۔ جب فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہوئیں تو ان کے بازو پر کسی بازو بند کی طرح سے اس کا نشان موجود تھا۔

بشار مکاری کی داستان

علامہ مجلسی تحتہ الزائر میں رقم طراز ہیں:

بشار مکاری کا بیان ہے کہ میں کوفہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں گیا میں نے دیکھا کہ طبرزد کھجور کی ایک پلیٹ آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی اور آپ اس سے کھجوریں تناول کر رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آؤ اور میرے ساتھ کھجوریں کھاؤ۔

میں نے عرض کیا: آپ ہی تناول فرمائیں۔ میں راستے میں آ رہا تھا کہ میں نے ایک دردناک منظر دیکھا جس کی وجہ سے میری غیرت جوش میں آگئی، میرے دس میں درد پیدا ہوا اور میں رونے لگا۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: تجھے میرے اس حق کا واسطہ جو تیری گردن میں ہے آؤ اور کھجوریں کھاؤ۔

امام عالی مقام کا فرمان سن کر میں آگے بڑھا اور آپ کے ساتھ کھجوریں کھانے لگا آپ نے مجھ سے فرمایا: اب بتاؤ تم نے یہ واقعہ دیکھا ہے؟

میں نے عرض کی: مولانا! میں آ رہا تھا کہ راستہ میں میں نے حکومت کے ایک سپاہی کو

دیکھ کہ وہ ایک خاتون پر تشدد کر رہا تھا اور اسے قید کر کے زندان لے کر جا رہا تھا اور بے چاری خاتون بڑی مظلومیت کے لہجے میں فریاد کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔

میں خدا اور اس کے رسول کی پناہ چاہتی ہوں اور خدا و رسول کے عداوت کسی اور کی پناہ نہیں چاہتی۔

امام نے فرمایا: اس خاتون کو کس جرم میں قید کیا گیا ہے اور اس پر تشدد کیوں کیا گیا؟ میں نے عرض کی: میں نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ خاتون راہ چلتے پھرتی اور زمین پر گر پڑی اور گرتے وقت اس نے کہا:

اے فاطمہ! جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیا خدا انہیں اپنی رحمت سے دور رکھے!

اتفاق سے حکومت کے کارندوں نے یہ بات سن لی اور اسے قید کر کے تشدد کیا۔

امام جعفر صادق نے جیسے ہی یہ واقعہ سنا تو آپ نے اسی وقت کھجوروں سے ہاتھ کھینچ

لیا اور آپ اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ اور ریش مبارک اور آپ کا رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا۔

پھر آپ نے فرمایا: بشار! اٹھو مسجد سہلہ چل کر اس خاتون کی رہائی کے لئے دعا کرتے

ہیں اور وہاں جا کر خدا سے اس کی حفاظت کی درخواست کرتے ہیں..... الی آخر

امام جعفر صادق ایک مؤمنہ خاتون کا واقعہ سن کر اتنے متاثر ہوئے کہ آپ نے اتنا

گرہ یہ کیا۔ خدا جانے اگر ان کے سامنے ان کی جدہ مظلومہ کے مصائب بیان کئے جاتے تو آپ

کی کیا حالت ہوتی؟ اور اگر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا کہ ایک ظالم نے حضرت سیدہ کو اس

زور سے صمانچ مارا کہ آپ کے کان کے گوشوارے ٹوٹ کر گر گئے، تو آپ اس مصیبت کو کیسے

برداشت کرتے؟

مصائبِ کر بلا سے موازنہ

حضرت امام حسین کائنات کے بہت بڑے مظلوم ہیں اور دنیا کا کون سا ایسا ضم ہے

جو آپ پر نہ کیا گیا ہو۔ لیکن یہ حقیقت ہے امیر المؤمنین پر بعض مصائب ایسے بھی وارد ہوئے ہیں جو کہ مصائب کربلا سے زیادہ سنگین تھے۔

کتاب نفس المہوم میں طبری کے حوالے سے مرقوم ہے:

شمر لعین نے کربلا میں حملہ کیا اور اس نے امام حسین کے خیموں کی طرف نیزہ پھینک کر آواز دی کہ آگ لے آؤ میں ان خیموں کو خیمہ نشینوں سمیت جلانا چاہتا ہوں۔

جیسے ہی مخدرات عصمت نے یہ آواز سنی تو زور زور سے رونے لگیں اور خیموں سے باہر آ گئیں۔

امام حسین نے شمر سے فرمایا: تو آگ طلب کرتا ہے کہ میرے خاندان کو جلا دے؟ خدا تجھے دوزخ میں جلائے۔

ابو جحف لکھتے ہیں کہ سلیمان بن راشد نے حمید بن مسلم سے نقل کیا ہے کہ میں شمر کے پاس گیا اور اس سے کہا:

تجھ ہے تیرے لئے یہ کام نامناسب ہے کیا تو بیک وقت دو خصلتوں کا حامل بننا چاہتا ہے۔

۱۔ عذاب کا مستحق بن رہا ہے۔ ۲۔ مستورات اور معصوم بچوں کو جلا نا چاہتا ہے۔

کیا ابن زیاد اتنے مردوں کے قتل کرنے کی وجہ سے تجھ سے خوش نہیں ہوگا؟

شمر نے کہا: تو کون ہے؟

میں نے کہا: میں تجھے اپنے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا (کیونکہ مجھے یہ اندیشہ۔ حق تھا کہ

اگر میں نے اسے اپنے متعلق بتا دیا تو یہ ابن زیاد کے سامنے میری چغلی کھائے گا)

اتنے میں مجھ سے زیادہ شمر کی اطاعت کرنے والے شبث بن ربعی نے شمر سے کہا:

شمر! اس سے زیادہ غلط بات میں نے تجھ سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وراں سے برا

اقدام تو نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ کیا تجھے بچوں اور عورتوں کے قتل پر مامور کیا گیا ہے؟

حمید بن مسلم کہتا ہے شمر نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے اسے شرم آئی اور وہ بچوں اور عورتوں کو جلانے سے باز آیا۔

قارئین کرام! شمر دنیا کا بہت بڑا بد بخت اور بے حیا اور احمق شخص تھا مگر جب اس کے ساتھی شہب بن ربیع نے طعنہ دیا تو اسے حیا محسوس ہوئی اور خیموں کو جلانے سے باز آ گیا۔ لیکن اس مقام پر حضرت علیؑ کی مظلومیت بھی دیکھیں کہ ان کا حریف اپنے ساتھیوں کا دست لے کر حضرت علیؑ کے دروازے پر آیا اور آواز دے کر کہا:

والذی نفسی بیدہ لتخرجن الی البیعة لاحرقن البیت علیکمؑ مجھے اس ذات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے تم لوگ یا تو بیعت کے لئے باہر آؤ ورنہ تمہارے سمیت میں اس گھر کو جلا دوں گا۔

اس وقت بھی اس کے ایک ساتھی نے اسے کہا تھا: ”رسول خداؐ کی بیٹی فاطمہؑ اور ان کے معصوم بچے بھی اس گھر میں رہتے ہیں۔“

مگر اس پر اس جملے کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اسے اس سلسلہ میں کوئی شرم محسوس نہ ہوئی اور اپنے ارادہ سے باز نہ آیا اور آخر کار اس نے دروازہ بتول کو جلا ڈالا۔

ہائے مولائے متقیان کی مظلومی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسمظلومیت کے عالم میں حضرت علیؑ کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ البتہ سابقہ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ جب زبیر بن عوام نے دیکھا کہ لوگ علیؑ کو قید کر کے مسجد کی طرف کشاں کشاں جارہے ہیں تو اس نے مخالف پر حملہ کرنے کے لئے تلوار علم کی۔ مگر لوگوں نے اس سے تلوار چھین لی اور اس کی تلوار کو پتھر پر مار کر توڑ ڈالا گیا۔ اس وقت زبیر بن عوام فریاد کر کے یہ کہہ رہا تھا:

اے نسل عبدالمطلب! علیؑ کے ساتھ یہ سلوک ہو اور تم زندہ رہو۔

مظلومیت علیؑ

محدث الاسلام محمد بن یعقوب کلینیؑ نے اپنے استاد سے مدیر سے روایت کی۔ اس نے کہا: ہم امام محمد باقرؑ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ وفات رسولؐ کے بعد کے حالات اور حضرت علیؑ کی مظلومیت کا ذکر چھڑا تو ایک شخص نے آپ سے کہا:

خدا آپ کو کامیابی دے۔ بنی ہاشم کی عزت و شہرت اور ان کی کامیابی کی کثرت کو کیا ہوا تھی؟ (یعنی جب حضرت علیؑ پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے تو بنی ہاشم کے افراد کہاں تھے اور ان کی قوت و شہرت کدھر چلی گئی تھی؟)

امام محمد باقرؑ نے فرمایا: بنی ہاشم میں سے کوئی نہ بچا تھا۔ بنی ہاشم کی شوکت و قوت اس وقت تھی جب تک ان میں جعفر طیار اور حمزہ بن عبدالمطلب زندہ تھے۔ اور جب دونوں شہید ہو گئے تو بنی ہاشم کی قوت ٹوٹ گئی۔ ان کے بعد دو کمزور اور نو مسلم فرد (عقیل و عباسؑ) تھے جو کہ جماعت طلقاء میں سے تھے۔

اما واللہ لو ان حمزۃ وجعفر اکانا بحضرتهما ما وصلا الی ما وصلا الیہ
ولوکانا شاہد ینہما لا تلفا نفسیہما

آگاہ رہ! اگر حمزہ اور جعفر وفات پیغمبر کے وقت موجود ہوتے تو دونوں افراد وہ منصب حاصل نہ کر پاتے جو انہوں نے حاصل کیا اور وہ دونوں شخص سلامت نہ رہتے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے۔

اسی مظلومیت کی وجہ سے حضرت علیؑ کا یہ دستور تھا کہ آپ جب بھی خطبہ کے لئے منبر پر تشریف لے جاتے تو آپ کے خطاب کا آخری جملہ یہ ہوتا تھا۔ مازلت مظلوما منذ قبض اللہ نبیہ۔ نبی اکرمؐ کی وفات کے بعد سے میں ہمیشہ مظلوم رہا ہوں۔

تاریخ اسلام کا پہلا مظلوم

سیتب بن نجبه کا بیان ہے:

ایک دن حضرت علیؑ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے چیخ کر کہا:
”وامظلمتاة“ ہائے ظلم ہو گیا۔

حضرت علیؑ نے اس سے فرمایا کہ نزدیک آ جاؤ۔ وہ شخص نزدیک آیا تو آپ نے فرمایا:
مجھ پر یہاں کی ریت کے ذروں اور حیوانات کے جسم کے بالوں کی مقدار میں ظلم کیا گیا ہے۔
ایک اور عرب نے امیر المؤمنین کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا: ”یا امیر المؤمنین
المظلوم!“ اے مظلوم امیر المؤمنین! حضرت نے فرمایا: ويحك وانا مظلوم ظلمت عدد
المدن والوسر۔ یعنی عزیزم! مجھ پر ریگستان کی ریت کے ذرات اور حیوانات کے بالوں کے
برابر ظلم ہوئے ہیں۔

اور اسی مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابوذر غفاری امیر المؤمنین کو ”شیخ مظلوم
مضطهد“ (مظلوم و مقہور بزرگ) کے عنوان سے پکارا کرتے تھے۔
شہدۃ الاسلام کلینی نے امام نہم سے روایت کی کہ امیر المؤمنین کی قبر پر کھڑے ہو کر ان
الفاظ سے زیارت پڑھو۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ أَنْتَ أَوْلَىٰ مَظْلُومٍ وَأَوْلَىٰ مَنْ غَضِبَ حَقَّهُ صَبْرًا
وَاحْتَسَبَتْ حَتَّىٰ أَنَاكَ الْيَقِينُ فَاشْهَدْ أَنَّكَ لَقَيْتَ اللَّهَ وَأَنْتَ شَهِيدٌ عَذَابَ اللَّهِ فَاتِلْكَ
بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَجَدَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. یعنی ولی خدا آپ پر سلام ہو۔ آپ پہلے مظلوم ہیں اور
آپ پہلے شخص ہیں جن کا حق غصب کیا گیا ہے۔ آپ نے صبر کیا اور رضائے الہی کو طلب کیا یہاں
تک کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ شہید ہو کر خدا کے حضور پہنچے۔ اللہ
تعالیٰ آپ کے قاتل کو مختلف اقسام کے عذاب میں مبتلا کرے اور اس پر عذاب کی تجدید کرے۔

۱۔ یہ زیارت، زیارت مطلقہ کے عنوان سے مفاہیح الجنان میں موجود ہے۔

مؤلف کہتا ہے یہ مصائب و آلام درد مند سینہ سے نکلتی ہوئی آہ سوزاں ہیں اور ان مصائب سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔

سوگ زہراً کے متعلق چند اشعار

اس موضوع کے اختتام پر ہم شیخ صالح علی کے اشعار کو نقل کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے ان اشعار میں مصائب زہراً کا بہترین انداز سے تذکرہ کیا ہے۔

الواثین لظلم ال محمد	ومحمد ملقى بلا تكفين
والقائلین لفاطم اذیتنا	فی طول نوح دائم وحنین
والقاطعین اراکة کیماتقیل	بطلّ اوراق لها وعصون
ومجمعی حطب علی البیت الذی	لم یجتمع لولاه شمل الدین
والهاجمین علی البتول بیتها	والمسقطین لها اعزّ جین
والقائدين امامهم بنجادة	والطهر تدعوا خلفه برنین
خلوا بن عمی اولاکشف فی الدعاء	راسی واشکو للاله شجونى
ماکان ناقة صالح ورسيلها	بالفضل عندالله الاّ دونى
ودنت الی القبرا الشریف بمقلة	عبرى وقلب مکمد محزون
قالت واطفار المصاب بقلبها	غوثاه قلّ علی العداة معینى
ابتاه! هذه السامرى وعجله	تبعا ومال الناس عن هارون
ایّ الرّازیاتقی بتجلدی	هو فی النوائب مذ حییت قرینى
فقدى ابى ام غصب بعلی حقه	ام کسر ضلعى ام سقوط جینى
ام اخذهم ارثى وفاضل نحتى	ام جهلهم حقى وقد عرفونى
فهرؤا یتیمک الحسین وصنوه	وستلثم حقى وقدنهرونى

لوگ آل محمد پر ظلم کے لئے جھپٹ پڑے جب کہ رسول اللہ کی میت ابھی تک گھر میں رکھی ہوئی تھی اور ابھی تک انہیں کفن بھی نہیں پہنایا گیا تھا۔

ان لوگوں نے فاطمہ زہرا سے کہا تھا کہ تو نے اپنے طویل غم اور نالہ و گریہ سے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔

ان لوگوں نے پیلو کے درخت کو اس لئے کاٹ دیا تھا کہ کہیں رسول اللہ کی شاہزادی اس کی چھاؤں میں نہ بیٹھے اور رونہ سکے۔

ان لوگوں نے اس کے گھر کے ارد گرد لکڑیاں جمع کی تھیں حالانکہ اگر دنیا میں وہ گھر نہ ہوتا تو دین کا شیرازہ کبھی جمع نہ ہوتا۔

ان لوگوں نے جناب بتول کے گھر پر یورش کی اور اگلے عزیز بیٹے کا حمل ساقط کر دیا۔

ان لوگوں نے اپنے امام کو حائل شدہ تلوار کے ساتھ کھینچا جب کہ صاحبِ تطہیر بی بی آہ و بکا میں مصروف تھی۔

اس وقت بی بی یہ کہہ رہی تھیں کہ میرے ابن عم کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کے لئے اپنے سر کے بال کھول دوں گی اور خدا کے حضور تمام غموں کی شکایت کروں گی۔

حضرت صالحؑ کی اونٹنی اور اس کا بچہ خدا کے حضور مجھ سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتے بلکہ کمتر ہیں۔ (یعنی ناقہ صالحؑ کی کونچیں کاٹنے والے خدا کے سخت عذاب میں مبتلا ہوئے تھے۔

اور تم بھی یہی چاہتے ہو)

بی بی روتی ہوئی آنکھوں اور ٹمکنی دل کے ساتھ رسول اکرمؐ کی قبر شریف پر آئیں۔

مصائب کے چنگل نے بی بی کے دل کو جکڑا ہوا تھا اس عالم میں بی بی نے کہا آہ آج دشمنوں کے مقابلے میں میرے مددگار موجود نہیں ہیں۔

اباجان! آج ساحری اور اس کا بچھڑا لوگوں کے مقتدا بن چکے ہیں اور لوگوں نے

ہارون محمدیؑ حضرت علیؑ سے منہ موڑ لیا ہے۔

اباجان! میں کس کس مصائب کا تذکرہ کروں کیا میں اس تازیانی کی شکایت کروں کہ جس کا دردِ عالم مجھے بھر محسوس ہوتا رہے گا۔

یا میں اپنے والد کی جدائی اور غم پر گریہ کروں یا اپنے شوہر کے غصب شدہ حق کو روؤں، یا میں اپنی پسلیوں کے ٹوٹنے کا غم کروں یا اپنے سقط شدہ بچے کے غم پر گریہ کروں۔

یا اپنے والد کی میراث و عطیات پر غاصبانہ قبضہ کا شکوہ کروں یا اس بات کی شکایت کروں کہ لوگوں نے مجھے جانتے ہوئے بھی میرے حق کا انکار کر دیا۔

اباجان! ان لوگوں نے آپ کے دو تیسوں حسن و حسین پر ظلم کیا۔ میں نے ان سے اپنا حق صب کیا لیکن ان لوگوں نے مجھے میرے حق سے محروم کر دیا۔

واقعہ بیعت مسعودی کی زبانی

مشہور مورخ و دانشمند مسعودی (علی بن حسین التوفیٰ ۹۵۶ھ) اپنی کتاب اثبات الوصیۃ

میں بیان کرتے ہیں:

رسولِ خدا کی وفات کے وقت حضرت علیؑ کی عمر پینتیس سال کی تھی۔ آپ امرِ خداوندی کے تحت زمامِ رہبری تھامنے کے لئے اٹھے۔ مومنین نے آپ کی اطاعت کی اور منافقین نے آپ کی مخالفت کی۔ اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک شخص کو بطورِ خلیفہ منتخب کر لیا اور جسے خدا و رسولؐ نے متعین کیا تھا اس کی مخالفت کی۔

روایت میں ہے کہ رسولِ اکرمؐ کی رحلت کے تھوڑے دیر بعد ہی رسولِ خدا کے چچا عباسؓ علیؑ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دراز کریں میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ امیر المؤمنینؑ نے فرمایا: کیا میرے علاوہ اس منصب کا کوئی اور بھی خواہاں ہے اور ہمارے علاوہ اس عہدہ کو سنبھالنے کی صلاحیت کس میں ہے؟

اس دوران زبیر اور ابوسفیان بھی بیعت کے لئے آئے لیکن حضرت علیؑ نے انکار کر دیا

(کیونکہ ابھی تک رسول خدا کی تجسیم و تکفین کے مراحل باقی تھے)۔

انصار و مہاجرین میں اختلاف پیدا ہو گیا اور انصار نے ”منا امیر ومنکم امیر“ ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے ہونا چاہنے کا نظریہ پیش کیا۔ جس کے جواب میں مہاجرین نے کہا کہ رسول خدا کا فرمان ہے: ”الخلافة فی القریش“ خلافت قریش میں ہوگی۔

آخر کار انصار نے مہاجرین کے سامنے سر جھکا دیا اور مہاجرین نے انصار کے بزرگ سعد بن عبادہ کو ٹھوکریں ماریں اور اسے پاؤں سے کچلنے کی جسارت کی۔ عمر بن خطاب نے ابوبکر کی بیعت کی۔ پھر عرب کے صحرا نشینوں اور مؤمنانہ القلوب جو کہ تازہ تازہ مدینہ آئے ہوئے تھے، نے ابوبکر کی بیعت کی۔

جب علیؑ تجسیم و تکفین کے مراحل سے فارغ ہوئے تو انہیں اس حالت کا علم ہوا تو آپ نے بنی ہاشم اور وہاں پر موجود صحابہ مثلاً سلمان، مقداد، عمار، ابوذر، حذیفہ و ابی بن کعب کی طرح سے جنازہ رسولؐ میں شامل چالیس صحابہ سے خطاب فرمایا اور آپ نے خطبہ میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اُر امامت قریش کا حق ہے تو میں قریش میں سے اس کا سب سے زیادہ حق دار ہوں اور اُر امامت کے لئے قریش کی شرط نہیں ہے تو انصار اپنے دعویٰ پر قائم ہیں۔

حضرت علیؑ نے جنگ نہ کر کے پانچ انبیاءؑ کی پیروی کی

اس خطبہ کے بعد حضرت علیؑ اپنے گھر چلے گئے اور لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ بعد میں ایک آپ نے اپنے پیروؤں سے ایک خطبہ میں (اپنی خاموشی اور جنگ نہ کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے) فرمایا تھا:

”میں نے جنگ نہ کر کے پانچ انبیاءؑ کی پیروی کی ہے:

۱۔ میں نے جنگ نہ کر کے حضرت نوحؑ کی پیروی کی کیونکہ انہوں نے بھی خداوند عالم

سے درخواست کرتے ہوئے کہا تھا: رب انی مغلوب فانصبر: (سورۃ قمر آیت ۱۰) اے پروردگار! بے شک میں مغلوب ہوں۔ ان سے تو ہی میرا انتقام لے۔

۲۔ میں نے حضرت ابراہیمؑ کی پیروی کی کیونکہ انہوں نے اپنی بت پرست قوم سے کہا تھا: واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ۔ (سورۃ مریم: آیت ۲۸) میں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے کنارہ کشی کر کے جا رہا ہوں جنہیں تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو۔

۳۔ میں نے حضرت لوطؑ کی پیروی کی انہوں نے اپنی بد عمل قوم سے فرمایا تھا: لو ان لی بکم قوۃ او اوی الی رکن شدید۔ (سورۃ ہود: آیت ۸۰) اے کاش! مجھے تمہارے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ کی پناہ لے سکتا۔

۴۔ میں نے حضرت موسیٰؑ کی پیروی کی کیونکہ انہوں نے فرعون اور آل فرعون سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا: ففرت منکم لما خفتکم۔ (سورۃ اشعراء: آیت ۲۱) جب میں نے تم سے خطرہ محسوس کیا تو میں تم سے بھاگ کر چلا گیا۔

۵۔ میں نے حضرت موسیٰؑ کے بھائی حضرت ہارونؑ کی پیروی کی (کیونکہ انہوں نے بھی سامری اور اس کے ساتھیوں سے جنگ نہیں کی تھی اور جب حضرت موسیٰؑ نے ان سے جنگ نہ کرنے کی وجہ پوچھی) تو انہوں نے کہا تھا: ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی۔ (سورۃ الاعراف: آیت ۱۵۰) قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔

پھر آپ قرآن مجید کی جمع و ترتیب میں مصروف ہو گئے اور قرآن مجید کو جمع کرنے کے بعد اس کے نسخہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اور اس پر مہر لگا کر لوگوں کے پاس سے کر آنے اور فرمایا: اے لوگو! یہ اللہ کی کتاب ہے میں نے رسول خداؐ کے فرمان اور وصیت کے مطابق اس کو ترتیب نزول کے مطابق جمع کیا ہے۔

حاضرین میں سے ایک نے کہا: آپ قرآن ہمارے پاس رہنے دیں اور خود تشریف

لے جائیں۔

آپ نے فرمایا: رسول خدا نے تم سے فرمایا تھا: ”میں تمہارے درمیان دو برس قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور وہ اللہ کی کتاب اور میری عترت اہلبیت ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آجائیں لہذا اگر تم پیغمبر خدا کے اس فرمان کو تسلیم کرتے ہو تو مجھ سے صرف قرآن ہی نہ لو بلکہ مجھے بھی قرآن کے ساتھ قبول کرو تا کہ میں قرآن کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کر سکوں۔

آپ کا یہ استدلال سن کر لوگوں نے کہا: ہمیں تمہاری اور تمہارے جمع کردہ قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس قرآن کو اٹھالیں اور اسے اپنے پاس رکھیں اور اس سے جدائی اختیار نہ کریں۔

حضرت علیؑ یہ جواب سن کر اپنے گھر واپس آ گئے اور آپ نے خانہ نشینی اختیار کرنے اور آپ کے شیعوں نے بھی خانہ نشینی اختیار کر لی۔ کیونکہ رسول خداؐ نے انہیں ایسا کرنے کی وصیت فرمائی تھی۔

آپ کی خانہ نشینی کے باوجود حریف پھر بھی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے آپ کے بیت الشرف پر یورش کی۔ آپ کے گھر کے دروازے کو نذر آتش کیا گیا اور حضرت کو مجبور کر کے مسجد میں لایا گیا۔ اس بنگامہ داروگیر میں فاطمہ زہراؑ اور دیوار کے درمیان تھیں کہ ان کے بچے کا اسقاط کر دیا گیا جس کا نام محسن رکھا گیا تھا۔

مسجد میں پہنچ کر حضرت علیؑ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا آپ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اہل حکومت نے کہا کہ آپ نے اگر بیعت نہ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔

آپ نے فرمایا: اگر تم نے مجھے قتل کیا تو تم ایک خدا کے بندے اور رسول خدا کے بھائی کے قاتل قرار پاؤ گے۔ لوگوں نے آپ کے ہاتھ کو کھولنا چاہا مگر آپ نے منٹھی بند کرنے اور جب کسی طرح آپ نے منٹھی نہ کھولی تو لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ کو آگے بڑھا کر آپ کے ہاتھ پر مل دیا۔

دو معجزات

مسعودی اپنے سلسلہ تحریر کو جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں

پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت علیؑ نے اپنے سیاسی حریفوں میں سے ایک (ابوبکر) سے اسے اور اسے خوف خدا دلایا اور اسے خدائی واقعات و ایام یاد دلوائے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا: کیا تو چاہتا ہے کہ میں پیغمبر خدا سے تیری ملاقات کرادوں تاکہ وہ تجھے امر و نہی فرمائیں۔ اس نے کہا: جی ہاں۔

پھر حضرت علیؑ اسے لے کر مسجد قبا گئے اور اسے دکھایا کہ وہ دیکھو رسول خداؐ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔

رسول خداؐ نے اس سے فرمایا: مجھ سے وعدہ کر کہ تو اقتدار علیؑ کے حوالے کر دے گا کیونکہ علیؑ ہی امیر المؤمنین ہے۔

رسول خداؐ کی زبانی یہ فرمان سن کر وہ شخص حضرت علیؑ کے ساتھ واپس آیا اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ حکومت علیؑ کے حوالے کر دے مگر اس کے ساتھی نے اسے ایسا نہ کرنے دیا اور اس سے کہا کہ یہ حکم کھلا جادو ہے اور بنی ہاشم کا جادو معروف ہے۔ کیا تجھے وہ موقع بھول گیا ہے جب میں اور تو ابن ابی کبشہ (پیغمبر اسلامؐ) کے پاس بیٹھے تھے کہ انہیں رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سامنے دو درخت کھڑے تھے جو کہ ایک دوسرے سے دور تھے۔ اس نے ان میں سے ایک درخت کو اشارہ کیا تو وہ درخت زمین کو چیرتا ہو دوسرے درخت کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے ان میں چھپ کر رفع حاجت کی۔ اور جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی تو انہوں نے اس درخت کو حکم دیا تھا اور حکم ملتے ہی وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا تھا۔

اپنے ساتھی کی زبانی یہ معجزہ سن کر پہلے نے اس سے کہا تو نے مجھے یہ واقعہ یاد دیا تو اس سے مجھے دوسرا واقعہ یاد آ گیا اور وہ یہ تھا کہ میں اور پیغمبرؐ دونوں ہجرت کے وقت غار (ثور)

میں بیٹھے تھے انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا پھر پاؤں سے اشارہ کیا (کہ سامنے دیکھ) میں نے جیسے بن دیکھا تو مجھے حضرت بن ابی طالب اپنے ساتھیوں سمیت سمندر میں کشتی رانی کرتے ہوئے دکھائی دیے۔

ان معجزات کو جادو کہہ کر انہوں نے حکومت واپس کرنے کے ارادے کو ترک کر دیا۔ پھر انہوں نے حضرت علیؑ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور انہوں نے یہ کام خالد بن ولید کے سپرد کر دیا۔

اسماء بنت عمیسؓ کو اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی کینز سے کہا کہ تم علیؑ کے گھر چلی جاؤ اور وہاں کھڑی ہو کر یہ آیت پڑھو: ان الملا یا تمرؤن ان بقتلوک فاخرج انی لک من النا صحین۔ (سورۃ القصص: آیت ۲۰) حکمران آپ کو قتل کرنے کا مشورہ بنا رہے ہیں آپ یہاں سے نکل جائیں میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ جب حضرت علیؑ نے نینز کی زبانی یہ آیت سنی تو آپ نے فرمایا:

اپنی مالک سے کہتا کہ اللہ ان کا ارادہ پورا نہ ہونے دے گا۔

منصوبہ بنایا گیا تھا کہ جیسے ہی نماز مکمل ہو جائے تو خالد تلوار سے حضرت علیؑ کا کام تمام کر دے گا۔

چنانچہ خالد نے اپنی تلوار کو اپنے لباس میں چھپایا۔ ادھر نماز شروع ہو گئی اور برسر اقتدار فرد نے دل میں سوچا کہ اگر خالد نے یہ کام کیا تو اس سے کوئی بڑا فساد رونما ہو سکتا ہے کیونکہ اسے حضرت علیؑ کی شجاعت و دلیری کا اچھی طرح سے علم تھا۔ اسی لئے اسے سلام پھیرنے کی جرأت نہ ہوئی اور لوگوں نے سمجھا کہ وہ نماز میں بھول گیا ہے۔ آخر کار اس نے آخری سلام سے پہلے یہ الفاظ کہے لا تفعل خالد ما امرتک۔ خالد میں نے تجھے جو حکم دیا تھا (اس پر عمل نہ کرنا پھر اس نے آخری سلام پڑھ کر نماز مکمل کی)۔

قصہ فدک

علامہ ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبری التوفی ۵۸۸ھ نے کتاب الاحتجاج اور علی اور بن ابراہیم قمی نے امام جعفر صادق سے نقل کیا:

جب حضرت ابوبکر کی حکومت مستحکم ہو گئی اور مہاجرین و انصار پر ان کا اقتدار مکمل ہو گیا تو انہوں نے ملازمین کو فدک روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ فاطمہ زہرا کے نمائندہ کو سرزمین فدک سے نکال دیں۔ چنانچہ ملازمین نے ان کے حکم پر پورا پورا عمل کیا۔
مسئلہ فدک کو سمجھنے کے لئے درج ذیل مطالب پر توجہ فرمائیں۔

مطالبہ فدک اور گواہی

جب حکومت کے عمال نے بی بی کے نمائندہ کو فدک سے بے دخل کر کے خود قبضہ کر لیا تو حضرت فاطمہ زہرا، ابوبکر کے پاس گئیں اور فرمایا: تو نے مجھے اس جاگیر سے کیوں محروم

۱۔ فدک ایک زرخیز وادی کا نام ہے جو کہ خیبر کے قریب واقع ہے۔ یہ قریہ مدینہ سے ایک سو چالیس کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے جس میں کثیر پانی اور بہت سے نخلستان تھے۔ ہجرت نبوی کے ساتویں برس خیبر فتح ہو تو فدک کے یہودیوں نے رعب و خوف نے تحت کسی جنگ و جدال کے بغیر فدک کا پورا قریہ آنحضرت کے سپرد کر دیا اور یوں یہ علاقہ رسول خدا کی ملکیت قرار پایا۔ جب وات ذالقریبی حقه (یعنی اسرائیل آیت ۲۶) کی آیت مجیدہ نازل ہوئی تو آنحضرت نے فدک کی تمام جاگیر اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو بیہ کر دی۔

میزان الاعتدال، جلد دوم، ص ۲۸۸۔ کنز العمال، جلد دوم، ص ۱۵۸۔ مجمع البیان اور تفسیر درمنثور۔

کیا ہے جو کہ میرے والد نے مجھے عطا کی تھی اور تو نے میرے نمائندے کو وہاں سے کیوں بے دخل کیا اور تو مجھے میری میراث سے کیوں روک رہا ہے؟

ابوبکر نے کہا: آپ اپنے دعویٰ کے گواہ پیش کریں (کہ رسول خدا نے آپ کو فدک بہہ کیا تھا؟)

حضرت فاطمہؑ واپس آئیں اور ام ایمن (جو رسول خدا کے نزدیک ایک محترم خاتون تھیں) کو بطور گواہ پیش کیا۔

ام ایمن نے ابوبکر سے کہا: میں گواہی دینے سے پہلے تم سے ایک بات کی تصدیق کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔

تمہیں خدا کی قسم! کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا: ان ام ایمن امراة من اهل الجنة۔ ام ایمن جنتی خاتون ہے؟

ابوبکر نے کہا: جی ہاں! میں جانتا ہوں رسول خدا نے یہ کلمات فرمائے تھے۔

پھر ام ایمن نے کہا: میں گواہی دیتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ”وات دالقربی حقہ“ (رشتہ داروں کو ان کا حق دیں) کی آیت نازل کی تو آنحضرتؐ نے حکم الہی کے تحت اپنی بیٹی فاطمہؑ کو فدک بہہ کر دیا تھا۔

اس کے بعد حضرت علیؑ مسجد میں آئے اور انہوں نے بھی وہی گواہی دی جس کی بہہ سے بی بی کا دعویٰ ثابت ہو گیا تو برسر اقتدار شخصیت نے فدک کی واپسی کا قبوہ کھ دیا۔ تنے میں حضرت عمرؓ آگئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ قبوہ کیسا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یہ قبوہ میں نے فدک کی واپسی کے سلسلہ میں لکھ دیا ہے کیونکہ فاطمہ زہراؑ نے فدک کی ملکیت کے لئے ام ایمنؑ اور علیؑ کو بطور گواہ پیش کیا ہے۔

حضرت عمرؓ نے بی بی فاطمہؑ سے وہ تحریر لے کر نکڑے نکڑے کر دی اور کہا: فدک میں نے اور تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اوس بن حدثان اور عائشہ و حفصہ کی گواہی ہے کہ

رسول اللہ نے فرمایا تھا:

انا معاشر الایماء لانورث، ماترکناہ صدقۃ یعنی ہم سروسہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔

اس گواہی کے معاملے میں علیؑ، فاطمہ زہراؑ کا شوہر ہے اور یہ گواہی اس کے اپنے حق میں ہے (اس لئے قابل قبول نہیں) البتہ ام ایمنؓ ایک اچھی خاتون ہے مگر ہم صرف ایک عورت کی گواہی پر فدک واپس نہیں کر سکتے ماں اس کے ساتھ کوئی اور مرد گواہی دیتا تو ہم اس مسئلہ پر توجہ کرتے۔

چنانچہ حضرت فاطمہؑ سخت ناراض ہو کر شیخین کے پاس سے واپس آ گئیں۔

حضرت علیؑ کا استدلال

مطالبہ فدک کے ایک دن بعد حضرت علیؑ، ابوبکر کے پاس مسجد میں گئے آپ نے مہاجرین و انصار کو وہاں بڑی تعداد میں پایا۔ آپ نے ابوبکر سے کہا

تم نے فاطمہؑ کو اس میراث سے کیوں محروم کیا جو کہ ان کے والد کی طرف سے نہیں منتقل ہوئی تھی اور حضرت رسول اکرمؐ اپنی زندگی میں انہیں اس کا مالک بھی بنا گئے تھے۔

حضرت ابوبکر نے کہا فدک مالِ فے ہے اور تمام مسلمانوں کا مال ہے، اگر فاطمہؑ گواہ پیش کریں جو یہ گواہی دیں کہ رسول خداؐ نے انہیں یہ جائیداد کی تھی تو ہم اس جائیداد کو واپس کر دیں گے اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: ابوبکر! تم ہمارے متعلق اس قانون کے تحت فیصلہ نہیں کر رہے جو اللہ نے مسلمانوں کے متعلق مقرر کیا ہے۔

حضرت ابوبکر نے کہا: ایسا ہرگز نہیں ہے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: اچھا یہ بتاؤ کہ ایک چیز کسی مسلمان کے ہاتھ میں موجود ہو اور

اسے متعلق میں بالفرض یہ دعویٰ کروں کہ یہ چیز میری ہے۔ اب تم گواہ کس سے طلب کرو گے؟
حضرت ابو بکر نے کہا میں آپ سے ہی گواہ طلب کروں گا (کیونکہ آپ نے دعویٰ
کیا ہے)۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: تو پھر تم فاطمہ زہرا سے ملکیت فدک کے گواہ کیوں طلب
کر رہے ہو جب کہ فدک تو پہلے سے ہی ان کے تصرف میں موجود ہے اور اگر بالفرض یہ تمام
مسلمانوں کا مال ہے تو تمام مسلمانوں سے ان کے دعویٰ کے لئے گواہ طلب کرو فاطمہ سے تمہارا
گواہ طلب کرنا سرے سے ہی غلط ہے۔

حضرت علیؑ کا یہ استدلال سن کر حضرت ابو بکر خاموش ہوئے اور وئی بات تک نہ کی۔
حضرت عمر نے کہا: علیؑ! تم یہ باتیں رہنے دو۔ ہم تم سے دائل میں مقابلہ نہیں کر سکتے
اگر تم عادل گواہ پیش کر سکتے ہو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے ورنہ فدک تمام مسلمانوں کا مال
ہے۔ فاطمہ اور تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔

حضرت علیؑ نے حضرت ابو بکر کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: کیا تم نے قرآن
پڑھا ہے؟

حضرت ابو بکر نے کہا: جی ہاں۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: اچھا ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم
الرجس اهل البيت و یطہرکم تطہیرا (سورۃ احزاب: آیت ۳۳) اے اہل بیت! اللہ کا تو
بس یہی ارادہ ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی دے
جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے۔ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی ہے؟
حضرت ابو بکر نے کہا: یہ آیت تمہارے حق میں نازل ہوئی۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: (فرض کرو) اگر چند گواہ فاطمہ کے متعلق (نعوذ باللہ) غلط گواہی
دیں تو تم فاطمہ سے کیا سلوک کرو گے؟

حضرت ابو بکر نے کہا۔ اس صورت، میں میں اس پر بھی ایسی ہی حد شرعی جاری رکھوں
گا جیسا کہ دوسری عورتوں پر جاری کرتا ہوں۔

حضرت علی نے فرمایا: اگر تم نے ایسا کیا تو کافر قرار پاؤ گے۔

حضرت ابو بکر نے کہا: بھلا وہ کیسے؟

حضرت علی نے فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہؑ کی پاکیزگی کی گواہی
قرآن مجید میں دے دی ہے لہذا اگر تم نے خدا کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کو بنیاد بنا کر
انہیں غلط کار سمجھا تو تم نے گویا اللہ کے فرمان کو رد کر دیا۔ اور اب بھی تم نے صاحبِ تسمیر
(فاطمہؑ) کے مقابلے میں ”اوس بن حدثان“ جیسے ایک بدو کی گواہی کو ترجیح دی جو کہ اپنی ایڑیوں
پر پیشاب کرتا ہے اور اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ گروہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور ان کا
ترکہ صدقہ ہوتا تو تم نے اس کی گواہی قبول کر لی اور جس کی عصمت و طہارت کی گواہی خدا نے
قرآن میں دی ہے۔ تم نے اس کے دعویٰ کو ٹھکرا دیا ہے۔

(خوب سن لو) رسول خدا کا فرمان ہے: البینة علی من ادعی والیمین علی من

ادعی علیہ۔ یعنی ثبوت فراہم کرنا دعویٰ کے ذمہ ہے اور قسم مدعا علیہ کے ذمہ ہے۔

اس صورت میں تمہیں فاطمہؑ سے گواہ طلب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ فاطمہؑ

”صاحبِ ید“ اور متصرف ہے اور اگر تمہیں گواہ مانگنے ہوں تو ان سے مانگو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حق

فاطمہؑ سے چھین کر انہیں دے دیا جائے۔

حضرت علیؑ کے استدلال نے حاضرین کو متاثر کیا۔ لوگ ایک دوسرے کو ناراض

نگاہوں سے دیکھنے لگے اور ان کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ خدا

کی قسم علیؑ سچ کہہ رہے ہیں۔

بعد ازاں آپ اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت فاطمہؑ

زہراؑ اپنے والد کی قبر مطہر پر آئیں اور آپ نے اپنی مظلومیت کے اظہار کے لئے بہت سے شعر

پڑھے۔ جن کا مطلع یہ ہے۔

قد كان بعدك انباء و هبنة لو كنت شاهد هالم نكثرت الحطب

ابا جان! آپ کے بعد بہت سے ناخوشگوار واقعات نے جنم لیا۔ اگر آپ موجود ہوتے

تو یہ حوادث پیدا نہ ہوتے۔

قتل علیؑ کا منصوبہ

علامہ طبری درج بالا استدلال نقل کرنے کے بعد امام جعفر صادقؑ سے نقل کرتے

ہوئے کتاب الاحتجاج میں لکھتے ہیں۔

پھر ابو بکر مسجد سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ گھر پہنچ کر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو

اپنے گھر طلب کیا اور جب وہ ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا

تم نے دیکھا کہ آج علیؑ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خدا کی قسم اگر اس نے اپنی

روش جاری رکھی تو ہمارے معاملات کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اب سوچو ہمیں اس کے متعلق کیا

کرنا چاہئے۔

ساتھی نے مشورہ دیا: بہتر رائے یہ ہے کہ تم اس کے قتل کا حکم صادر کرو۔

اس نے کہا: اسے قتل کون کرے گا؟

ساتھی نے جواب دیا: اسے خالد بن ولید قتل کرے گا۔

پھر خالد بن ولید کو بلایا گیا اور جب وہ حاضر ہوا تو اس سے کہا گیا: ہم تجھ سے ایک

بڑا کام لینا چاہتے ہیں۔^۱

۱۔ خالد بن ولید بن مغیرہ مخزومی نے ہجرت کے پانچویں یا ساتویں سال عروا میں کے ہمراہ مدینہ آکر مسلم قبوں کیا تھا۔ وہ

ایک پردہ دار وریجہ کو فریاد کیا۔ فتح مکہ کے وقت سے سپہ اسلام کے سرداروں میں شمار کیا گیا تھا اس کی جنایت میں ایک رخصت

رسول خدا کے بعد مکہ بن ڈیرہ قتل ہے (جس کا تذکرہ گزرا چکا ہے) حضرت ابو بکر نے اسے حکم شام بنا دیا تھا اور حضرت عمر نے

سے دور حکومت میں اسے معزول کر دیا تھا۔ آنحضرتؐ سرزمین حرم میں دنیا سے رخصت ہوا۔ (اسد الغابہ جلد ۴) زمزم پبلشرز

اس نے کہا تم جو بھی چاہو میرے ذمہ کام لگاؤ اگرچہ تم علی ابن ابی طالب کے قتل کا بھی حکم کرو (تو میں حاضر ہوں)۔

انہوں نے کہا: ہمارا کام یہی ہے۔

خالد نے کہا جو کام بھی مجھے دو گے میں اسے پورا کروں گا، اسے کب قتل کروں؟
والی حکومت نے کہا: مسجد میں آنا اور نماز کے وقت علی کے پاس کھڑے ہو جانا میں جیسے ہی نماز تمام کروں اس کو قتل کرویتا۔

خالد نے کہا: ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔

جب یہ مشورے ہو رہے تھے تو اتفاق سے اسماء بنت عمیس نے یہ باتیں سنیں۔ وہ اس وقت حاکم کی زوجہ تھیں۔ انہوں نے اپنی کنیز سے کہا:

تو علی وبتول کے پاس چلی جا اور ان دونوں سے میرا سلام عرض کر اور علی کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کر:

ان الملا یا تمرؤن ان یقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین یعنی حکمران آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں آپ یہاں سے نکل جائیں۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ (سورہ القصص: آیت ۲۰)

کنیز نے اپنی مالکہ کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت علی نے کنیز سے فرمایا کہ اپنی مالکہ سے جا کر کہہ دے کہ اللہ ان کے ارادوں کے درمیان حائل ہو جائے گا۔

پھر آپ اٹھے اور مسجد میں تشریف لائے۔ خالد بن ولید نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے پاس تلوار موجود تھی۔ جب ابو بکر شہد پر پہنچے تو انہیں اپنے کہنے پر ندامت ہوئی اور کسی بڑے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہوا کیونکہ وہ حضرت علی کی جرأت و دیرمی سے بخوبی آشنا تھے۔ وہ تشہد میں مسلسل اسی چیز کے متعلق غور و فکر کرتے رہے اور انہیں سلام پھیرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ نماز میں بھول چکے ہیں۔ پھر اپنا تک وہ خالد بن

طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا: میں نے تجھے جو حکم دیا تھا اس پر عمل نہ کرنا۔

پھر انہوں نے سلام پڑھا کر نماز مکمل کی۔ امیر المؤمنین نے خالد سے فرمایا: اس نے تجھے کیا حکم دیا تھا؟

خالد نے کہا: اس نے مجھے تمہارے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔

حضرت علیؑ نے کہا: تو کیا تو مجھے قتل کر دیتا؟

خالد نے کہا: جی ہاں! خدا کی قسم اگر وہ سلام سے قبل مجھے اس سے منع نہ کرتے تو میں اب تک تمہیں قتل کر چکا ہوتا۔

حضرت علیؑ نے خالد کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ دیا۔ لوگ ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ خالد کو چھڑوائیں۔

حضرت عمرؓ چیخ چیخ کر کہنے لگے: رب کعبہ کی قسم! یہ اسے قتل کر دے گا۔

اتنے میں بہت سے لوگوں نے بڑھ کر حضرت علیؑ کو رسول خداؐ کے حق کا واسطہ دے کر اسے چھوڑنے کی درخواست کی۔ اس کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دیا۔

ابو ذر غفاریؓ سے منقول ہے کہ حضرت علیؑ نے اس موقع پر خالد کی گردن پر اپنی دو انگلیوں یعنی انکشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اس قدر زور دیا کہ خالد کی چینیں نکل گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے اور ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ شدت خوف سے خالد کا ہاس نخس ہو گیا وہ زمین پر ایڑیاں مارنے لگا اور اس کی آواز تک بند ہو گئی۔

حضرت ابو بکرؓ نے اپنے ساتھی سے کہا: یہ تیرے اس غلط مشورے کا نتیجہ ہے جو تو نے مجھے دیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ علیؑ نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔

جو شخص بھی خالد کو چھڑانے کیلئے حضرت علیؑ کے پاس جاتا تو علیؑ کی تیز نگاہوں کی تاب نہ لاکر واپس آجاتا۔ آخر کار حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو رسول خداؐ کے چچا عباسؓ کے پاس بھیج کر ان کو خطب کیا۔ عباسؓ آئے اور حضرت علیؑ سے سفارش کی، قسم دی اور کہا: آپ کو اس

صاحب قبر اور اس قبر کی قسم، آپ کو اپنی اولاد کی قسم ان کی والدہ کی قسم! آپ خالد کو چھوڑ دیں۔
یہ سن کر حضرت علیؑ نے خالد کو چھوڑ دیا۔

عباسؑ نے آگے بڑھ کر حضرت علیؑ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔

ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ پھر حضرت علیؑ نے عمر کو گریبان سے پکڑ کر کہا:
ضحیٰ ک حبیبہ کے فرزند! اگر خدا کا فرمان اور رسول خدا کا عہد نہ ہوتا تو تجھے پتہ چل جاتا کہ ہم
میں سے کزور کون ہے اور طاقتور کون ہے۔

حاضرین معاملہ کو رفع دفع کرانے کے لئے آگے بڑھے تاکہ عمر کو علیؑ کے ہاتھوں سے
رہائی دلا سکیں۔ اس وقت عباس ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا:

خدا کی قسم! اگر تم نے علیؑ کو قتل کیا تو ہم قبیلہ تم کے ایک فرد کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔

ابن ابی الحدید کے استاد کا جواب

علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں ابن ابی الحدید (مشہور سنی عالم) کے حوالہ سے نقل کیا
ہے کہ اس نے کہا:

میں نے اپنے استاد ابو جعفر نقیب سے پوچھا:

مجھے تو علیؑ کے افعال سے تعجب ہوتا ہے کہ رسول خدا کے بعد تیس سال کے طوراً
عرصہ تک وہ دشمنوں کے شر سے کیونکہ محفوظ رہ گئے اور انکے دشمن کسی بھی حیلہ و بہانہ سے علیؑ کو
قتل نہ کر سکے جب کہ وہ سب کے سب علیؑ کے ہاتھوں دکھ اٹھائے ہوئے تھے۔؟

استاد نے جواب دیتے ہوئے کہا: ”اگر اس دوران علیؑ صبر و تحمل اور تواضع اور گوشہ
نشینی کی پالیسی اختیار نہ کرتے تو ان کے دشمن انہیں ضرور قتل کر دیتے۔ لیکن اس تمام عرصہ میں علیؑ
نے اپنی سابقہ روش کو بدل کر عبادت، نماز اور قرأت قرآن کی مصروفیت اختیار کر لی تھی، انہوں
نے شمشیر کو فراموش کر دیا تھا اور وہ مناسب موقع کی تاک میں رہنے لگے تھے۔ علیؑ کبھی

صحراؤں کی سیر کو نکل جاتے اور کبھی پہاڑوں کے دامن میں چلے جاتے تھے انہوں نے خلفاء کی اطاعت قبول کرتی تھی چنانچہ علی کی اس روش نے دشمنوں سے محفوظ رہنے میں مدد دی اور مخالفین نے انہیں فراموش کر دیا۔

اس کے ساتھ یہ نکتہ بھی ذہن نشین رہنا چاہئے کہ خلفاء کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کسی کی جرات نہیں تھی کہ وہ علی کو قتل کرتا۔ خلفاء کے پاس علی کو قتل کرنے کا کوئی بہانہ اور جواز موجود نہ تھا۔ اسی لئے اس تمام عرصہ میں علی محفوظ رہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مخالفین ان کو ضرور قتل کر دیتے۔

علاوہ ازیں اللہ کی طرف سے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور مقرر شدہ وقت قدرت کی طرف سے ہر شخص کے لئے مضبوط زنجیر اور محکم قلعہ ہے جس میں دراڑیں پیدا کرنا انسانی بس سے باہر ہے چنانچہ جب تک کسی کا وقت مقرر نہ آئے اس وقت تک وہ مرنے نہیں سکتا۔

اس کے بعد میں (ابن ابی الحدید) نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کو علی کے قتل کا حکم دیا تھا؟

ابو جعفر نقیب نے کہا: اولاد علیؑ میں سے ایک گروہ نے اس کی روایت کی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ”زفر بن ہذیل“ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا:

ابو حنیفہ کا قول ہے کہ نمازی سلام سے پہلے عام گفتگو کر کے یا فعل کثیر ادا کر کے اگر نماز سے فارغ ہونا چاہے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ آپ بتائیں کہ ابو حنیفہ کے اس فتویٰ کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اور کیا ان کا مذکورہ فتویٰ صحیح ہے؟

زفر نے جواب میں کہا جی ہاں! ایسا کرنا بالکل جائز ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر نے حالت تشہد میں سلام سے پہلے کلام کیا تھا۔

سائل نے زفر سے پوچھا: حضرت ابوبکر نے سلام سے پہلے کیا کہا تھا؟

زفر نے کہا: تجھ جیسے شخص کے لئے اس طرح کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔

سائل کے بار بار اصرار کرنے پر زفر نے حاضرین سے کہا: اس شخص کو یہاں سے نکال دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق ”ابوالخطاب“ کے اصحاب سے ہے۔

میں ”ابن ابی الحدید“ نے اپنے استاد سے پوچھا۔

اس روایت کے متعلق آپ کا ذاتی نظریہ کیا ہے۔ کیا حضرت ابو بکر نے خالد کو یہ حکم

دیا تھا یا نہیں؟

نقیب نے کہا: میں ایسی بات کو بعید سمجھتا ہوں البتہ فرقہ امامیہ نے اس کی روایت کی ہے۔

حضرت علیؑ کا تحریری خط

علامہ طبری کتاب الاحتجاج (ج ۱- ص ۱۴۷) میں لکھتے ہیں:

جب حضرت علیؑ کو معلوم ہوا کہ حاکم نے حضرت فاطمہ زہراؑ کے نمائندہ کو فدک سے

بے دخل کر کے اس کی جگہ اپنا نمائندہ بھیج دیا ہے اور فدک پر قبضہ کر لیا ہے، تو آپ نے انہیں

یہ خط لکھا

شقوا متلاطمات امواج الفتن بحیازیم سفن النجاة، وخطوا تیجان اهل

الفجر بجمع اهل الغدر، واستضاوا بنور الانوار، واقتسموا موارث الطاهرات

الابرار، واحتقبوا ثقل الاوزار، بغصهم نحلة النبی المختار، فکانی بکم تترددون فی

العمی کما یتردد البعیر فی الطاحونة اما واللہ لو اذن لی بمالیس لکم به علم

لحصدت رؤوسکم عن اجسادکم کحب الحصيد، بقواضب من حديد ولقعلعت

من جماجم شجعانکم ما اقرح به اما فکم وواحش به محالکم فانی مذعرفت. مردی

العساکر ومصی الححافل ومبید حصرانکم و محمد صو ضانکم وجرار الدوارین

اذا اتم فی بیوتکم معتکفون وانی لصاحبکم بالامس. لعمر ابی و امی لن تحبوا ان

بكون فينا الخلافة والسوة وانتم تذكرون احقاد بدر وثارات احد.

اما واللّه لو قلت ما سبق من اللّٰه فيكم، لقد اخلت اضلاعكم في اجوافكم، لتد اخل اسنان دوارة الرحي، فان نطقت يقولون حسدا وان سكت فيقال ابن ابي طالب جزع من الموت. هيهات هيهات!! الساعة يقال لي هذا!! وانا المميت المائت وخواص المنايا في جوف ليل حالك، حامل السيفين الثقيلين والرمحين الطويلين ومنكس الرايات في غطامط الغمرات ومفرج الكربات عن وجه خير البريات.

اليسنوا فواللّٰه لا بن ابي طالب انس بالموت من الطفل محالب امه. هبتكم الهوايل لوبحت بما انزل اللّٰه سبحانه في كتابه فيكم لا اضطربتم اضطراب الارشية في الطوى البعيدة ولخرجتم من بيوتكم هارين وعلى وجوهكم هانمين ولكنى اهون وجدى حتى القى ربي بيد جذاء صفراء من لذاتكم خلوا من طحناتكم فما مثل دياكم عندي الا كمثل غيم علا فاستعلى ثم استغلظ فاستوى ثم تمزق فانجلى.

رويدا فعن قليل ينجلي لكم القسطل وتجنون ثمر فعلكم مرا وتحصدون عرس ايديكم ذعاقا ممقرا وسماقاتلا وكفى باللّٰه حكيمًا وبرسول اللّٰه خصيما وبالقيامة موقفا فلا ابعده اللّٰه فيها سواكم ولا انعس فيها غيركم والسلام على من اتبع الهدى.

فنته فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر خود کو نکال لے جاؤ۔ تمام اہل ندر سمیت فخر و مہابات کے تاج اتار ڈالو، مہد فیض سے اکتساب نور کرو، اور صرف اسی طرف متوجہ ہو جاؤ، پاک نفوس کی میراث کو ان کی طرف لوٹا دو، جبل و غلغلہ و حیرت کے احاطہ سے باہر نکلو اور نبی مختار کی عطا کردہ جائیداد اس کے اصل وارثوں تک پہنچاؤ۔

اور گویا میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم کسی بند آنکھ اونٹ کی طرح سے

چکی کے رَدھوم رہے ہو۔

خدا کی قسم! اگر مجھے اجازت مل جاتی جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو میں تمہارے سروں کی کھیتی کو اس طرح سے کاٹ دیتا جس طرح سے تیز درختی سے فصل کاٹی جاتی ہے اور میں تمہارے تمام بہادروں کی کھوپڑیوں کو اڑا کر تمہارے آنکھوں کو زخمی اور تمہارے گھروں کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا۔

تم مجھے بخوبی جانتے ہو کہ میں وہی شخص ہوں جس نے انبوہ کثیر رکھنے والی جمیعتوں کو پراگندہ کیا اور جس نے لشکروں و نابود کیا۔ میں تمہارے تمام تر انتظام کو برہم کر دیتا اور تمہارے شور و غوغا کو بجھا کر دم لیتا۔ میں ہمیشہ جنگ کے میدانوں میں مشغول نبرد رہنے والا رہا ہوں جب کہ تم اپنے گھروں میں چھپے رہتے تھے۔ میں وہی ہوں جو کل تک پیغمبر اکرمؐ کی خدمت میں رہا اور تم میرے اہمال و کردار سے واقف ہو اور میرے مقام و منصب کی تصدیق کرتے رہے۔

مجھے اپنے ماں باپ کی زندگی کی قسم! تم لوگ ہمارے گھر میں نبوت و خدافت کے اجتماع کو قطعاً پسند نہیں کرتے اور تم نے ابھی تک بدر واحد کے کینوں کو فراموش نہیں کیا ہے۔

خدا کی قسم! جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے لئے مقدر ہو چکا ہے اگر میں وہ بین کردوں تو شدت اضطراب کی وجہ سے تمہاری پیلیاں چلکی کے دانتوں کی طرح سے تمہارے جسموں میں داخل ہو جائیں گی۔

حالت یہ ہے کہ اگر میں کچھ بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی حسد کر رہا ہے اور اگر خاموش ہوتا ہوں تو کہا جاتا ہے کہ ابوطالب کا بیٹا موت سے ڈر گیا ہے۔ افسوس میرے لئے آج یہ بات کہی جائے جب کہ میں تو مارنے والا رہا ہوں اور شب تاریک میں موت کے سمندر میں کودنے والا رہا ہوں۔ میں ۱۰ وزنی تلواریں اور دو طویل نیزے اٹھانے والا ہوں اور ہر چیز موجود میں پرچم باطل سرنگوں کرنے والا ہوں اور افضل الخلاق (محمد مصطفیٰ) کے چہرے سے تنکایف ہٹانے والا ہوں۔

ابو بکر کا بیاموت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے متعلق نازل کیا ہے اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو تم اس صریح بیچ و تاب کھانے لگو گے جس طرح ہرے کونوں میں رسیاں لڑتی اور تھر تھراتی ہیں اور اس کی وجہ سے افتادہ و سرگرداں ہو کر بیابانوں میں نکل جاؤ گے لیکن اس کے باوجود میں خدا کے حضور پیش ہونے تک اپنے غم کو ہلکا رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اپنے خدا کے سامنے جاؤں تو لذات دنیا سے تہی ہاتھوں اور تارکیوں سے خالی اور پاک دل لے کر اس کے حضور حاضر ہو جاؤں۔

تم یہ جان لو کہ تمہاری دنیا کی حقیقت اس امر کی سی ہے جو ہوا میں بند ہو۔ اور لوگوں کے سروں پر گاڑھا اور ضخیم ہو جانے پھر وہی بال پراگندہ اور نابود ہو جائے۔ غنیمت یہ تمہاری آنکھوں سے یہ غبار ہٹ جائے گا اور تم اپنے برے اعمال کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تم نے جو تلخ بیج کاشت کیا ہے اسے مہلک زہر کی صورت میں کاٹو گے اور جان و اللہ بہترین حاکم ہے اور رسول خدا قیامت کے دن تم سے جھگڑنے والے ہوں گے اور قیامت کا دن ہمارے وعدہ کا دن ہے۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کرے اور تمہیں ہلاکت و عذاب میں دوچار کرے۔ راہ ہدایت کے راہیوں پر سلام ہو۔

حضرت ابو بکر کی پریشانی

جب امیر المؤمنین کا یہ تہدید کی خط حضرت ابو بکر کو ملا وہ بہت پریشان اور وحشت زدہ ہو گئے اور کہا: حق کی اس جرأت و جسارت پر مجھے تعجب ہے۔

پھر انہوں نے مسجد میں بیٹھے ہوئے مہاجرین و انصار سے کہا: اگر وہ مہاجرین و انصار کیا میں نے یہ مسئلہ فدک کے متعلق تم سے مشورہ نہیں کیا تھا؟ اور کیا تم لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبیاً کوئی میراث نہیں چھوڑتے؟ اور کیا تم نے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ فدک کی تمام تر آمدنی سرحدوں کی حفاظت اور مسلمانوں کے عمومی فوائد پر خرچ ہوتی چاہئے؟ میں نے تمہاری

رے قبول کی تھی لیکن علی ابن ابی طالب اس رائے کا مخالف ہے اور اب وہ رعد و برق کی طرح
 سے پہنسا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر میری خلافت کا مخالف ہے۔ جب کہ
 میں نے تو اقتدار چھوڑنے کی بھی پیشکش کی تھی لیکن تم نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور
 میں اس سے جنگ و جدال سے پرہیز کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت عمر کی طرف سے اظہارِ ملامت

حضرت ابو بکرؓ نے یہ نرم گفتگو سن کر حضرت عمرؓ سے ناراض ہوئے اور کہا:

اس کے علاوہ تم کوئی اور بات کہی نہیں سکتے؟ تم اس کے فرزند ہو جس نے کبھی بھی
 جنسوں میں پیش قدمی نہیں کی تھی اور سختی اور قہر کے دور میں کبھی سخاوت اور عطا نہیں کرتے تھے
 بنی نعلہ! تم کتنے بزدل اور کمزور ہو اور تمہارے پاس کتنا ہی چھوٹا دل ہے۔

میں نے صاف شفاف پانی تمہارے قبضہ میں دیا ہے لیکن تم اس سے استفادہ پر آمادہ ہی
 نہیں ہو اور تم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم اس پانی سے اپنی پیاس بجھا کر سیراب ہو سکو۔ میں نے
 سرش افراد کی گردنوں کو تمہارے سامنے خم کیا اور روشن فکر اور تجربہ کار لوگوں کو تمہارے ارد گرد جمع کیا۔
 یاد رکھو! اگر میری محنت اور میرے اقدامات نہ ہوتے تو تمہیں کبھی بھی یہ کامیابی
 حاصل نہیں ہو سکتی تھی اور علی بن ابی طالب تمہاری ہڈیوں کا چوراہنا چکا ہوتا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ
 اللہ نے میرے ذریعہ سے تمہیں اتنے بڑے منصب پر فائز کیا۔ اور اس منبر رسول خدا اور ان کی
 جگہ پر بیٹھنے والے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

تمہیں یاد رکھنا چاہئے کہ علی بن ابی طالب ایک سخت پتھر ہے اسے جب تک توڑا نہ
 جائے اس سے پانی برآمد نہیں کیا جاسکتا اور وہ ایسا خطرناک سانپ (نوعہ باللہ) ہے جو منتر کے
 بغیر قبضہ میں نہیں آسکتا وہ ایسا تلخ درخت ہے اسے باہر سے جتنا بھی شہد لگا دیا جائے پھر بھی وہ
 میٹھا پھل نہیں دیتا۔ اس نے قریش کے داہروں کو قتل کیا ہے اور اس نے قریش کے سرکشوں کی

ہونی ہے۔ مرتد نہیں آسکے باوجود اس سے ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسی دہشتوں سے مرلوب ہونے اور اسکی طرح چمک سے خوف زدہ ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ وہ تمہارے لئے کسی پریشانی کا باعث بنے میں اس کا کام اردوں گا اور اس کے راستے کی دیوار بن جاؤں گا۔

کامیابی کے تین عناصر

حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا اپنی یہ ایف و ارف اپنے ہی پاس رکھو۔ خدا کی قسم! اعلیٰ ہمیں قتل کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے دائیں ہاتھ کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں وہ اپنے بائیں ہاتھ سے ہمارا کام تمام کر سکتا ہے۔ البتہ ہماری کامیابی تین وجوہات میں۔

۱۔ عقی تھا ہے اس وقت اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔
۲۔ وہ وصیت رسول خدا کی وجہ سے پابند ہے اور وہ وصیت پیغمبر کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتا۔

۳۔ عرب کے تمام قبائل اپنے بزرگوں اور بھائیوں کے قتل کی وجہ سے عقی سے ناراض ہیں اور وہ اپنے دلوں میں عقی کے خلاف کینہ رکھتے ہیں۔ وہ فطری طور پر عقی سے دوستی نہ تعلقات استوار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اسباب درمیان میں نہ ہوتے تو علی امر خلافت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا اور ہماری مخالفت سے اس کا چہرہ بھی نہ بڑھتا۔

فرزند خطاب 'خوب اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ عقی نے جیسا کہ اپنے خط میں لکھا ہے وہ بالکل حقیقت ہے کیونکہ علی اس دنیا سے اپنے دل کو وابستہ نہیں رکھتا۔ اور اس کے برعکس ہم موت سے ہراساں ہیں اور وہ زندگی سے ریزاں ہے۔ بھلا ایسے شخص کو موت کا خوف کیونکر لاحق ہو سکتا ہے۔

خطبہ زہراؑ پہ ایک نظر

حضرت سیدہ کا خطبہ

احتجاج طبری میں مذکور ہے۔

عبداللہ بن حسن نے اپنے اسناد سے اپنے آباء سے روایت کی کہ جب اہل حکومت نے فدک غصب کر لیا اور بی بی کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے سر پر چادر سے پٹی باندھی، بڑی چادر اپنے جسم اطہر پہ ڈالی اور بنی ہاشم کی خواتین اور کنیتوں کے ہمراہ مسجد میں تشریف آئیں۔ آپ کی چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی اور آپ کے چلنے کا انداز رسول خداؐ سے ہو ہوا تھا۔ آپ چلتی ہوئی مسجد میں تشریف آئیں جہاں حضرت ابو بکرؓ بہت سے مہاجرین و انصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدہ کیلئے ایک پردہ لگا دیا گیا تھا اور آپ اس پردہ کے پیچھے تشریف آئیں۔

حاضرین کا گریہ

حضرت زہراؑ نے ایک دردناک آہ کی جس کی وجہ سے لوگوں کے رونے کی صدا نہیں بند ہوئیں اور بی بی کی ایک سرو آواز نے پوری مسجد کو مجلس سوگواروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ پھر آپ نے چھ دیہے کے لئے خاموش ہو گئیں۔ جب لوگوں کے رونے کی آوازیں ختم ہو گئیں تو آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا:

حمد و ثنائے پروردگار اور توحید رسالت کی گواہی

الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والثناء بما قدّم من عموم نعم
ابتداها و بوع الآء اسداها و سماه من اولها جم عن الاحصاء عددها و بأى عن
الجزء امدها و تفاوت عن الادراك امدها و مدبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها
و استحمد الى الحلائق باجزالها و ثنى بالنذب الى امثالها

واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمه جعل الاحلاص نديها
و ضمن القلوب موصولها و انار في التفكر معقولها الممتنع من الانصار رؤيته و من
الانس صفتها و من الاوهام كيقينه ابتدع الاشياء لامس شى كان قديها و استأها
بلاحتداء امثلة امتثلها. كونها بقدرته و دراهم بسنيتها من غير حاجه منه اى تكوينها
ولا فائدة له فى تصويرها الا بسببنا لحكمته و تنبيها على طاعته و اطهارا لقدرته تعبدا
لرئته و اعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصيته زيادة
لعباده من نعمته و حياشة لهم الى جنته

واشهد ان ابى محمدا عبده و رسوله اجتاز قبل ان ارسله و سماه قبل ان
اجتبه و اصطفاه قبل ان ابتعه

اذا الحلائق بالغيب مكنونه و بستر الاهاويل مصونة و بنهاية العدم مقرونة
علما من الله بمائل الامور احاطة بحوادث الدهور و معرفة بمواقع الامور ابتعته اليه
اتماما لامره و عزيمة على امضاء حكمه و انفاذ لمقادير حتمه فراى الامم فرقافى
اديانها. عكفا على ميرانها. عادة لاوثانها مكررة لله مع عرفانها فانار الله بسبى
محمد طمبها و كشف عن القلوب بهمها و جلى عن الابصار غمبها و قام فى الناس
بالهداه فانقدهم من العوابة و صرحهم من النعمانية و هداهم الى الدين القويم و دعاهم

الى الطريق المستقيم ثم قبضه الله اليه قبض راحة واختيار ورغبة واشار فمحمد (ص)
 من تعب هذه الدار في راحة، قد حفر بالملائكة الاسرار ورضوان الرب الغفار
 ومجودة الملك الجبار صلى الله على ابي بيه واميه وحيرته من الخلق وصفيه
 والسلام عليه ورحمة الله وبركاته

”ہر طرح کی حمد اللہ کے لئے محسوس ہے کہ اس نے نعمتیں عطا فرمائیں اور ان تمام
 اشیاء پر اس کا شکر ہے جو اس نے البام فرمائیں۔ وہ اپنی ان عمومی نعمتوں کی وجہ سے۔ کئی شے
 ہے جن کی اس نے ابتداء کی، ان وسیع نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے عطا فرمائیں اور ان نعمتوں
 کے کامل رہنے پر جو اس نے پے در پے رکھے۔ ان نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اور ان کی
 مدت ووقت شمار سے ہمیں زیادہ ہے۔ جن کی عینگی کا اندازہ انسانی بس سے ہوتا ہے۔ اس نے
 اپنے بندوں کو شکر کر کے نعمتیں زیادہ کرانے کی طرف رغبت دلائی تاکہ نعمتیں مسلسل نازں ہوں۔
 چہ نعمتوں کا مقابل قدر بنا کر حقوق سے مدد کا مطالبہ کیا۔ پھر انہیں دینی نعمتوں کی طرح سحر سے
 نعمت کا شکر ادا کرنے کی طرف مائل فرمایا۔

اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ یکتا اور کوئی اس کا
 شریک نہیں ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی اصل حقیقت اللہ نے اخاص قرار دیا اور اس کے معنی کو
 دلوں پر پیٹ دیا اور اس کلمہ کے حاصل معنی میں وہ بیان کے ذریعہ قوت فکریہ کے لئے واضح
 اور روشن کر دیا۔ خاص کی آنکھوں سے اس کا عینا محال ہے، زبانیں اس کے وصف سے قاصر
 ہیں اور وہ اس کی کیفیت سے عاجز ہیں۔ اس نے پہلے سے موجود کی چیز سے شے کو پیدا
 نہیں کیا اور کوئی مثال پیش نہ کر سکتے بغیر عامہ میں آیا۔

ان چیزوں کو اپنی قدرت سے خلق فرمایا حالانکہ اسے ان چیزوں کے پیدا کرنے کی
 حاجت نہ تھی اور چیزوں کی تعمیر نشی میں سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔

شیانہ و سرف اس سے پیدا کیا کہ عقل و احوں کو اس کی حکمت کا ثبوت ہے اور اس کی

حالت کی طرف متوجہ ہوں اس نے اپنی قدرت کے اظہار کے سے یہ سب چاہا تاکہ اس کی مخلوق اس کی بندگی کا اقرار کرے اور اس کی دعوت کو غلبہ حاصل ہو۔ پھر اس نے اپنی حالت پر ثواب مقرر کیا اور اپنی نافرمانی پر سزا اقرار دی تاکہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے بچانے اور انہیں گھیر کر جنت کی طرف لے جائے۔

اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد بزرگوار محمدؐ اس کے بندے اور اس کے رسولؐ ہیں جنہیں اس نے رسولؐ بنا کر بھیجنے سے پہلے مختار اور ممتاز بنایا اور انہیں مبعوث کرنے سے پہلے ہی انبیاء کو ان کے نام سے واقف کر دیا اور انہیں درجہ رسالت پر فائز کرنے سے پہلے ہی صطناء کی منزل پر فائز کر دیا تھا۔ اس وقت ساری مخلوق غیب کے حجابوں میں پوشیدہ تھی اور عدم کے ہونے پر دونوں میں محفوظ تھی اور ابتداء سے عدم سے متصل تھی۔ یہ سب اس سے تھا کہ خداوند عالم کو انجام امور کی خبر تھی اور اس کا علم حوادث زمانہ کا احاطہ ہے جو کے تھے اور مقدرات ان کے مواقع کو وہ پہچانتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو اپنے امر ہدایت کو تمام کرنے اور اپنے حکم کو جاری کرنے کی مضبوطی اور حتمی اور طے شدہ مقدرات کو نافذ کرنے کے لئے مبعوث فرمایا۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو آپ نے امتوں کو مذاہب کی ٹکڑیوں میں بنا ہوا دیکھا۔ ان میں سے کچھ آتش پرستی پر مائل تھیں، کچھ امتیں بت پرستی میں مبتلا تھیں، اور کچھ لوگ خدا کی ہستی کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے تھے۔ پس خداوند عالم نے میرے والد محمدؐ مصطفیٰ کے سبب ان کی تاریکیوں کو روشن کر دیا۔ دلوں سے جہالتوں کو کھول دیا اور آنکھوں سے پردے اٹھا دیئے۔

آپؐ لوگوں میں ہدایت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمراہی سے نکالے۔ وہ اندھے تھے، آپ نے انہیں آنکھیں عطا کیں، انہیں دینِ قیمر کی طرف رہبری کی اور انہیں صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دی۔

پھر اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کو ان کے اختیار اور رغبت اور ایثار کے ساتھ اپنی

صرف بدیہ۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ اس دنیا کی زحماتوں سے چھوٹ کر آرام اور راحت میں پہنچ گئے۔ انہیں مدائد ابرار ٹھہرے رہتے ہیں اور رب غفار کی رضا انہیں اپنی آغوش میں لئے ہوئے ہے اور وہ بہار بادشاہ کی ہمسانگی سے بہرہ اندوز ہیں۔ خداوند عالم درود نازل کرے میرے پدربزرگوں پر جو اس کے پیغمبر اور اس کی وحی پر اس کے امین تھے اور اس کی مخلوقات میں اس کے بزرگیدہ، منتخب اور پسندیدہ تھے۔ ان پر خدا کا سلام اور اس کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔“

حفاظت قرآن کی طرف توجہ دلانا

پھر آپ اہل مجلس کی طرف ملتفت ہوئیں اور فرمایا:

بِسْمِ عِبَادِ اللَّهِ نَصَبَ امْرَأَةٍ وَبَهِيهٍ وَحَمَلَةَ دِينِهِ وَوَحِيهٍ، وَأَمْنَاءَ اللَّهِ عَلَي
الْفَسْكَمِ وَبِلِغَاؤِهِ إِلَى الْأَمَمِ، زَعِيمٍ حَقَّ لَهُ فِيكُمْ وَعَهْدَ قَدَمِهِ إِلَيْكُمْ وَبِقِيَّةِ اسْتِخْلَافِهَا
عَلَيْكُمْ كِتَابَ اللَّهِ النَّاطِقِ وَالْقُرْآنِ الصَّادِقِ وَالنُّورِ السَّاطِعِ وَالصِّبْيَاءِ اللَّامِعِ، بَيْنَهُ
بَصَائِرُهُ مَنكُشِفَةٌ سِرَائِرُهُ مَنجَلِيَّةٌ ظَوَاهِرُهُ، مَغْتَبِطَةٌ بِهِ أَشْيَاعُهُ، قَائِدًا إِلَى الرِّضْوَانِ
اتِّسَاعِهِ، مُؤَدِّيًا إِلَى النِّجَاتِ اسْتِمَاعَهُ بِهِ تَنَالِ حُجَجَ اللَّهِ الْمُنَوَّرَةِ وَعِزَائِمَهُ الْمَفْسُورَةِ
وَمُحَارَمَةَ الْمَخْدُورَةِ وَبَيْنَاتِهِ الْجَالِيَّةِ وَبِرَاهِينِهِ الْكَافِيَّةِ وَفَضَائِلِهِ الْمُنَدُوبَةِ وَرِخْصَهُ
الْمَوْهُوبَةِ وَشَرَائِعِهِ الْمَكْتُوبَةِ.

”اے بندگانِ خدا! تم تو خدا کے امر و نبی کے بجالانے کے لئے منصوب و مقرر ہو، اس کے دین اور وحی کے حامل ہو، اپنے نفوس کے اوپر اس کے امین ہو، دوسری امتوں کی طرف خدا کی طرف سے مبلغ ہو اور تم اس عہد حق کے دوسری امتوں میں ضامن اور کفیل ہو جو خدا نے تم سے لیا ہے۔ اور تم اس بقیہ کے ضامن ہو جن کو تم پر رسول کے بعد ذمہ دار قرار دیا گیا ہے وروہ حق اور بقیہ خدا کی ناطق کتاب اور سچا قرآن ہے۔ قرآن نور ساطع اور چمکتی ہوئی روشنی ہے۔ اس کی بصیرت کے امور واضح اور اس کے اسرار و رموز مختلف اور آشکار ہیں۔ اس

سہ خدہ ہویدا اور بتلی ہیں، اس کا اتباع کرنے والے قابل رشک ہیں، اس کی بیہ وی رضوان خدا تک پہنچنے والی ہے اور اس کو توجہ سے سنا نجات تک کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اس قرآن کے ذریعہ خدا کی منور چھتیں پائی جاتی ہیں، بیان کئے ہوئے واجبات معلوم ہوتے ہیں، ان محرمات کی اطلاع ہوتی ہے جن سے خوف دلایا گیا ہے۔ اس سے واضح دلائل اور براہین کا فیہ اور ایسے مستحب فضائل معلوم ہوتے ہیں جن کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، اور ان مباح باتوں کا پتہ چلتا ہے جنہیں خدا نے بندوں کیلئے حلال کیا ہے اور اس سے خدا کی مقرر کردہ باتوں کا پتہ چلتا ہے۔“

احکام اسلامی کا فلسفہ سیدہ کی زبانی

فجعل الله الايمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر
والزكاة تزكية للنفس وغاء في الرزق والصيام تشيئا للاخلاص والحج تشييدا
للدين والعدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملة وامامتنا امانا من الفرقة والجهاد
عز الاسلام والصبر معونة على استيجاب الاجر والامر بالمعروف مصلحة للعامة
وبر الوالدين وقاية عن السخط وصلة الارحام منساة في العمر ومما للعدد
والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة وتوفية المكائيل والموازين
تغيير لبس والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس واجتناب القذف حجبا
عن العنة وترك السرقة ايجابا للعفة وحرم الله الشرك اخلاصا له بالربوبية.
فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون (سوره آل عمران آيت ١٠٢).
واطيعوا الله فيما امركم به ونهاكم عنه فانه انما يخشى الله من عباده العلماء. (سوره
فاطر. آيت ٢٨)

پس اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ بنایا۔ اور خدا نے
نہ ز فرض کی تاکہ تکبر سے بچ سکو، زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی کا ذریعہ بنایا اور

روزوں کو اخصاص کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا۔

اور حج کو دین کی مضبوطی کا وسیلہ بنایا اور عدل و انصاف کو واجب کر کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑا اور ہماری اطاعت و سنت اسلام کا نظام بنایا اور ہماری امامت کو تفرقہ سے بچنے کے لئے امان قرار دیا اور جہاد کو اسلام کی عزت بنایا اور مصیبت میں صبر کو تحصیل اجر میں مددگار بنایا اور مرہا المعروف میں عوام الناس کی مصحت کو قرار دیا۔ والدین کے ساتھ نیکی کو اس لئے واجب کیا کہ غضب خدا سے محفوظ رہا جائے اور صلہ رحم اس لئے مقرر کیا تاکہ عمر میں اضافہ ہو اور تعداد بڑھے اور قصاص اس لئے واجب کیا کہ خون ریزی رک جائے اور نذر و وفا کی راہ اس لئے نکالی کہ بندوں کی مغفرت مقصود تھی اور پیمانہ اور وزن پورا کرنے کا حکم اس لئے دیا کہ انسان سے بچاؤ ممکن ہو اور شراب سے اس لئے ممانعت فرمائی کہ بندے بُرے اخلاق سے پاک رہیں۔

اور زنا کا بے جا الزام لگانا اس لئے حرام کیا کہ لعنت کے سامنے ایک حجاب اور رکاوٹ پیدا ہو۔ اور چوری کو اس لئے ممنوع قرار دیا کہ دوسروں کے مال میں بے اجازت تصرف کرنے سے لوگ باز رہیں اور خدا نے شرک کو اس لئے حرام کیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار خاص رہے۔

لہذا خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے اور جب مرو تو مسلمان ہی مرو۔

اور اوامر میں خدا کی اطاعت کرو اور جن امور سے منع کیا ہے۔ ان سے باز رہو۔ بے

شک خدا کے بندوں میں سے اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں۔

اپنا تعارف اور خدمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

پھر آپ نے فرمایا

ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد (ص) اقول عوداً ویدواً ولا اقول

ما اقول غلطاً ولا اقول شططاً لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما

عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم (سورة توبه آیت ۱۲۸) فان تعروہ
 وتعرفوه تجدوه ابي دون نساء کم و احا ابن عمی دون رجالکم ولعمہ المعزی الیہ
 صلی اللہ علیہ والہ وسلم فبلغ الرسالة صادعا بالندارة مانلا عن مدرجة المشركين.
 ضاربا ثبجهم، اخذا باکظامهم داعيا الی سبیل ربہ باحکمة والموعظة الحسنة.
 یکسر اصنام ینکت الہام حتی انہزم الجمع ولوا الدبر. حتی تفری النیل عن صبحہ
 واسفر الحق عن محضہ ونطق زعیم الدین وفرست شقاشق الشیاطین وطاح وشیظ
 النفاق وانحلت عقد الکفروا الشقاق وفتہم بکلمہ الاخلاص فی نفر من البیض
 الخماص وکنتم علی شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وتبسته
 العجلان وموطئ الاقدام تسربون الطرق وتقتاتون القد ادلة خاسنین

تخافون ان یتخفکم الناس من حولکم فانقذکم اللہ تبارک وتعالی
 سمحمد (ص) بعد اللتبا والتی وبعد ان منی بہم الرجال وذویان العرب ومردة اهل
 الكتاب کلما اوقدوا نار اللہ الحرب اطفأها اللہ.

”لوگو! جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے والد محمد مصطفیٰ ہیں۔ جو بات میں تم سے
 ابتدا میں کہہ رہی ہوں، وہی آخر تک کہتی رہوں گی اور میں غلط بات نہیں کہتی اور اپنے فعل میں
 حد سے تجاوز نہیں کرتی۔ یقیناً تمہارے پاس خدا کا وہ رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے۔ تمہارا
 تکلیف میں پڑنا اس پر شاق ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے لئے حریص ہے جو مومنین پر شفیق اور
 مہربان ہے۔ پس اگر تم ان کی طرف کسی کو نسبت دو اور ان کا تعارف کرواؤ، تو تم ان کو میرا باپ
 پاؤ گے نہ کہ اپنی عورتوں کا اور انہیں میرے ابن عم (علی) کا بھائی پاؤ گے نہ کہ اپنے مردوں میں
 سے کسی کا۔ آنحضرت بہترین شخص میں جن کی طرف نسبت کی جائے۔

پس آنحضرت نے خدا کا پیغام بہت اچھی اور پوری طرح پہنچا دیا اس طرح کہ خدا
 کے ڈرانے میں یورپی وضاحت سے کام لیا اور آپ مشرکین کے مسلک کی ممتاز چیزوں پر ضرب

کاری گات رہے اور آپ نے ان کا ناطقہ بند کئے رکھا اور اپنے پروردگار کے راستے میں صرف حکمت و موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ آپ بتوں کو توڑتے رہے تھے، وراہیں شرک کے سرداروں کو سرنگوں کئے رہے، یہاں تک کہ روضہ مشرکین کو شکست ہوئی اور پینچ پھیر سر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جہالت کی رات ختم ہوئی صبح نے جوہ دکھایا اور حق اپنی خاص شکل میں نمودار ہوا۔ دین کا ڈنکا بولنے لگا اور شیطانوں کے ناطقے بند ہو گئے۔ نفاق پرور سینے بدک ہوئے، کفر اور نافرمانی کی گرہیں کھل گئیں اور تم نے چند روشن نسب اور کرسنہ (روزہ دار بوئے) یعنی اہل بیت رسول کے درمیان زبان پر کلمہ اخلاص جاری کیا۔ تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے اور ایسے بے مقدار تھے جیسے پینے والے کا ایک گھونٹ اور طمع کرنے والے کا یک چوہ اور عبت کرنے والے کی ایک چنگاری۔ اور ایسے ذلیل تھے جیسے بیروں تلے خاک۔ تم سندنہ پانی پیتے تھے اور بے دباغت کی ہوئی کھال چباتے تھے۔ ذلیل تھے اور دھتکارے ہوئے تھے اور تم ڈر رہے تھے کہ تمہارے گرد و پیش کے لوگ تمہیں اچھ نہ لیں۔ ایسے وقت پر خداوند منے محمد مصطفیٰ کے ذریعہ سے تمہیں ان فکروں سے نجات دی اور چھوٹی بڑی بلاؤں کے بعد ایہ ممکن ہوا۔ عرب کے لوگوں نے ان واقعات پر خاموشی اختیار نہیں کی تھی، آنحضرت کو بہرہ کافروں کے ذریعہ سے آزمایا گیا اور عرب کے ڈاکوؤں اور اہل کتاب کے سرکش افراد سے ان کو پاپا پڑا البتہ جب کبھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا۔“

دفاع اسلام کے لئے علی کا کردار

او نجم قرن للشيطان او فغرت فاغرة من المشركين قذف احاه في لهواتها.

فلا ينكفني حتى يطاصما فيها باخمصه و يخمد لهبها بسيفه

مكدوذا في ذات الله مجتهدا في امر الله قريبا من رسول الله سيدا في اولياء

الله، مشمرا ناصحا مجدا كادحا وانتم في رفاهية من العيش و ادعون ما كهنون اصون

تترصون بما الدوانر و تتوكفون الاخبار و تنكصون عند النزال و تفرون من القتال

”یا جب کبھی شیطان نے سراٹھایا اور مشرکین کی شرارت کے اثر ہے نے منہ کھولا تو آنحضرتؐ نے اپنے بھائی علیؑ کو ہی اس بلا کے منہ میں بھیجا۔ پس اس بہادر علیؑ کی شان یہ تھی کہ وہ اس وقت تک نہ پلٹتے تھے جب تک اپنے پیروں تلے ان بلاؤں کے سر کچل نہ دیتے اور فتنہ کی آگ کو اپنی تلوار سے نہ بجھا دیتے۔

وہ خدا کے بارے میں مشقت برداشت کرنے والا ہے۔ امر خدا میں کوشش کرنے والا ہے اور ہر بات میں رسول خداؐ سے قریب ہے اور وہ اولیائے خدا کا سردار ہے۔

اس عرصے میں میرے شوہر ہدایت پر کمر بستہ، ہنگام خدا کے خیر خواہ، کوشش اور سعی بیغ کرنے والے تھے۔ اس دوران تمہاری حالت یہ تھی کہ تم زندگی کی خوش گوار حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اطمینان اور خوش طبعی کی حالت میں بے خوف زندگی بسر کر رہے تھے اور ہم پر مصائب نازل ہونے کی آرزو کرتے تھے اور ہمارے لئے فتنوں اور مصیبتوں کی امید کرتے تھے۔ تم لوگ جنگ کے مواقع پر پسا ہو جاتے تھے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے۔

لوگوں کی بے وفائی پر تنقید

فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه وماوی اصفیائه ظهر فیکم حسکة النفاق و سمل جلباب الدین و نطق کاظم الغاویں و نبغ حامل الاقلین و هدر فنیق المبتطلین فخطر فی عرصاتکم و اطلع الشیطان راسه من مغرزه هاتفا بکم فالفاکم لدعوته مستجیبین و للفرقة فیہ ملاحظین. ثم استنهضکم فوجدکم خفافا و احمشکم فالذکم غضاباً فوسمتم غیر انکم و اوردتم غیر شربکم هذا والعهد قریب والکلمه رحیب والجرح لما یندمل والرسول لما یقبر. ابتداراً زعمتم خوف الفتنه ”الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطة بالکافرین“ (سورہ توبہ آیت ۴۹) فہیات منکم

و کيف لكم واني توفكون؟ و كتاب الله بين اظهركم اموره طاهرة و احكامه را هره
 و اعلامه باهرة و رواجده لائحة و اوامره و اضحة و قد خلفتموه و رآء ظهوركم
 ارغبة عنه تريدون ام بغيره تحكمون؟ بنس للظالمين بدلا، ومن يتبع غير الاسلام
 دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. (سوره آل عمران آیت ۸۵)

ثم لم تلبثوا الا ريث ان تسكن نفرتها و يسلس قيادها ثم اخذتم تورون
 و قدتها و تهيجون جمرتها و تستجيبون لهتاف الشيطان الغوى و اطفاء نور الدين
 الجلى و اخماد سنن النبى الصفى. تسرون حموا فى ارتغاء و تمشون لاهده و ولده
 فى الحمر و الضراء و نصير منكم على مثل حر المدى و وحز السنان فى الحشى
 پس جب خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے لئے اپنے انبیاء اور اپنے اصفیاء کے مسکن کو
 پسند کیا تو تم لوگوں میں نفاق ظاہر ہوا، دین کی چادر بوسیدہ ہوگئی، گمراہیوں کی زبان کھل گئی، خاتمہ
 اور من موبک ابھر کر سامنے آگئے، باطل پرستی کا اونٹ بولنے لگا اور اس نے تمہارے گھروں میں
 دھبہ دہنی شروع کر دی۔

پس شیطان نے اپنے گوشے سے سر نکالا۔ اس نے تمہیں بلانے کے نئے آواز دی
 تو تمہیں اپنی آواز پر لبیک کہتا ہوا پایا اور اپنے فریب کی طرف تمہیں نگران دیکھ لیا۔

پھر اس نے تمہیں اپنی فرمانبرداری کے لئے اٹھنے کا حکم دیا تو تمہیں فوراً تیار ہونے
 والا پایا۔ اس نے تمہیں بھڑکایا تو اپنی مدد میں تمہیں غضب ناک اور تند پایا۔ پس تم نے اپنے
 اونٹ کے بدلے دوسرے کے اونٹ کو داغا اور اپنا گھاٹ چھوڑ کر دوسرے کے گھاٹ پر پانی
 پدیا۔ حالانکہ تم سے رسول خدا کے عہد و پیمان کا وقت قریب تھا اور ان کی جدائی کا زخم ابھی تازہ
 تھا اور زخم مندمل نہیں ہوا تھا اور رسول خدا ابھی دفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ تم نے شیطانی کاموں
 کی طرف سہت کی، یہ کمان کر کے کہ فتنہ کا خوف پیدا ہو گیا تھا حالانکہ یہ گمان غلط تھا۔ آگاہ
 رہو! منافقین فتنہ میں جا رہے ہیں اور دوزخ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ مجھے تم سے سخت

تعب نہ اور تمہیں لیا ہو یا ہے اور تم حق سے منہ موڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جبکہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے۔ اس کے امور ظاہر ہیں اور اس کے احکام روشن ہیں اور اس کی نشانیں واضح ہیں اور اس کی تنبیہات صاف اور واضح ہیں اور اس کے ادا و آفکار ہیں اور ایسی کتاب کو تم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا اس سے نفرت کرتے ہو، پیٹھ پھیرتے ہو یا قرآن کے مدوہ احکام جاری کرنے پر تمل گئے ہو؟ اور ظالموں کے لئے ان کے ظلم کا بدلہ ہے اور جو کوئی اسدہم کے علاوہ اپنے لئے کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔

پھر تم نے اتنی تاخیر نہ کی کہ نفرت ذرا کم ہو جاتی اور اس پر قابو پانا آسان ہو جاتا۔ پھر تم نے اس آگ کے شعلوں کو بجھنا شروع کر دیا اور اس کی چنگاریاں تیز کرنے لگے اور تم شیطان گمراہ کی آواز پر لبیک کہنے اور خدا کے روشن دین کے بجھانے اور برترزیدہ پیغمبر کی سنتوں کو مٹانے پر کمر بستہ ہو گئے۔

تم جھاگ کے بہانے خاموشی سے دودھ پینے لگے اور رسول خدا کے اہلیت اور اور کے خلاف گنجان درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر چال چلنے لگے اور ہم لوگ تمہارے افعال پر یوں مہر کرنے لگے جیسے کوئی چھری کی کاٹ پر اور تیزے کے سینے میں پوست ہونے پر مہر کرتا ہے۔

مطالبع فذک

وانتم الان ترعمون ان لا ارث لنا "افحکم الجاهلیة بیغون و من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون" (سورہ ماندہ آیت ۵۰) افلا تعلمون بلی تجلی لکم کالشمس الضاحیة انی ابنتہ.

ایہا المسلمون! اغلب علی ارثیہ یا بن ابی قحافة! افی کتاب اللہ ان ترث اناک ولا ارث ابی "لقد جنت شیئا فریاً" (سورہ مریم آیت ۲۷) افعلی عمد ترکتم

کتاب اللہ وسدتموه وراء ظهورکم اذ يقول "وورث سليمان داوود" (سوره نحل آیت ۱۶) وقال فيما اقتص من خبير زكريا اذ قال: "فهب لي من لدنك وليا ۝ يرثني ويرث من آل يعقوب" (سوره مريم آیت ۶۰۵) وقال: "و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله." (سوره انفال آیت ۷۵)

وقال: "يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين." (سوره نساء آیت ۱۱) وقال: "ان ترك خيران الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين." (سوره بقره آیت ۱۸۰)

و زعمتم ان لا حظوة لي ولا ارث من ابي. افخصكم الله باية اخرج ابي منها" ام تقولون. ان اهل ملتين لا يتوارثان" او لست انا و ابي من اهل مله واحده" ام اتم اعلم بخصوص القرآن وعمومه من ابي و ابن عمي؟

فدونكها مخطومة فرحولة تلقاك يوم حشرک فنعم الحكيم الله والرعيه محمد والموعود القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون. ولا ينفعكم اذ تدمون

"ولكل بناء مستقر" (سوره انعام آیت ۶۷) "فسوف تعلمون من ياتية عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم." (سوره هود آیت ۳۹)

اب تم یہ گمان کرنے لگے ہو کہ ہمارے لئے میراث نہیں ہے۔ کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ پسند کرتے ہیں اور یقین رکھنے والی قوم کے لئے خدا سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں علم نہیں؟

کیوں نہیں ہے شک تم جانتے ہو اور تمہارے لئے یہ ام آفتاب نصف انہار کی طرح واضح ہے کہ میں پیغمبر کی بیٹی ہوں۔

۱۔ مسلمانوں! کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میری میراث مجھ سے چھین لی جاوے؟

۲۔ فرزند ابوقحافہ! کیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پالے اور

میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں؟ تو نے یہ کیا ہی بری بات پیش کی ہے۔

کیا تم نے جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور اسے پس پشت ڈال دیا ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”سَلِيمَانَ دَاوُدَ كَا وَاْرث بِنَا“

اور اللہ تعالیٰ نے زکریا کا قصہ بیان کرتے ہوئے ان کی دعا نقل کی۔ زکریا نے عرض کی تھی: ”خدا یا! مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میری میراث پائے اور آل یعقوب کا ورثہ پائے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اُرْكَوْی مَرْنِے وَاَلَا مَالٌ جَھُوْرٌ جَاے تُوْه وَاَدْرِيْنَ اُوْرْ قَرْمِي رَشْتِے دَارُوں كِے لَے نِيكِي كِي بَعْنِي مِيرَاث كِي وَصِيْت كَرِے، يِه مَتَقِيْنِ پَر فَرَضِ هِي۔“

اور تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ میراث میں میرا کوئی حق نہیں ہے اور میں اپنے باپ کی کوئی وراثت حاصل نہیں کر سکتی تو کیا اللہ نے میراث کے متعلق تم کو کسی آیت کے ساتھ مخصوص کیا ہے جس سے میرے والد کو مستثنیٰ کیا ہے؟

یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ملت والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے۔ تو کیا میں اور میرے والد ایک ہی ملت پر نہیں ہیں؟ یا پھر تم لوگ قرآن کے عموم و خصوص کو میرے والد اور میرے ابن عم سے زیادہ جانتے ہو؟

اچھا آج تم فدک اس طرح قبضہ میں لے لو جس طرح مہار اور پالان بندھانا قبضہ میں کیا جاتا ہے اس کے نتائج کا علم تمہیں قیامت میں ہوگا جب خدا فیصلہ کرنے والا ہوگا اور محمد ہارے ضامن وکیل ہوں گے۔ میری اور تمہاری وعدہ گاہ قیامت ہے۔ قیامت میں باطل پرست گھٹنے میں رہیں گے۔ اس وقت کی ندامت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔

بر امر کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہو کر اسے رسوا کرے گا اور اس کے لئے دائمی عذاب مقرر ہوگا۔

انصار کے غیر جانبدارانہ رویے پر تنقید

پھر حضرت سیدہ سلام اللہ تعالیٰ نے مسجد میں موجود انصار کی طرف نگاہ دوڑائی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا:

يا معشر الفتية و اعضاء الملة و انصار الاسلام! ما هذه الغميمة في حقي و السنة عن ظلامتي؟

اما كان رسول الله ابي يقول: "المرء يحفظ في ولده."

سرعان ما احدثتم و عجلان ذا اهالة و لكم طاقة بما احوال و قوة على ما اطلب و ازاول اتقولون مات محمد فخطب جليل استوسع و هنه و استنهر فتقه و انفتق رتقه و اظلمت الارض لغيبته و كسفت النجوم لمصيبته و اكدت الامال و خشعت الجبال و اضيع الحريم و ازيلت الحرمة عند مماته فتلک واللہ النازلة الكبرى و المصيبة العظمى.

لامثلها نازلة ولا بائقة عاجلة اعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في افئتكم في ممساكم و مصبحكم هتافا و صراخا وتلاوة والحانا و لقبه ما حل بانبيائه و رسله حکم فصل و قضاء حتم.

"وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين." (سورہ آل عمران آیت ۱۴۴)

اے گروہ نقیبان اور اے ملت کے دست و بازو اور اے اسلام کی حفاظت کرنے والو! میرے حق میں یہ سستی کیسی اور میری فریاد سے یہ چشم پوشی کس لئے ہے؟ کیا میرے والد رسول خداؐ یہ نہیں فرماتے تھے: "کسی شخص کی حفاظت اس کی اولاد کی

حفاظت کر کے ہوتی ہے۔“

کئی جلدی تم نے دین میں بدعت پیدا کر دی اور قبل از وقت تم نے اس کا ارتکاب کیا ہے جبکہ تمہیں اس بات کی طاقت حاصل ہے جس کی میں کوشش کر رہی ہوں۔ کیا تم کہتے ہو۔ ”محمدؐ نے انتقال فرمایا“ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس کا رخنہ وسیع ہے جس کا شگاف بہت زیادہ ہے اور اس کا اتصال انفصال سے بدل چکا ہے۔ زمین ان کی غیبت سے تاریک ہو گئی اور ان کی مصیبت کی وجہ سے ستاروں کو گھن لگ گیا اور امیدیں منقطع ہو گئیں اور پہاڑوں کے دل بھی آہ آہ ہو رہے ہیں۔ حرمت رسولؐ ضائع کر دی گئی اور ان کی وفات سے کریم رسولؐ کی عظمت لوگوں کے دلوں سے اٹھ گئی۔ خدا کی قسم! یہ بہت بڑی بلا اور عظیم مصیبت ہے۔ اس کی مثل کوئی بلا نہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ ہلاک کرنے والی کوئی تیز مصیبت ہے اور اس بلا کی خبر خدائے برتر کی کتاب میں خود تمہارے گھروں میں نہایت خوش الحانی اور بند آواز کے ساتھ پہنچا دی گئی تھی اور آنحضرتؐ سے پہلے خدا کے پیغمبروں اور رسولوں پر جو مصیبتیں نازل ہوئیں وہ امر واقعی اور قضائے حتمی تھیں۔

چنانچہ خدا فرماتا ہے: ”محمدؐ فقط خدا کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ پس اگر محمدؐ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم لوگ اپنے پچھلے پیروں پر پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص بھی اپنے پچھلے پیروں پر پلٹے گا وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکے گا اور خدا عنقریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔“

تمکیل خطبہ

مؤلف اعلیٰ اللہ مقامہ نے یہاں تک ہی خطبہ لکھا لیکن احتجاج طبری میں خطبہ اس مقام پر ختم نہیں ہوتا اسی لئے ہم الاحجاج سے خطبہ کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں:

ایہا بنی قیلۃ! اھضم تراث ابیہ! وانتم بمرای منی مسمع و منتدی و

مجمع تلبسکم الدعوة و تشملکم الخیرة و انتم ذو و العدد و العدة و الاداة و القوة و عندکم السلاح و الجنة. توافیکم الدعوة فلا تجیبون و تاتیکم الصرخة فلا تعینون و انتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخیر و الصلاح و النخبة التي انتخبتم و الخیرة التي اختیرت. قاتلتم العرب و تحملتم الكد و التعب و ناطحتم الامم و کافحتم البهم لانبرح او ترحون نامرکم فتاتمرون. حتی اذا دارت بنارحی الاسلام و درحلب الایام و خضعت ثغرة الشرك و سکت فورة الافک و خمدت میزان الکفر و هذات دعوة الهرج و استوسق نظام الدین. فانی حرتم بعد البیان و اسررتهم بعد الاعلان و نکصتم بعد الاقدام و اشرکتهم بعد الایمان؟

”الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدأؤکم اول

مرة اتحشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین“ (سوره توبه آیت ۱۳)

الا و قدری ان قد اخلدتم الی الخفص و ابعدمتم من هواحق بابسط و القبض و خلوتهم الی الدعة و نجوتهم من الضیق بالسعة. فمجتهم ما و عیتم و رسعتم الذی تسوغتم. ”ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید“ (سوره ابراهیم آیت ۸) الا قدقلت ما قلت علی معرفة منی بالخذله التي خامرتکم و الغدرة التي استشعرتها قلوبکم و لكنها فیضة النفس و نفثة الغیظ و خور القنا و بثة الصدر و تقدمه الحجة فدونکموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخف باقیة العار موسومة بغضب الله و شنارالابد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع علی الافئدة. فبعین الله ما تفعلون ”وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون“ (سوره شعراء آیت ۲۲۷) و انا ابنة نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. فاعملوا ان عاملون و انتظروا انا منتظرون.

اے بنی قیلہ! تو کیا میرے باپ کی میراث یوں ہی ہضم کر لی جائے گی؟ ہاں۔ بلکہ تم

میری آنکھوں کے سامنے موجود ہو اور میری آواز بھی سن رہے ہو اور میں اور تم ایک ہی محفل اور مجمع میں موجود ہیں۔ میری دعوت تم تک پہنچ رہی ہے اور میرے حالات کی خبر تم تک آ رہی ہے جبکہ تم سب جتھے والے، تیاری والے اور ہتھیار اور قوت رکھنے والے لوگ ہو اور تمہارے پاس ہتھیار اور سپریم موجود ہیں۔ تم تک میری پکار پہنچ رہی ہے مگر تم لہیک نہیں کہتے۔ تمہارے پاس میری مظلومیت کی فریاد آ رہی ہے اور تم فریاد رسی نہیں کرتے حالانکہ تم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو اور تم خیر و صلاح کے لئے مشہور و معروف ہو۔ تم تو چنے ہوئے منتخب افراد ہو اور تمہیں تو ہماری نصرت کے لئے چنا گیا تھا۔

تم نے عرب سے جنگ کی اور تھکان اور مشقت برداشت کی۔ تم نے دوسری امتوں سے جنگ کی اور بہادریوں کا مقابلہ کیا اور اس سے قبل جب تک ہم نہ رکھتے تھے اس وقت تک تم بھی نہ رکھتے تھے اور ہم حکم کرتے تھے اور تم تعمیل کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب ہمارے ذریعے سے اسلام کی چکی نے گردش شروع کی، زمانہ کا نفع بڑھنا شروع ہوا، شرک کی آواز دب گئی، جھوٹ کا زور تھم گیا، کفر کی آگ بجھ گئی، فتنہ و فساد کی آواز بند ہو گئی اور دین کا انتظام درست ہو گیا تو اب حق کے واضح ہونے کے بعد تم سرگرداں کیسے ہو گئے اور اعلان حق کے بعد تم اسے کیوں چھپا رہے ہو اور آگے بڑھنے کے بعد تم پسپا کیوں ہو رہے ہو اور ایمان کے بعد شرک کیوں کر رہے ہو؟

تم ان لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کے نکالنے پر آمادہ ہوئے اور عبد شمس کی ابتدا بھی ان کی طرف سے ہو چکی ہے تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ خدا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اور تم صاحبان ایمان ہو۔

خبردار! میں دیکھ رہی ہوں کہ تم مسلسل پستی کی طرف جھٹے جا رہے ہو اور جو دین کے صل و عقد کا صحیح حقدار تھا تم نے اس کو دور کر دیا ہے۔ تم آرام طلبی پر مائل ہو چکے ہو اور تم زندگی کی جنگ سے نکل کر فرافغانی میں آچکے ہو۔

جو چچہ تم نے یاد کیا تھا، اسے تم نے اگل دیا ہے اور جس پانی کو شیریں سمجھ کر پیا تھا، اسے تم نے پھینک دیا ہے۔

پس اگر تم اور روئے زمین کے تمام رہنے والے کفر اختیار کر لیں تو بھی یقیناً خدا بے پرواہ اور قابلِ حمد ہے۔

آگاہ ہو جاؤ! میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اس ترکِ نصرت کو دیکھ کر کہا ہے جو تمہارے مزاج میں داخل ہو چکی ہے اور اس غداری کو دیکھ کر کہا ہے جس کو تمہارے دلوں نے اپنے اندر چھپا رکھا ہے (میں جانتی ہوں کہ تم میری مدد نہ کرو گے) لیکن اس کے باوجود جو کچھ میں نے کہا وہ غم کا اظہار ہے، کھولتے ہوئے دل کی آہ ہے، یہ دل کا پھپھولا ہے، یہ سینے کا ایک درد ہے اور یہ اتمامِ حجت ہے۔

اب یہ ناقد (حکومت) تمہارے سامنے ہے۔ اس پر پالان باندھو۔ مگر یہ یاد رہے کہ اس کی پشت زخمی ہے اور اس کے پاؤں پھٹے ہوئے ہیں۔ اس کا عیب باقی رہنے والا ہے جس پر خدا کے غضب اور دائمی رسوائی کا نشان ہے، جو خدا کی آگ سے متصل ہے، جو بھڑک رہی ہے، جو دلوں پر وارد ہوگی۔

تم جو کچھ بھی کر رہے ہو خدا کی نظر کے سامنے ہے اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کی بازگشت کتنی بری ہے۔

میں اس پیغمبرؐ کی بیٹی ہوں جو تمہیں سامنے والے عذاب سے ڈرایا کرتا تھا۔ پس تم اپنا کام کرو اور ہم بھی اپنا عمل کرتے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ (اضافہ از مترجم اردو)۔^۱

۱۔ خطبہ نبی تشریح کے لئے آیت اللہ محمد کاظم قزوینی کی کتاب "فاطمہ زہرا الزہراء ائمتہ شہادت" کا مترجم کریں۔ زمرہ ترجمہ اردو۔

اس موضوع پر شیخ ازری کے اشعار

شیخ کاظم ازری بغدادی نے ان واقعات کو بڑے خوبصورت انداز سے یوں بیان کیا

نقضوا عهد احمد فی اخیہ و اذا قوا البتول ما اشجاها

یوم جاء ت الی عدی و تیم و من الوجد ما اطل بکاها

فدنت و اشتکت الی اللہ شکوی و الرواسی تہتز من شکواها

لست ادری اذ روعت وہی حسری عاند القوم بعلمها و اباہا

تعظ القوم فی اتم خطاب حکمت المصطفیٰ بہ و حکاها

ہذہ الکتب فاسئلوا ترؤھا بالموارث ناطقا فحویہا

و بمعنی یوصیکم اللہ امر شامل للانام فی قرباہا

فاطمات لہا القلوب و کادت ان تزول الاحقاد ممن طویہا

ایہا القوم راغبوا اللہ فینا نحن من روضة الجلیل جناها

و اعلموا انا مشاعر دین اللہ فیکم فاکرموا مثنویہا

و لنا من خزائن الغیب فیض ترد المہتدون منہ ہدایا

ایہا الناس ای بنت نبی عن موارثہ ابوہا زواہا؟

کیف یزوی عنی تراثی عتیق با حادث من لدنہ افتراہا؟

کیف لم یوصنا بذلک مولانا و یتما من دوننا او صاہا؟

هل رانا لا نستحق اهداء و استحققت تیم الہدی فہدایا؟

ام تراہ اضلنا فی البرایا بعد علم لکی تصیب خطاہا؟

نصفونی من جائزین اضاعا حرمة المصطفیٰ و ما رعیاہا

ارباب حکومت نے اس عہد کو توڑ دیا جو پیغمبر خدا نے اپنے بھائی کے متعلق لوگوں سے

یہ تھا ورنہ لوگوں نے جنتاب بتول کو وہ دکھ دیکھو ہڈیوں کی مانند ان کے گلے میں پھنس گئے۔ جس دن بتول (بنی) تیم وعدی کے پاس گئیں اور شدت غم سے کافی دیر تک روتی رہیں۔ جب مسجد سے خالی ہاتھ لوٹیں تو بابا کی قبر کے قریب گئیں اور خدا کے حضور مظالم کا شکوہ کیا جس سے پہاڑ بھی رزنے لگے۔ مجھے معلوم ہے کہ سیدۃ کو ان کے گھر میں خوف زدہ کیوں نہ گیا اور لوگوں نے ان کے شوہر اور ان کے والد سے دشمنی کیوں کی جب کہ وہ اپنے پدر بزرگوار کی رحلت کی بناء پر سوگوار تھیں بی بی نے مسجد میں لوگوں سے بہترین طور پر خطاب کیا اور ان کے خطبے کو سن کر رسول خدا کے خطبے کی یاد تازہ ہو گئی۔ ان آسمانی کتابوں سے پوچھ لو یہ تمہیں بتائیں گی کہ ہر دور و مدین کی وارث ہوتی ہے۔ ”یوصیکم اللہ“ کی آیت مجیدہ سب پر آلو ہوتی ہے، ورنہ اس میں پیغمبر کے قرابت دار بھی شامل ہیں۔

یہ دلیل سن کر حاضرین کے دل مطمئن ہو گئے اور قریب تھا کہ دلوں سے پرانے سین سے دور ہو جائیں۔

بی بی نے کہا: اے لوگو! ہمارے متعلق خدا سے ڈرو۔ ہم پاک و پاکیزہ گلشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمہیں علم ہونا چاہئے کہ ہم تمہارے درمیان اللہ کے دین کے مظاہر ہیں۔ قرآن مظاہر کا احترام کرو۔ ہم ہدایت کا شیریں چشمہ ہیں جس سے لوگ ہدایت یافتہ ہو کر پلٹتے ہیں۔ لوگو! مجھے بتاؤ آج تک کسی بھی نبی نے اپنی بیٹی کو میراث سے محروم رکھا ہے؟ پھر ایک خود ساختہ حدیث کے ذریعے مجھے میراث سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ یہ عجیب سی بات ہے کہ پیغمبر نے ہمیں تو نہ بتایا اور چپکے سے بنی تیم کے ایک فرد کو تلا دیا۔ تو کیا پیغمبر نے ایسا کر کے ہمیں ہدایت کے قابل نہیں سمجھا تھا اور بنی تیم کو ہدایت کے قابل سمجھ کر ہدایت کی تھی؟ اور کیا تم یہ تصور بھی کر سکتے ہو کہ پیغمبر نے ایسا کر کے ہمیں گمراہی سے سپرد کر دیا اور دوسرے لوگوں کی ہدایت کر دی؟

نو! ان لوگوں نے حرمت مصطفیٰ کو ضائع کیا ہے اور انہوں نے ان کی حرمت کا کوئی

پاس نہیں کیا، مجھے ان سے انصاف دلو۔

سربراہ حکومت کا جواب

جب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنا خطبہ مکمل کیا تو حضرت ابو بکر نے اس کے جواب میں کہا: دختر رسول خدا! یقیناً آپ کے پدر بزرگوار مومنین پر رحم، شفیق اور رافت کرنے والے تھے اور اس کے ساتھ آپ کافروں کے لئے دردناک عذاب اور بڑی عقوبت تھے۔

اگر ہم ان کی نسبت دین تو تمام دنیا کی عورتوں میں سے انہیں صرف آپ کا ہی باپ پائیں گے اور مردوں میں سے صرف آپ کے شوہر کا ہی بھائی پائیں گے۔ آنحضرتؐ نے انہیں ہر دوست پر مقدم رکھا تھا اور آپ کے شوہر نے ہر امر میں ان کی مدد کی اور آپ سے نیک بخت ہی دوستی رکھے گا اور شقی و بد نصیب ہی آپ سے دشمنی رکھے گا۔ آپ رسول خدا کی پاکیزہ معترت اور منتخب افراد ہیں۔ آپ لوگ خیر کی طرف ہمارے رہبر اور جنت کی طرف ہمارے بادی ہیں۔

اے بہترین نساء! اے افضل الانبیاء کی دختر! تم اپنے قول میں سچی اور زیادتی عقل میں سب سے آگے ہو۔ تم نہ اپنے حق سے روکی جاؤ گی اور نہ سچ بولنے سے باز رکھی جاؤ گی۔

خدا کی قسم! میں نے رسول خدا کی رائے سے تجاوز نہیں کیا اور نہ ان کی اجازت کے بغیر میں نے کوئی عمل کیا ہے اور آب و دانہ کی تلاش میں آگے جانے والا اپنے اہل سے جھوٹ نہیں ہوتا۔ میں خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں اور وہی گواہی کے لئے کافی ہے۔ میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا: ”ہم گروہ انبیاء نہ تو سونا چاندی میراث میں چھوڑتے ہیں اور نہ مکان و جائیداد، ہم گروہ انبیاء تو کتاب و حکمت اور علم و نبوت کو وراثت میں چھوڑتے ہیں اور جو کچھ ہر مال ہوتا ہے وہ ہمارے بعد ولی امر کا حق ہے۔ اسے اختیار ہے کہ وہ اس میں اپنا حکم جاری کرے۔“

اور آپ ہم سے جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں، اس کو ہم نے جنگی گھوڑوں اور آلات حرب کی خریداری کے لئے مخصوص کر دیا ہے جس کے ذریعے مسلمان طاقت اور عظمت حاصل کریں گے، کافروں سے قتال و جہاد کریں گے اور سرکش فاجروں کا مقابلہ کریں گے اور یہ چیز

میں نے تنہا اپنی رائے سے نہیں کی بلکہ مسلمانوں کے اجماع سے کی ہے اور ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ سے چھپائیں یا آپ کے ہاتھ سے چھین لیں اور میرا تمام ماں و باپ کا ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اسے میں آپ سے دریغ نہیں کروں گا۔

آپ اپنے والد بزرگوار کی امت کی سردار ہیں اور اپنی اولاد کی شجرہ حبیبہ ہیں اور آپ کی فضیلت کا انکار ممکن نہیں ہے اور آپ کی فرع اور اصل کو پست نہیں سمجھا جا سکتا۔ میرے ماں میں آپ کا حکم نافذ ہے اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے ان باتوں میں آپ کے وادہ ماجد کی مخالفت کی ہے؟

حضرت سیدہ کا جواب

سربراہ حکومت کے جواب الجواب میں حضرت سیدہ نے فرمایا:

سبحان اللہ! میرے والد بزرگوار رسول خدا کتاب خدا سے نہ تو روگردان تھے اور نہ ہی اس کے احکام کے مخالف تھے بلکہ آپ حکم قرآن کے تابع اور اس کی سورتوں کے پیروکار تھے۔ کیا تم نے رسول خدا پر جھوٹ باندھ کر اس کے ذریعے دعاباذی پر اجماع کر لیا ہے؟ اور آنحضرت کی وفات کے بعد یہ حرکت ایسی ہی ہے جیسی کہ ان کی زندگی میں منافقین نے انہیں بدکار کرنے کی کوشش کی تھی۔

یہ کتاب خدا حاکم، عادل اور فیصلہ کن ناطق ہے۔ اس میں حضرت زکریا کی دعا کے یہ الفاظ موجود ہیں: ”یرثنی ویرث من ال یعقوب“ (سورہ مریم۔ آیت ۶) یعنی مجھے فرزند عطا کر جو میری میراث پائے اور آل یعقوب کی جو میراث مجھ تک پہنچی ہے اسے پائے۔

اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے متعلق فرمایا: ”وورث سلیمان داؤد“ (سورہ نمل۔ آیت ۱۶) یعنی سلیمان، داؤد کا وارث بنا۔

پس خداوند عالم نے جو مال کی تقسیم اور میراث کی حد مقرر کی ہے اور بنی آدم کے مردوں

اور عورتوں کا میراث میں جو حصہ مقرر کیا ہے اس میں وہ چیز بیان کر دی ہے جو باطل پرستوں کی غلط دسیوں کو دور کر دے اور آئندہ نسلوں کے گمان اور شبہات کو زائل کر دے۔ بل سولت لکم

انفسکم فصبرٌ جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ (سورہ یوسف آیت ۱۸)

بے شک تمہارے نفسوں نے تمہارے سامنے ایک امر کو خوشنما بنا کر پیش کر دیا ہے۔ پس میرے لئے صبر جمیل ہی مناسب ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو اس پر خدا ہی سے مدد طلب کی جائے گی۔

سربراہ حکومت کا جواب

خدا بھی سچا اور خدا کا رسول بھی سچا اور ان کی بیٹی بھی سچی۔

تم حکمت کا معدن، ہدایت و رحمت کا مسکن، دین کی رکن اور حجت خدا ہو۔ میں آپ کی درست باتوں کو حق سے دور نہیں سمجھتا اور آپ کے کلام کا انکار نہیں کرتا لیکن میرے اور آپ کے درمیان یہ مسلمان ہیں جنہوں نے مجھے حکم بنایا ہے اور میں نے جو کچھ آپ سے چھین کر اپنے قبضے میں لیا ہے وہ ان سب کی متفقہ رائے سے کیا ہے اور میں نے اس میں کوئی بہت دھری نہیں کی اور نہ تمہا اپنی رائے سے کام لیا ہے اور یہ تمام لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔

حضرت سیدۃ کا جواب اور لوگوں کی بے وفائی کا شکوہ

جب سربراہ مملکت نے اپنی تمام ذمہ داری اپنے سر سے اتار کر اپنے ہی خواہوں کے سر پر ڈالی تو حضرت سیدۃ نے اس کے ہی خواہوں سے فرمایا:

اے انہوں کا وہ گروہ جو باطل اختیار کرنے میں جندی کرنے والا ہے اور جسے فعل قبیح کرنے سے کوئی باک نہیں ہے۔ ”افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب الفقالہا“۔ (سورہ محمد آیت ۲۴) کیا تم لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ کلاب بن ران علیٰ قلوبہم (سورہ مطفقین آیت ۱۴) بے شک تمہارے دلوں پر

تمہارے فعل بد کا رنگ چڑھ چکا ہے جس نے تمہارے کانوں اور آنکھوں کو بالکل بیکار کر دیا ہے۔ جو تاویل تم نے کی ہے وہ بہت بری ہے اور جو اشارہ تم نے کیا ہے وہ بہت غواور بدتر ہے اور جسے تم نے حق کے بدلے میں اختیار کیا ہے وہ شرِ عظیم ہے۔

خدا کی قسم! تم اس کے بوجھ کو بہت بھاری اور اس کے انجام کو ہولناک پاؤ گے جب تمہارے سامنے سے پردے ہٹا دیئے جائیں گے اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی مصیبت ظاہر ہو جائے گی اور روز قیامت تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا تمہیں مَن تک نہ ہوگا۔ وخرسرها لک المبتلون (سورہ غافر آیت ۷۸) اس وقت باطل پرست نقصان اٹھائیں گے۔^۱

رسول خدا سے خطاب

خطبہ کے اختتام پر حضرت سیدہ نے اپنے والد ماجد کی قبر مطہر کی طرف رخ کر کے یہ شعار پڑھے۔

قد کان بعدک انباء و ہنبتہ	لو کنت شاہدہا لم تکثر الخطب
انا فقدناک فقد الارض و ابلہا	و اختل قومک فاشہدہم ولا تغ
و کل اهل له قریئ و منزلة	عند الا له علی الاذنین مقترب
ابدت رجال لنا نجوی صدورہم	لما مضیت و حالت دونک الترب
تجہمتنا رجال و استخف بنا	اذ عبت عنا فنحن الیوم نعتصب
و کنت نوراً و بدرأ یتستاء بہ	علیک تنزل من ذی العزۃ الکتب
وکان جبریل بالآیات یؤنسنا	فقد فقدت فکل الخیر محتجب
فیت قبلک کان الموت حل بنا	اما اناس ففازوا بالذی طلبوا
انا رزینا بما یرزن ذو شجن	من البریۃ لا عجم و لا عرب

۱۔ مذکورہ خطبہ کے حوالہ جات کے لئے جو شیعہ اور سنی طریقوں سے مروی ہیں کتاب ریاضین الشریعہ ج ۱ ص ۳۱۱ کا مطالعہ کیا جائے۔ (مترجم فارسی)

اباجان! آپ کے بعد (برے) حالات اور فتنے پیدا ہوئے اور گونا گوں آوازیں بند ہوئیں۔ اگر آپ موجود ہوتے تو یہ مصائب جنم نہ لیتے۔ ہم نے آپ کو ایسے کھویا ہے جیسے زمین اپنے برسنے والے بادل کے پانی کو کھودیتی ہے اور اس کی برکت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم بھی آپ کی برکت سے محروم ہو چکے ہیں اور آپ کی امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ آپ خود آکر دیکھیں کہ انہوں نے راہ حق سے انحراف کر لیا ہے۔ پیغمبروں اور بزرگوں کے ہر خاندان کا خدا کے ہاں مقام ہے اور دوسروں کی نگاہوں میں محترم شمار ہوتا ہے۔ آپ کے بعد لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے کینے کھل کر سامنے آگئے اور جب سے آپ کے اور ہمارے درمیان مٹی حائل ہوئی ہے لوگوں نے ہم سے ترش روئی اختیار کر لی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد ہمیں حقیر سمجھ لیا گیا اور آج ہمارے حقوق غصب ہو رہے ہیں۔

اباجان! آپ دنیا کے لئے روشنی اور چودھویں کا چاند تھے جس سے روشنی صب کی جاتی تھی اور صاحب عزت خدا کی طرف سے آپ پر کتاب آسمانی نازل ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی میں جبرئیل آیات لا کر ہمیں مانوس رکھتے تھے اور جب سے آپ رخصت ہوئے ہیں تو تمام اچھائیاں بھی چھپ گئی ہیں۔

کاش! ہمیں آپ سے پہلے موت آگئی ہوتی۔ آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے اپنے مقصد حاصل کر لئے ہیں۔ ہم اس مصیبت سے دوچار ہوئے ہیں جس سے دنیا میں آج تک کوئی دوچار نہیں ہوا اور کسی عربی و عجمی کو ایسی مصیبت سے کبھی سابقہ نہیں پڑا۔

کتاب ”الدر النظیم“ میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ نے درج بالا اشعار کے بعد یہ تین شعر بھی پڑھے تھے:

قد كنت ذا حمية ما عشت لي امشى البراح و انت كنت جناحى
فاليوم اخضع للدليل و اتقى منه و ادفع ظالمى بالراح
و اذا بكت قمرية شجنا لها ليلا على غصن بكيت صباحى

اباجان! جب تک آپ زندہ تھے تو میں حامی اور یاور رکھتی تھی اور میں بوؤں میں باعزت چھا کرتی تھی۔ آپ میرے لئے بال و پر کی مانند تھے۔ لیکن آج مجھے ذلیل کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے اور میں اس سے ڈرتی ہوں اور اپنے ہاتھ سے ظالم کو روکتی ہوں۔ رات کے وقت قمری سوز و گداز کی وجہ سے کسی درخت پر بیٹھ کر روتی ہے اور میں صبح کے وقت روتی ہوں۔

شیخ مفید نے کتاب امالی میں اپنی سند سے حضرت زینب بنت امیر المومنینؓ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت سیدہ، ابوبکر کے جواب سے مایوس ہو گئیں تو رسول خداؐ کی قبر پر گئیں، اپنے آپ کو قبر اطہر پر گرا دیا اور قوم کے ظلم کی ان سے شکایت کی اور اتاروائیں کہ قبر رسول کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہوگئی۔ اس کے بعد آپ نے ”قد کان بعدک“ کا مرثیہ پڑھا۔

گھر واپسی اور شوہر سے گفتگو

علامہ طبری احتجاج میں رقم طراز ہیں کہ حضرت سیدہ خطبہ دینے اور مرثیہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائیں جہاں امیر المومنینؓ آپ کی واپسی کے منتظر تھے۔

جب آپ گھر میں آئیں تو آپ نے بڑے دردمندانہ لہجے میں کہا:

يا بنی ابی طالب استملت شملة الجنین و قعدت حجرة الظننن، نقضت قادمة الاجدل فخانک ریش الاعزل، هذا ابن ابی قحافة یتزنی و بلغة ابنی، و بلغة ابنی لقد اجهر فی خصامی، والفینه الذی فی کلامی حتی حسبتنی القيلة نصرها (الانصار) و المهاجرة وصلها و غصت الجماعة دونی طرفها، فلا دافع ولا مانع...

اے فرزند ابوطالب! آپ ایک جنین کی طرح پردہ نشین ہو گئے اور ایک مہتمم کی طرح سے گھر میں بیٹھ رہے۔ آپ نے شاہبازوں کے پر توڑے ہیں اور اب کمزور پرندوں کے پر آپ سے خیانت کرنے لگے ہیں۔

یہ ابوقحافہ کا بیٹا میرے والد کے بہہ اور میرے بچوں کا رزق مجھ سے چھین رہا ہے اور

اس نے کھل کر مجھ سے دشمنی کی ہے اور میں نے اسے اپنا بدترین دشمن پایا ہے۔ اب ہماری مظلومیت کی یہ حالت ہے کہ انصار نے اپنی مدد ہم سے روک لی ہے، مہاجرین نے ہم سے تعذبات منقطع کر لئے ہیں اور لوگوں نے ہماری مدد سے چشم پوشی اختیار کر لی ہے۔ اب نہ تو کوئی دفاع کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی روکنے والا ہے۔ میں اپنے غصے کو ضبط کر کے گھر سے گئی تھی اور ستم رسیدہ بن کر واپس آئی ہوں۔ آپ نے اسلام کی مصلحت کی خاطر جس دن سے تلوار نیام میں کر لی، اس دن سے اپنے آپ کو خانہ نشین بنالیا، اس سے قبل آپ بھیڑیوں کو پھڑا کرتے تھے اور اب کیوں خاک نشین بن گئے۔ آپ نے کسی بداندیش گفتگو کرنے والے کو نہ روکا اور کسی باطل کو دور نہ کیا جبکہ میرے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ہائے کاش! میں اس توہین و تذلیل سے قبل مر گئی ہوتی۔ میں بارگاہِ خداوندی میں آپ سے معذرت طلب ہوں ہر صبح میرے لئے افسوس (کا پیغام لے کر طلوع ہوتی ہے)۔ ہمارا سہارا اس دنیا سے چلا گیا اور بازو کمزور ہو گیا۔ میں رب کے حضور اپنے ظلم کے خلاف شکوہ کروں گی اور اس بے دادگری کی شکایت اپنے والد کی خدمت میں کروں گی۔

اے پروردگار! تو ہی سب سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے والا ہے اور تیرا عذاب اور تیری سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ میں تجھ سے ہی انصاف طلب کرتی ہوں۔

حضرت امیرؓ کی طرف سے سیدہ کی دل جوئی

امیر المؤمنین نے اپنی زوجہ مطہرہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

لا ویل علیک الویل لسانک الی آخرہ.

آپ پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ آپ کے دشمن پر افسوس ہے۔

اے دخترِ پیغمبرؐ اور بقیہ نبوت! جوشِ غم سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ میں نے اپنی مسئولیت کی ادائیگی میں کوئی سستی نہیں کی اور جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے اس میں کوئی کمی

نہیں کی۔ اس میں مطالبے سے آپ کا مقصد اپنا اور اپنے بچوں کے رزق کا حصول ہے تو مت گھبرائیں۔ آپ کے رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے اور رزق کا کفیل (خدا) قابل اعتماد ہے۔ لوگوں نے آپ سے جو کچھ چھینا ہے اللہ نے اس سے کئی گنا بہتر اجر آپ کے لئے تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ خدا پر بھروسہ کریں۔

یہ سن کر حضرت سیدہ نے کہا: اللہ ہی میرے لئے کافی ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گئیں۔

ابلیت طاہرین کے خلاف جسارت

علامہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں احمد بن عبدالعزیز جوہری (سنی عالم) کی

کتاب المستفید کے حوالے سے رقم طراز ہیں

جب سربراہ حکومت نے حضرت زہراء کا یہ خطبہ سنا اور یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ سیدہ کی حمایت میں ان کے فیصلے پر تنقید کرنے لگے ہیں تو انہیں یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں عوام الناس ان کی حکومت کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں تو وہ منبر پر گئے اور انہوں نے کہا:

ایہا الناس ماہدہ الرعة الی کل قالہ .. الی آخرہ.

اے لوگو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہر بات کو سننے لگ جاتے ہو؟ بھلا یہ آرزو میں رسول

خدا کے عہد میں کہاں تھیں؟

خبردار! جس نے سنا ہو وہ کہے اور جو موجود ہو وہ بات کرے۔ وہ تو لازمی ہے جس کی گواہ اس کی دم ہے جو ہر فتنہ و آشوب کے ساتھ آلودہ ہے اور اس کا گواہ وہ ہے جو ہرج و مرج کے کہنے ہونے کے بعد اسے واپس لانا چاہتا ہے اور اس کام کے لئے کمزور افراد اور عورتوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ اس کی مثال ”ام طحال“ کی سی ہے جس کے خاندان اور رشتہ داروں کی نظر میں فسق و فجور ہی محبوب چیز تھی۔

لوگو! ہوش میں آؤ اگر میں چاہوں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اور اگر میں کہنے پر

آجوں تو بہت کچھ واضح کر سکتا ہوں لیکن جب تک لوگ مجھے کچھ نہ کہیں گے اس وقت تک میں بھی خاموش رہوں گا۔

پھر انہوں نے انصار کی طرف رخ کیا اور کہا: تمہارے احمق افراد کی باتیں مجھ تک پہنچی ہیں جبکہ رسول خدا کے عہد کی پاسداری کرنے کے تم لوگ زیادہ حقدار ہو کیونکہ آنحضرتؐ تمہارے پاس تشریف لائے تھے اور تم نے ہی انہیں رہائش فراہم کی اور ان کی مدد کی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ جو لوگ خاموش رہیں گے میں بھی ان کے خلاف اپنے ہاتھ اور زبان کو استعمال میں نہیں لاؤں گا۔ پھر وہ منبر سے اترے اور فاطمہ بھی اپنے گھر چلی گئیں۔^۱

اس کے بعد ابن ابی الحدید لکھتے ہیں:

میں نے یہ کلام نقیب ابو یحییٰ جعفر بن یحییٰ بن ابی زید بصری کے سامنے پڑھا اور ان سے کہا: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے یہ کناہ کس کے لئے استعمال کیا تھا؟ انہوں نے کہا: تمہیں مغالطہ ہوا ہے انہوں نے کسی طرح کا کناہ نہیں کیا، انہوں نے تو وضاحت کے ساتھ اپنے مافی الضمیر کا اظہار کیا تھا۔

میں نے کہا: اگر وہ صراحت سے کہہ دیتے تو مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔

یہ سن کر وہ مسکرائے اور کہا: یہ سب کچھ انہوں نے علی ابن ابی طالب کے متعلق کہا تھا۔

میں نے کہا: کیا ایسی نازیبا گفتگو بھی علیؑ کے متعلق کی جاسکتی ہے؟

انہوں نے کہا: بیٹا! یہ حکومت ہے اس میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اس میں اپنے

اور بیگانے کو نہیں دیکھا جاتا۔

میں نے کہا: بھلا حضرت ابوبکر کے متعلق انصار نے کیا کہا تھا؟

انہوں نے کہا: انصار میں سے کچھ افراد نے حضرت علیؑ کی حقانیت کا برسراِ م تذکرہ

۱۔ شرح صحیح البلاغہ ابن حدید طبع، جدید، جلد ۱۶۔ ص ۲۱۵

یہ تھا۔ جس سے حضرت ابو بکر گھبرا گئے تھے اور انہیں مذکورہ جملے کہنے پڑے۔ بعد ازاں میں نے خطبہ کے مشکل الفاظ کی تشریح پوچھی تو انہوں نے اس کے تمام الفاظ کی تشریح کی۔

ام المؤمنین در دفاع زہراً

شیخ جمال الدین یوسف بن حاتم فقیہ شامی اپنی کتاب ”الدر النظیم“ میں رقم طراز ہیں:

جب ام المؤمنین ام سلمہ کو حضرت ابو بکر کے یہ الفاظ معلوم ہوئے تو انہوں نے فرمایا:

المثل فاطمة بنت رسول الله يقال هذا القول ... الى آخره.

یہاں ایسی گفتگو رسول خدا کی دختر فاطمہ زہرا کے متعلق کی جا رہی ہے؟

خدا کی قسم! وہ انسانی صورت میں حور ہیں، وہ جان رسول ہیں، ان کی تربیت پر میزگار

گودیوں میں ہوئی، ملائکہ کے ہاتھ ان کے جسم سے مس ہوئے اور طیب و طاہر آغوشوں میں وہ پروان چڑھیں، بہترین طریقے پر ان کی نشوونما ہوئی اور ان کی تربیت بہتر انداز میں کی گئی۔

کیا تم سمجھتے ہو کہ رسول خدا نے انہیں اپنی میراث سے محروم کر دیا تھا اور انہیں اس

کے متعلق بتایا بھی نہ تھا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وانذر عشیرتک الاقربین۔ (سورہ شعرا آیت ۲۱۴) یعنی آپ اپنے قریبی

رشتہ داروں کو ڈرائیں۔

تو اس آیت کے ہوتے ہوئے رسول خدا نے اپنی بیٹی کو ڈرایا تھا اور کیا یہ بات تصور

میں بھی آتی ہے کہ رسول خدا کے سمجھانے کے بعد فاطمہ نے فرمان رسول کی خلاف ورزی کی؟

(اور ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ وہ تمام عورتوں کی سردار ہے اور وہ جوانان جنت کے

سرداروں کی ماں ہے۔ وہ مثیلہ مریم ہے۔ اس کے والد کے ذریعے سے خدا کی رسالتوں کا

اختتام ہوا۔ خدا کی قسم! رسول خدا اپنی بیٹی کو سردی گرمی سے بچاتے تھے اور آپ اپنے دائیں

۱۔ مذکورہ تفسیر کے لئے ہماری ترجمہ شدہ کتاب ”فاطمہ زہرا از ولادت تا شہادت“ مطالعہ فرمائیں۔

باتھ کو بنی کا سر ہاند بنایا کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کو بنی کے سینے پر بطور لحاف رکھتے تھے۔
 ٹھہرے رہو تم لوگ رسول خدا کے سامنے ہو اور وہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ تمہیں
 خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ تم پر افسوس! عنقریب اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ لو گے۔
 جب حکمران طبقے نے ام المومنین ام سلمہ کی یہ گفتگو سنی تو انہوں نے ان کے اس
 سال کا وظیفہ بند کر دیا۔

حضرت سیدہ اور حاکم کی گفتگو

ابن ابی الحدید نے جوہری کی کتاب ”السقیفہ“ سے نقل کیا:
 حضرت فاطمہ نے ابو بکر سے فرمایا: ام ایمن اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رسول خدا
 نے فدک مجھے ہیہ کیا تھا۔

حضرت ابو بکر نے کہا: دختر رسول خدا! خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی بھی
 مجھے آپ کے والد سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ میری تمنا تھی کہ جس دن آنحضرت کی وفات ہوئی
 اسی دن آسمان زمین پر گر پڑتا۔

خدا کی قسم! اگر عائشہ غریب ہو جائے تو اس کا غریب ہونا مجھے آپ کے غریب
 ہونے سے زیادہ عزیز ہے اور کیا آپ یہ تصور بھی کر سکتی ہیں کہ میں ہر سیاہ و سفید کا حق تو ادا کر
 رہا ہوں اور میں آپ کے حق کے لئے آپ پر ظلم کروں گا؟

میں جانتا ہوں کہ آپ رسول خدا کی بیٹی ہیں لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ فدک
 رسول خدا کا ذاتی مال نہ تھا۔ یہ مسلمانوں کا مال تھا اور پیغمبر اکرم اس مال سے لوگوں کو جہد میں
 بھیج کرتے تھے یا خدائی کاموں اور رفاہ عامہ کے کاموں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم
 کے بعد معاملات کی باگ ڈور میرے ہاتھوں میں ہے اور میں اس مال کا سرپرست ہوں۔
 حضرت فاطمہ نے فرمایا: خدا کی قسم! اس کے بعد میں تم سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔

حضرت ابو بکر نے کہا: خدا کی قسم! میں آپ سے ہرگز دوری اختیار نہیں کروں گا۔
 حضرت فاطمہ نے فرمایا: خدا کی قسم! اس کے بعد میں تمہارے لئے بددعا کروں گی۔
 جب حضرت فاطمہ مرض موت میں مبتلا ہوئیں تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ ابو بکر
 ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔

اسی وصیت کی وجہ سے بی بی کورات کے وقت دفن کیا گیا تھا اور بی بی کا جنازہ
 آنحضرت کے چچا حضرت عباسؓ نے پڑھا۔ بی بی اور ان کے والد کی وفات کے درمیان
 بہتر (۷۲) راتوں کا فاصلہ تھا۔

”لا وارثی“ حدیث کے متعلق جاہظ کی فیصلہ کن گفتگو

ابو عثمان جاہظ بصری متوفی در حدود (۷۷۵-۷۶۸ھ) اہلسنت کے بہت بڑے عالم
 اور مفکر تھے اور ادب و تاریخ میں انہیں سند کا درجہ حاصل تھا، سید مرتضیٰ علم الہدی نے ان کا یہ
 قول نقل کیا ہے:

لوگ یعنی صحابہ نے لا وارثی حدیث کو اس لئے درست تسلیم کیا تھا کہ حضرات ابو بکر و
 عمر نے رسول خدا سے یہ روایت کی تھی کہ ”ہم گروہ انبیاء نہ تو کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ
 ہی کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔“ شیخین نے مذکورہ گفتگو کی نسبت
 آنحضرت کی طرف کی تھی، اسی لئے مسلمانوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا اور انہوں نے اس
 بات کو قبول کیا تھا۔

لیکن اس طرز استدلال کے شیدائیوں سے ہم یہ کہیں گے کہ اگر صحابہ کی خاموشی شیخین
 کی صداقت کی دلیل ہے تو صحابہ کا علیؓ و فاطمہ کے مطالبے پر کسی قسم کا احتجاج نہ کرنا بھی علیؓ و
 فاطمہ کی صداقت کی دلیل ہے کیونکہ کسی صحابی نے علیؓ و فاطمہ کی تکذیب نہیں کی تھی اور یہاں

۱- شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، ج ۱۶، ص ۲۱۳۔

یہ امر بھی قابل غور ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے باقاعدہ مباحثہ کیا تھا اور ان دونوں کے درمیان نزاع نے اس قدر طول کھینچا کہ بی بی کو یہ وصیت کرنا پڑی کہ ان کے جنازے میں ابو بکر شامل نہ ہوں۔

حضرت فاطمہ نے ابو بکر سے کہا تھا: تیرے مرنے کے بعد تیری میراث کون لے گا؟
حضرت ابو بکر نے کہا: میری اولاد اور میرا خاندان میری میراث پائے گا۔

حضرت فاطمہ نے کہا بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم تو پیغمبر کی میراث سے محروم رہیں اور تیری اولاد تیری میراث حاصل کرے۔

جب حضرت فاطمہ کی میراث حضرت ابو بکر نے ضبط کر لی اور اس کے لئے انہوں نے مختلف حیلے بہانے کئے اور بی بی نے اس ظلم کا مشاہدہ کیا اور اس کے ساتھ اپنی پریشانی اور بے یادری کو محسوس کیا تو انہوں نے کہا: خدا کی قسم! میں تجھے بددعا دوں گی۔

حضرت ابو بکر نے کہا خدا کی قسم! میں آپ کے لئے دعائے خیر کروں گا۔

حضرت فاطمہ نے کہا: خدا کی قسم! اس کے بعد میں تجھ سے ہرگز کلام نہ کروں گی۔

حضرت ابو بکر نے کہا: خدا کی قسم! میں آپ سے دوری اختیار نہیں کروں گا۔

لہذا اگر صحابہ کی طرف سے حضرت ابو بکر پر اعتراض کا نہ ہونا ان کی صداقت کی دلیل ہے تو پھر اس دلیل کے تحت صحابہ کی طرف سے حضرت فاطمہ پر اعتراض کا نہ ہونا بھی بی بی کی صداقت کی دلیل ہے۔

اس سلسلے میں صحابہ پر کم از کم یہ ذمہ داری تو عائد ہوتی تھی کہ اگر بالفرض بی بی اہم تھیں تو صحابہ انہیں بتا دیتے یا اگر بی بی کو ان کے والد کی حدیث یاد نہ رہی تھی تو صحابہ انہیں یاد کرا دیتے اور اگر خدا نخواستہ بی بی غلط دعویٰ کر رہی تھیں تو صحابہ کا حق بنتا تھا کہ بی بی کی مخالفت کر کے انہیں راہ راست پر لے آتے۔

نتیجہ یہ ہے کہ اگر باغرض کسی نے شیخین پر اعتراض نہیں کیا تو اسی طرح سے کسی صحابی

نے حضرت فاطمہؑ پر بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ لہذا صحابہ کی خاموشی کو کسی بھی فریق کی صداقت کی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اس مسئلے کا آخری اور صحیح حل صرف اور صرف یہی رہ جاتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور قرآن مجید کی آیات میراث سے رہنمائی حاصل کرنی چاہئے اور اسی میں ہم سب کی بہتری کا راز مضمر ہے۔

ایک اہم سوال

جاہل اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہتے ہیں:

اگر اس مقام پر کوئی شخص حضرت ابوبکر کے دفاع میں یہ کہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہؑ کو کس طرح سے اذیت دی جبکہ حضرت فاطمہؑ ان سے تند و تلخ لہجے میں گفتگو کرتی رہیں اور اس کے جواب میں حضرت ابوبکر نے انتہائی دھیما لہجہ اختیار کیا۔ حالانکہ وہ اس وقت سربراہ حکومت تھے اور ہر سربراہ کو اپنی حکومت کی دھاک قائم کرنے کے لئے کچھ سختی اور درستی کی ضرورت ہے جبکہ ہم اس قضیہ میں یہاں تک دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے منبر پر حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد مہاجرین و انصار سے کچھ کھینچ بھری ہوئی تھی اور اس محفل میں حضرت فاطمہؑ نے ان کی دل آزاری کی لیکن حرمت پیغمبر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضرت ابوبکر نے اپنی توہین کو نظر انداز کر دیا اور بالکل دھیمے لہجے میں معذرت خواہانہ گفتگو کرتے رہے۔

مثلاً حضرت فاطمہؑ نے کہا: میں تجھ سے آئندہ بات نہیں کروں گی۔

جواب میں حضرت ابوبکر نے کہا: مگر میں آپ سے دوری اختیار نہیں کروں گا۔

حضرت فاطمہؑ نے کہا: میں تجھے بددعا دوں گی۔

جواب میں حضرت ابوبکر نے کہا: مگر میں آپ کے لئے دعائے خیر کروں گا۔

درج بالا گفتگو اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ حضرت ابوبکر نے کسی طرح سے بھی

حضرت فاطمہ کو اذیت نہیں دی۔ انہوں نے تو ان کے سامنے صرف ان کے والد کی حدیث پڑھی تھی کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ آخر حدیث بیان کرنے میں اذیت کا کون سا پہلو مضمر ہے؟

جواب بزبان جاہظ

اگر کوئی شخص ہم سے درج بالا سوال کرے تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ: کسی شخص کا نرمی و ملاحظت کا رویہ اس بات کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتا کہ وہ ظالم ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ظالم اور فریبی اشخاص بھی مکرو فریب کرتے ہوئے دھیما بھج اختیار کریتے ہیں اور ظالم ہوتے ہوئے بھی مظلومیت کا پیراہن پہن لیتے ہیں۔ ظلم کرنے والا شخص اگر عاقل و ہوشیار ہو تو وہ اپنی نرم اور شائستہ گفتگو سے اپنے آپ کو عادل و منصف کے روپ میں ظاہر کرتا ہے۔^۱ (اتھی قول الجاہظ)۔

لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا

دو مشہور مورخ یعنی طبری اور ثقفی اپنی تاریخ میں رقم طراز ہیں:

حضرت عثمان کے عہد حکومت میں حضرت عائشہ ان کے پاس آئیں اور ان سے کہا میرے والد ابوبکر اور ان کے بعد عمر مجھے مخصوص وظیفہ دیتے تھے لہذا تم بھی مجھے وہ وظیفہ دو۔

جواب میں حضرت عثمان نے کہا: ابوبکر و عمر اپنی خواہشات کے تحت آپ کو کچھ دیا کرتے تھے لیکن مجھے کتاب و سنت میں ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی جس کے تحت میں آپ کا مخصوص وظیفہ جاری رکھوں لہذا میں ایسا نہیں کروں گا۔

حضرت عائشہ نے کہا: رسول خدا سے میری جو میراث بنتی ہے تم مجھے وہ میراث

ہی دے دو۔

۱۔ حضرت ابوبکر کی نرم گفتگو کا ہندو راہینے والوں کو ان کی وہ گفتگو بھی ذہن نشین کرنی چاہئے جسے ہم نے ابن ابی الحدید کے حوالے سے سابقہ صفحات میں نقل کیا ہے اور مذکورہ گفتگو کے متعلق نقیب ابو جعفر کے تبصرے کو بھی غور سے پڑھنا چاہئے۔ (از مترجم فارسی)

حضرت عثمان نے کہا: تو کیا تمہیں یہ بات بھول گئی ہے کہ فاطمہ تمہارے والد کے پاس آئی تھیں اور انہوں نے رسول خدا کی میراث کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت تم نے اور مالک بن اوس نے یہ گواہی دی تھی کہ پیغمبر کی سرے سے میراث ہی نہیں ہوتی۔ تم نے اس گواہی سے فاطمہ کی میراث باطل کر دی تھی اور اب میرے پاس آ کر مجھ سے میراث طلب کر رہی ہو؟ میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔

طبری مزید لکھتے ہیں: اس وقت عثمان تکلیف کا سہارا لے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ کی بات سنی تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا: کیا تو وہی نہیں ہے جس نے اپنے پیشاب سے وضو کرنے والے بدو کے ساتھ اپنے والد کے سامنے یہ گواہی دی تھی کہ پیغمبروں کی کوئی میراث نہیں ہوتی؟

تاریخ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہی

شیخ مفید کتاب اختصاص میں لکھتے ہیں:

عبداللہ بن سنان نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب رسول خدا کی وفات ہوئی اور ابوبکر ان کی جگہ مسند نشین ہوئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا کے فدک کے ذکیل کو بے دخل کر دیا۔

حضرت فاطمہ ان کے پاس آئیں اور فرمایا: ابوبکر! تم میرے والد کے قائم مقام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کی جگہ پر بیٹھ گئے ہو اور تم نے اپنا ایک ملازم بھیج کر فدک سے میرے ذکیل کو بے دخل کیا ہے جبکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ رسول خدا نے مجھے فدک بہہ کیا تھا اور میرے پاس بہہ کے گواہ بھی موجود ہیں۔

اس کے جواب میں ابوبکر نے کہا: انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔

حضرت فاطمہ اپنے شوہر کے پاس آئیں اور انہیں ابوبکر کے جواب سے مطلع کیا۔

حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہؑ سے کہا: آپ ابو بکر کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ اگر انبیاء کی میراث ہی نہیں ہوتی تو قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ کیوں مذکور ہے کہ سلیمان، داؤد کے وارث بنے اور حضرت زکریا کی دعا کیوں مذکور ہے کہ اے پروردگار! مجھے فرزند عطا فرما جو میری میراث پائے اور آل یعقوب کی جو میراث مجھے پہنچی ہے وہ اسے بھی حاصل کرے۔

لہذا اگر سلیمان، داؤد کے وارث ہو سکتے ہیں اور یحییٰ اپنے والد زکریا کی میراث حاصل کر سکتے ہیں تو میں اپنے والد کی میراث کیوں حاصل نہیں کر سکتی؟

حضرت فاطمہؑ آئیں اور انہوں نے یہ دلیل پیش کی۔

عمر نے کہا: تمہیں تعلیم دی گئی ہے اور تعلیم دینے والے نے تمہیں سکھایا ہے۔ دلیل کو کس طرح سے بیان کرتا ہے۔

حضرت فاطمہؑ نے فرمایا: اگر میرے شوہر اور ابن عم تعلیم دیں تو آخر اس میں عیب ہی کیا ہے؟

ابو بکر نے کہا: عمر اور عائشہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے رسول خداؐ سے سنا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔“

حضرت فاطمہؑ نے فرمایا: هذا اول شهادة زور شہدا بھا فی الاسلام. یعنی یہ اسلام میں پہلی جھوٹی گواہی ہے جو ان دونوں نے دی ہے۔

علیؑ اور ام ایمنؑ کی گواہی

پھر حضرت فاطمہؑ نے فرمایا: فدک کی جاگیر میرے والد نے مجھے عطا کی تھی اور اس کے لئے میرے پاس ”بینہ“ (دو عادل گواہ) موجود ہیں۔

ابو بکر نے کہا: آپ اپنے گواہ پیش کریں۔

حضرت فاطمہ نے حضرت علیؑ اور ام ایمنؑ کو بطور گواہ پیش کیا۔

ابوبکر نے ام ایمنؑ سے کہا: تم نے رسول خداؐ سے فاطمہ کے بارے میں کیا سنا ہے؟
ام ایمنؑ اور حضرت علیؑ نے کہا: ہم نے پیغمبر اکرمؐ سے سنا ہے فاطمہ سیدۃ نساء
اہل الجنة۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔

پھر ام ایمنؑ نے کہا: جو بی بی خواتین جنت کی سردار ہو وہ کسی کے مال پر ناجائز دعویٰ
نہیں کر سکتی اور میں خود بھی خواتین جنت میں سے ایک ہوں اسی لئے جو چیز میں نے رسول خداؐ
سے نہ سنی ہوگی وہ چیز کبھی بیان نہیں کروں گی۔

عمر نے کہا: ان چیزوں کو رہنے دو۔ اب یہ بتاؤ کہ تم فاطمہ کے متعلق کیا گواہی دیتی ہو؟
ام ایمنؑ نے کہا: ایک دن میں حضرت فاطمہؑ کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور رسول خداؐ
بھی وہاں تشریف فرما تھے کہ جبریلؑ نازل ہوئے اور انہوں نے آنحضرتؐ سے کہا کہ ”محمدؐ!
انھیں اور میرے ساتھ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے پروں سے جاگیر فدک
کی حد بندی کروں۔“

رسول خداؐ اٹھے اور جبریلؑ کے ساتھ چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ واپس آئے تو
حضرت فاطمہ نے ان سے پوچھا تھا کہ ابا جان! آپ کہاں گئے تھے؟
پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا تھا: جبریلؑ نے اپنے پروں سے میرے لئے فدک کی حد بندی
کی ہے اور اس کے تمام حدود متعین کئے ہیں۔

حضرت فاطمہ نے اس وقت کہا تھا کہ ابا جان میں آپ کے بعد اپنی اقتصادی
ضروریات کی فکر کرتی ہوں آپ میری ضروریات پورا کرنے کے لئے فدک مجھے بہہ کر دیں۔
پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا تھا: میں جاگیر فدک تمہارے اختیار میں دیتا ہوں۔
اس فرمان کے بعد فاطمہ نے جاگیر فدک میں تصرف کیا تھا۔

پھر ام ایمنؑ نے کہا کہ رسول خداؐ نے جاگیر فدک بہہ کرنے کے بعد مجھے اور علیؑ

دونوں سے فرمایا تھا کہ تم دونوں بہہ فدک کی گواہی دینا۔ (لہذا ہم گواہی دے رہے ہیں)۔

عمر نے کہا: تو ایک عورت ہے اور ہم ایک عورت کی گواہی کو قبول نہیں کر سکتے اور عیٰ کی گواہی بھی اس لئے قابل قبول نہیں ہے کہ اس کی گواہی سے خود اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔

(یہ سن کر) فاطمہ ناراض ہو کر اٹھیں اور بارگاہِ خداوندی میں عرض کی: اے پروردگار!

ان دو افراد نے تیرے نبیؐ کی بیٹی پر ظلم کیا اور اس کا حق چھین لیا، ان سے سخت بدلہ لے۔

پھر آپ ابو بکر کے پاس سے اٹھ کر چلی آئیں۔

حضرت علیؑ اپنی زوجہ کو رات کے وقت گدھے پر سوار کیا کرتے تھے اور انہیں ساتھ

لے کر مسلسل چالیس دن تک مہاجرین و انصار کے دروازوں پر لے گئے اور لوگوں کو اپنی مدد و

حمایت کی دعوت دیتے رہے۔

سند فدک کا ٹکڑے ہونا

اس روایت کو نقل کرنے سے قبل میں (مؤلف) عرض کرتا ہوں کہ یہ روایت ہماری

نظر میں درجہ اعتبار کی حامل نہیں ہے مگر چونکہ علامہ مجلسی نے اسے بحار الانوار میں نقل کیا ہے اسی

نئے ہم بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے اسے یہاں نقل کر رہے ہیں۔

مذکورہ روایت کا ایک حصہ کچھ یوں ہے:

حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہؑ سے فرمایا: جب ابو بکر تمہارا ہوں تو آپ ان کے پاس

جائیں کیونکہ وہ اپنے ساتھی کی نسبت زیادہ نرم ہیں اور جا کر کہیں کہ تم میرے والد کی جانشینی کا

دعویٰ کرتے ہو اور تم ان کی مسند پر بیٹھے ہو لہذا اگر بالفرض فدک تمہارا ہی ہے تو بھی میں تم سے

اس کا مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ جائیداد مجھے دے دو۔

حضرت فاطمہؑ، ابو بکر کے پاس گئیں اور مذکورہ الفاظ کہے۔ ابو بکر نے کہا: آپ

درست کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک کاغذ طلب کیا اور فدک واپسی کی تحریر لکھ دی اور وہ تحریر

حضرت فاطمہؑ کے حوالے کی۔

حضرت فاطمہؑ وہ تحریر لے کر ابو بکر کے پاس سے آ رہی تھیں کہ راستے میں ان کی ملاقات عمر سے ہوئی اور انہوں نے اس سند کے متعلق پوچھا تو حضرت فاطمہؑ نے فرمایا: یہ فدک واپسی کا حکم نامہ ہے جو ابو بکر نے میرے لئے تحریر کیا ہے۔

عمر نے سند واپس کرنے کا مطالبہ کیا حضرت زہراؑ نے سند واپس کرنے سے انکار کیا۔ آخر کار عمر نے سختی کی اور سند کو ان سے لے کر اس کے ٹکڑے کر دیئے۔ اس سختی اور درشتی کے وجہ سے بی بی بیمار ہو گئیں اور پچھتر دن بیمار رہنے کے بعد وفات پا گئیں..... وفات کے وقت انہوں نے حضرت علیؑ کو وصیت کی تھی کہ انہیں رات کے وقت دفن کیا جائے اور مذکورہ دو افراد ان کے جنازے میں شامل نہ ہوں اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں۔ پس علیؑ نے ان کی وصیت کے مطابق رات کو انہیں ان کے گھر میں سپرد خاک کر دیا۔

رسول خداؐ کا طرز عمل

سیرت نویس لکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو کہ ہجرت نبوی کے دوسرے سال واقع ہوئی تھی، اس میں دیگر کفار کے علاوہ حضرت خدیجہؓ کا بھانجا ابوالعاص بن ربیعؓ بھی شامل تھے، اور وہ رسول خداؐ کی (رہیبہ) بیٹی حضرت زینبؓ کا شوہر تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور ستر کفار قتل ہوئے اور ستر کے قریب کافر قید ہوئے۔ ان قیدیوں میں حضرت زینبؓ کا شوہر ابوالعاص بھی شامل تھا۔

قیدی کافروں کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ وہ فدیہ دے کر رہائی حاصل کریں۔ ابوالعاص

۱۔ بعثت سے قبل ابوالعاص کی زینبؓ سے شادی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ فتح مکہ سے قبل مدینہ میں رفتار ہو اور اسلام قبول کیا۔ رسول خداؐ نے زینبؓ سے اس کے عقد کی تجدید کی۔ امامہؓ، ابوالعاص اور زینبؓ کی صاحبزادی ہیں کہ جن سے حضرت فاطمہؑ کی وصیت کے مطابق حضرت علیؑ نے شادی کی تھی۔ ابوالعاص کا انتقال ۱۲ھ میں ہوا۔ (اسد الغابہ، ج ۵، ص ۲۳۶)۔ مترجم فارسی۔

کی رہائی کے لئے اس کی بیوی زینب نے ایک گلو بند بھیجا جو انہیں شادی کے موقع پر ان کی والدہ حضرت خدیجہؓ نے دیا تھا۔

جب رسول خدا نے اس گلو بند کو دیکھا تو آپ کو حضرت خدیجہؓ یاد آ گئیں اور آپ نے مسلمانوں سے فرمایا: اگر تم اجازت دو تو ہم ابوالعاص کو آزاد کر دیتے ہیں اور ایک بیٹی کو اس کی ماں کا دیا ہوا گلو بند بھی واپس کر دیتے ہیں۔

مسلمانوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہماری جان و مال آپ پر قربان ہو۔ ہم اس قیدی کو رہا کرنے پر آمادہ ہیں۔

رسول خدا نے ابوالعاص کو فدیہ کے بغیر آزاد کر دیا اور آپ نے وہ گلو بند بھی واپس کر دیا۔
واقعہ مذکورہ کے حوالے سے مشہور سنی عالم ابن ابی الحدید رقم طراز ہیں:

میں نے یہ روایت اپنے استاد ابو جعفر یحییٰ بن ابی زید نقیب کے سامنے پڑھی تو میرے استاد نے کہا:

کیا اس موقع پر ابو بکر و عمر موجود نہ تھے اور کیا انہوں نے رسول خدا کے طرز عمل کا مشاہدہ نہیں کیا تھا؟ اور اگر انہوں نے آنحضرت کے مذکورہ طرز عمل کا مشاہدہ کیا تھا تو انہیں بھی اس سے مہربانی اور ملاحظت کا سبق حاصل کرنا چاہئے تھا اور اس طرز عمل کی روشنی میں ان کا حق بنتا تھا کہ وہ فاطمہ کو فدک دے دیتے اور فدک واپس کر کے فاطمہ کے دل کو خوش کرتے اور اس کا طریقہ بڑا آسان تھا جیسا کہ رسول خدا نے مسلمانوں سے گلو بند کی واپسی کی درخواست کی تھی وہ بھی ایسے ہی کرتے۔ اگر بالفرض حضرت فاطمہ کا حق نہ بھی تھا تو بھی انہیں چاہئے تھا کہ وہ مسلمانوں سے درخواست کرتے کہ فدک تمہاری جاگیر ہے مگر رسول خدا کی پارہ جگر نے اس مطالبہ کیا ہے اگر تم چاہو تو میں فدک آنحضرت کی صاحبزادی کو دیدوں؟ تو کون سا ایسا مسلمان تھا جو انہیں ایسے کرنے سے روکتا؟ مجھے یقین ہے کہ تمام مسلمان خوش ہو کر بی بی کو فدک دے دیتے۔

کیا فاطمہ زہرا کا مقام ان کی بہن زینب سے کم تھا؟ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں اور یہ بخشش بھی اس صورت میں ہوتی کہ بی بی کے نام بیہ فدک ثابت نہ ہوتا۔

ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد نقیب ابو جعفر سے کہا کہ حضرت ابوبکر کی بیوان کردہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فدک مسلمانوں کا حق تھا۔ اسی لئے ابوبکر کے لئے جائز نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کا حق ان سے لے کر فاطمہ کو دے دیتے۔

یہ سن کر میرے استاد نے کہا: ابوالعاص کے فدیہ میں جو گلوبند پیش کیا گیا تھا وہ بھی تو مسلمانوں کا حق تھا۔ اس کے باوجود رسول خدا نے مسلمانوں سے گلوبند لے کر اپنی بیٹی کو واپس کر دیا تھا۔

میں نے کہا: رسول خدا صاحب شریعت تھے، ان کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا تھا جبکہ ابوبکر اس صفت سے محروم تھے۔

میرے استاد نقیب ابو جعفر نے کہا: مگر سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے ابوبکر اتنا تو کر ہی سکتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے درخواست کرتے کہ وہ فدک فاطمہ کو بخش دیں۔ آخر رسول خدا نے بھی تو مسلمانوں سے زینب کے گلوبند کی واپسی کی درخواست ہی کی تھی۔

اگر ابوبکر مسلمانوں سے کہتے کہ اے مسلمانو! تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ تم سے فدک کے چند کھجور کے درخت مانگنا چاہتی ہے کیا تم فدک کی جاگیر انہیں دینے پر آمادہ ہو؟ تو کیا مسلمان نفی میں جواب دیتے؟ ایسا ناممکن تھا۔

میں نے کہا: اتفاق سے قاضی القضاة ابوالحسن عبدالجبار بن احمد نے بھی ایسا ہی کہا تھا۔ نقیب نے کہا: حقیقت یہ ہے کہ شیخین نے بی بی سے بلند نظری اور جوانمردی کا سلوک نہیں کیا اگرچہ انہوں نے وہی طور پر درست کیا تھا۔ (آپنی کلام ابن ابی الحدید)

سید جزوی کے اشعار

سید جزوی نے کیا ہی خوب لکھا تھا:

و اتت فاطمہ تطالب بالار	ث من المصطفى فما وراثها
ليت شعری لم خالفاستن	القرآن فيها واللہ قد ابداهها
نسخت آية المواريث منها	ام هما بعد فرضها بدلاها؟
ام ترى آية المودة لم	تأت بود الزهراء في قرباهها
ثم قالوا ابوك جاء بهذا	حجة من عناد هم نصابها
قالا للانبیاء حکم بان لا	يورثوا في القديم و انتهرهاها
افبت النبي لم تدر ان کا	ن نبي الهدى بذلك فاهها
بضعة من محمد خالفت ما	قال حاشا مولاتنا حاشاهها
سمعتہ يقول ذاک و جاء ت	تطلب الارث ضلة و سفاهها
هی كانت اتقى و كانت	افضل الخلق عفة و نزاهها
سل بابطال قولهم سورة النمل	و سل مريم التي قبل طه
فيهما يبنان عن ارث يحيى	و سليمان من اراد انتباهها
فدعت و اشتكت الى اللہ من ذا	ک و فاضت بدمعها مقلتاها
ثم قالت فنحلة من وا	لدى المصطفى و لم يتخلهاها
فاقامت بها بشهود فقالوا	بعلها شاهد لها و ابنهاها
لم يجيزوا شهادة ابني رسول	اللہ هادی الانام اذ ناصباها
لم يكن صادقا على ولا فا	طمة عندهم ولا ولداهها
اهل بيت لم يعرفوا سنن الجور	التباسا عليهم و اشتباهها

كان اتقى الله منهم عتيق	قبح القائل المحال و شاها
جرعاها من بعد والدها	الغيظ مرارا فبئس ما جرعاها
ليت شعري ما كان ضرهما	حفظا لعهد النبي لو حفظاها
كان اكرام خاتم الرسل لها	دى البشير النذير لو اكرماها
و لكان الجميل ان يعطاها	فد كا لا الجميل ان يقطعاها
اترى المسلمين كانوا يلومو	نهما فى العطاء لو اعطاها
كان تحت الخضراء بنت نبي	صادق ناطق امين سواها
بنت من؟ ام من؟ حليلة من؟	ويل لمن سن ظلمها و اذاها

فاطمہ اپنے والد کی میراث طلب کرنے کے لئے آئیں لیکن انہوں نے میراث نہ دی گئی۔ کاش میں سمجھ سکتا کہ ان دو افراد نے قرآن کے قوانین کی مخالفت کیوں کی، جبکہ اللہ نے تو قانون واضح کر دیا تھا۔

کیا آیت میراث منسوخ ہو گئی تھی یا انہوں نے خود اس میں تبدیلی کر دی؟ اور کیا آیت مودت میں "الا المودة فى القربى" کے ضمن میں زہرا اور ان کے رشتہ دار شامل نہ تھے؟ پھر انہوں نے عداوت کی وجہ سے یہ بہانہ بنایا کہ آپ کے والد نے ایسا کہا تھا کہ "انبياء کی میراث نہیں ہوتی اور ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔" پھر انہوں نے کہا: زمانہ قدیم سے ثابت ہے کہ پیغمبران میراث نہیں چھوڑتے۔ اور اس طرح انہوں نے فاطمہ کی میراث کا انکار کیا۔

عجیب بات ہے اگر مصطفیٰ نے ایسا کہا ہوتا تو بنت مصطفیٰ نے اسے کیوں نہ سنا تھا؟ کیا بنت پیغمبر اپنے والد کی مخالفت کر سکتی تھیں؟ حاشا وکلا ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اگر رسول خدا نے کہا ہوتا تو حضرت زہرا میراث طلب کرنے کے لئے کبھی نہ آتیں۔

حضرت سیدہ، کائنات کی سب سے بڑی پرہیزگار خاتون تھیں اور عفت و تقدس میں

ساری دنیا سے افضل تھیں۔ خود ساختہ قول کی تردید کیسے سورہ نمل موجود ہے اور سورہ مریم جو سورہ ص سے پہلے ہے۔

یہ سورتیں صحیحی اور سنیمان کی میراث حاصل کرنے کی گواہی دیتی ہیں جسے جاننے کا شوق ہو وہ انہیں پڑھ لے۔

سیدہ نے بددعا کی اور خدا کے حضور ظلم کا شکوہ کیا اور آپ کی پلکیں آنسوؤں سے بریز ہو گئیں۔ اس کے بعد سیدہ نے اپنے والد کی بہہ کردہ جاگیر کا مطالبہ کیا مگر اہل حکومت نے وہ جائیداد ان کے حوالے نہ کی۔ بی بی نے بہہ کے گواہ پیش کئے تو کہا گیا کہ اس کے گواہ اس کا شوہر اور اس کے دو بیٹے ہیں۔ (جو قابل قبول نہیں)۔

ان لوگوں نے فرزند ان رسول کی گواہی قبول نہ کی وہ رسول جو باوقار انسانیت ہیں اور ان سے دشمنی کی۔

ان کے نزدیک علی و فاطمہ اور ان کے بیٹے صادق نہ تھے۔ کیا اہلیت پر جنہیں ظلم و جور کی روش سے کوئی واسطہ نہ تھا یہ بات مشتہ ہو گئی تھی؟ ان لوگوں نے بنت پیغمبر کو غصہ کے گھونٹ پلائے اور انہوں نے ایسا کر کے بہت ہی برا کیا۔

اے کاش! اگر وہ عہد رسول کی حفاظت کرتے تو انہیں کیا نقصان ہوتا؟ اور اگر وہ سیدہ کو حق دے دیتے تو یہ رسول خدا کے احترام کے مترادف ہوتا۔ اگر وہ فدک واپس کر دیتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا۔ فدک کا روکن غیر مناسب فعل تھا کیونکہ نیلے آسمان کے نیچے سیدہ کے علاوہ رسول خدا کی کوئی سگی اولاد نہ تھی۔

کم از کم وہ یہ تو دیکھتے کہ بی بی کی بیٹی ہیں اور کس کی ماں ہیں اور کس کی زوجہ ہیں۔ ان پر ظلم کرنے والوں اور انہیں اذیت دینے والوں پر افسوس ہے۔

فرقت نبیؐ پر بی بی کا غم و اندوہ

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پوری کائنات کے لئے سب سے بڑا المیہ تھی۔ آپ کی وفات نے ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت کو یکساں متاثر کیا۔ مدینہ کا پورا شہر گریہ و عزا کے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ لوگوں کی آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہوا اور مدینہ کے ہر کونے سے گریہ و بکا کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ آپ کی وفات سے حجاج بیت اللہ کے احرام باندھنے کا سا منظر پیدا ہو گیا۔ جس طرح سے حجاج احرام باندھ کر روتے ہیں اور ان کے رونے کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی اسی طرح سے اہل مدینہ کے رونے کی آوازوں سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ہر شخص آپ کی موت پر گریہ و بکا کر رہا تھا۔ آنحضرتؐ کی موت جہاں اہل مدینہ کے لئے عظیم صدمہ تھی وہاں آپ کے اہلیت کے لئے قیامت صغریٰ ہوا ہونے کا سبب تھی۔ آپ کی موت امیر المومنینؑ کے لئے صدمہ جانکاہ تھی۔ امیر المومنینؑ پر پڑنے والی یہ مصیبت اگر پہاڑوں پر پڑتی تو وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے۔ آنحضرتؐ کے ناندان کے بعض افراد شدت غم میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز کا ہوش تک نہ تھا اور ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں تک سلب ہو چکی تھیں۔

الغرض رسول خدا سے جس شخص کا جتنا تعلق تھا وہ اس صدمے سے اتنا ہی متاثر ہوا بعض روز رہے تھے، بعض یمن کر رہے تھے اور بعض شدید بے تابی اور جزع و فزع میں مبتلا تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نے جہاں تمام مسلمانوں کو بالعموم اور ان کے خاندان کو بالخصوص متاثر کیا تھا، وہاں سیدہ کے لئے قیامت کبری قائم کر دی تھی۔ حضرت سیدہ کے غم و اندوہ کا اندازہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بی بی کے غم میں ہر روز مسلسل اضافہ ہوتا رہتا تھا، آپ کے گریہ و بکا کی آوازیں روزانہ بلند سے بلند تر ہوتی رہتی تھیں اور آپ کا درد دل روزانہ بڑھتا ہی رہتا تھا۔

بابا کی قبر پر گریہ و بکا

راوی کا بیان ہے کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد سات دن تک حضرت سیدہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ آٹھویں دن پیغمبر اکرم کی قبر کی زیارت کے لئے گھر سے باہر نکلیں، اس وقت آپ کی آنکھوں سے سیلاب اشک رواں تھا۔ آپ کی چادر کا پلو زمین پر گھست رہا تھا اور آپ کی چادر آپ کے پاؤں میں لپٹ لپٹ جاتی تھی۔ شدت گریہ کی وجہ سے آپ کو کچھ دکھائی تک نہ دیتا تھا۔ آپ بڑی مشکل سے اپنے والد علیہ السلام کی قبر پر آئیں۔ جیسے ہی آپ قبر مطہر پر پہنچیں تو قبر منور پر پڑیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ مدینہ کی دوسری مستورات دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آپ کے چہرے پر پانی کے چھینے مارے جس سے آپ ہوش میں آئیں۔ آپ نے رو کر اپنے والد سے یوں خطاب کیا:

اباجان! میری طاقت ختم ہو گئی، میرا صبر جواب دے گیا، میرے دشمن میرے صدمے سے خوش ہیں۔ آپ کی موت کا صدمہ مجھے ہلاک کر دے گا۔

اباجان! میں اکیلی رہ گئی ہوں اور سرگرداں و پریشاں ہوں۔

اباجان! میری آواز خاموش ہو گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، میری زندگی بدمزہ ہو گئی اور میرا

زمانہ مکدر ہو گیا۔

اباجان! آپ کے بعد مجھے کوئی اپنا مونس دکھائی نہیں دیتا اور میرے آنسوؤں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔

پھر آپ نے درمندانہ لہجے میں یہ اشعار پڑھے:

ان حزنی علیک حزن جدید و فوادى واللہ صب عنید
کل یوم یزید فیہ شجونى و اکتیابى علیک لیس یبید
یا ابتاہ! من للارامل و المساکین؟ و من للامة الی یوم الدین؟
یا ابتاہ! امسینا بعدک من المستضعفین یا ابتاہ! اصبحت الناس عنا معرضین
فاى دمة لفراقک لا تنهمل؟ ای حزن بعدک لا یصل؟
و ای حفن بعدک بالنوم یکتحل رمیت یا ابتاہ! بالخطب الجلیل

آپ کا غم ہر وقت میرے لئے تازہ ہے۔ خدا گواہ ہے کہ میرا دل اس سے سخت متاثر ہے۔ ہر روز میرے غموں میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کے فراق کا غم ختم نہیں ہوگا۔

اباجان! آپ کے بعد بیوگان اور مساکین کا مددگار کون ہے اور قیامت تک آپ کی امت کا نگہبان کون ہے؟

اباجان! آپ کے بعد ہمیں کزور بنا دیا گیا اور لوگوں نے ہم سے منہ موڑ لیا۔

اباجان! وہ آنسو ہی کیا جو آپ کی جدائی پر نہ بہے اور وہ غم ہی کیا جو آپ کے بعد ختم ہو جائے۔ آپ کی رحلت کے بعد کون سی آنکھ نیند کا سرمہ لگائے گی۔ اباجان! مجھ پر عظیم مصیبت ٹوٹی ہے۔

اباجان! آپ کی رحلت کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے، آپ کا منبر ویران ہو چکا ہے اور آپ کی محراب سے صدائے مناجات سنائی نہیں دیتی۔ لیکن آپ کی قبر آپ کو اپنے اندر لے کر خوش ہے۔ میرے حال پر افسوس یہاں تک کہ آپ سے ملاقات کروں۔

پھر آپ نے ٹھنڈی سانس بھری جس سے آپ کی روح پرواز کرنے کے قریب ہوگئی
اور آپ نے یہ اشعار پڑھے:

قل صبری و بان عسی عرانی بعد فقدی لختام الانبیاء
عین یا عین اسکبی الدمع سحا ویک لا تبخلی بفیض الدماء
یا رسول الا له یا خیرة اللہ و کھف الایتام و الضعفاء
لو تری المنبر الذی کنت تعلوه علاہ الظلام بعد الضیاء
یا الہی عجل وفاتی سریعا قد نعضت الحیاة یا مولانی

جب سے میں نے خاتم الانبیاء کو ہویا ہے تب سے میرا صبر کم ہو گیا اور میرا
قرار جاتا رہا۔

اے آنکھ! اے آنکھ! دل کھول کر آنسو بہا، تجھ پر افسوس خون بہانے سے بھی دریغ نہ کر۔
اے اللہ کے رسول! اے اللہ کے مختار اور قیموں، ضعیفوں کو پناہ دینے والے! آپ
اس منبر کو دیکھیں جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے کہ اس پر روشنی کے بعد تاریکی چھا گئی ہے۔
خدا یا! مجھے جلدی سے موت دیدے۔ میرے مولا! میں زندگی سے تنگ آچکی ہوں۔

گریہ زہرا اور اہل مدینہ کی جفا

اس کے بعد حضرت سیدۃ اپنے گھر تشریف لائیں۔ گھر میں آپ دن رات روتی رہتی
تھیں اور کسی طرح سے بھی آپ کو قرار میسر نہ آتا تھا جس سے مدینہ کے لوگ تنگ آ گئے۔ چند
بزرگ حضرت علی کے پاس آئے اور کہا: فاطمہ دن رات روتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہم
رات کو سو نہیں سکتے اور دن کو سونوں حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ ان سے کہیں کہ وہ رات کو
روئیں تو ہم دن کو آرام کریں اور آئندہ دن کے وقت روئیں تو ہم رات کو آرام کریں۔

حضرت علی نے کہا میں تم لوگوں کا پیغام انہیں پہنچا دوں گا۔

امیر المؤمنین گھر میں تشریف لائے اور اپنی زوجہ کو روتے ہوئے پایا۔ حضرت سیدہ نے اپنے شوہر کو دیکھا تو کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گئیں۔

حضرت علی نے ان سے کہا: مدینے کے بزرگوں نے مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ آپ رونے کا وقت مقرر کریں۔ یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں۔

حضرت سیدہ نے عرض کی: اے ابوالحسن! ان لوگوں میں میری زندگی بہت کم رہ گئی ہے اور میں عنقریب یہاں سے رخصت ہو جاؤں گی۔ خدا کی قسم! میں مسلسل اپنے والد کو روتی رہوں گی۔ یہاں تک کہ میں ان کے پاس چلی جاؤں۔

حضرت علی نے فرمایا: آپ مختار ہیں جو چاہیں کریں۔

اس کے بعد حضرت علی نے بی بی کے لئے قبرستان بقیع میں ایک سائبان تیار کیا جس کا نام بیت الاحزان رکھا گیا۔^۱

حضرت فاطمہ روزانہ حسن و حسین کو ساتھ لے کر بیت الاحزان میں چل جاتی تھیں جہاں شام تک آپ اپنے والد علیہ السلام کو رویا کرتی تھیں اور جیسے ہی شام ہوتی حضرت علی وہاں آتے اور بی بی کو ساتھ لے کر گھر آ جاتے تھے۔

بی بی کے جگر سوز اشعار

روایت ہے کہ رسول خدا کی وفات اور اہل اقتدار کی طرف سے ظلم و ستم سبب کی وجہ سے بی بی بیمار ہو گئیں۔ آپ اتنی کمزور اور لاغر ہو گئی تھیں کہ آپ کے جسم اطہر کا گوشت تحلیل ہو گیا تھا اور آپ کا وجود اطہر ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا تھا۔

روایات میں ہے کہ حضرت سیدہ، خاتم الانبیاء کی وفات کے بعد ہمیشہ سر پر غم کی پٹی باندھے رہتی تھیں، شدت غم سے آپ کا جسم اطہر روز بروز تحلیل ہونے لگا تھا اور آپ کا دل جلتا

۱۔ یہ پہلا عزاخانہ تھا جسے حضرت علی نے تعمیر کیا اور حضرت زہرا جہاں روئی تھیں۔ ہمارے عزاخانے بھی اسی پہلے عزاخانے کی نقل ہیں۔ (مترجم اردو)

بتا تھا۔ فراق پدر کی وجہ سے آپ کی آنکھیں روتی رہتی تھیں۔ کبھی بے ہوش ہو جاتیں اور کبھی ہوش میں آجاتی تھیں۔ آپ اپنے فرزندوں سے مسلسل یہ بات کرتی تھیں۔

تمہارا وہ باپ کہاں ہے جو تمہیں ہمیشہ عزیز رکھتا تھا؟

تمہارا وہ باپ کہاں ہے جو تمہیں اپنے کندھوں پر سوار کئے رہتا تھا؟

تمہارا وہ باپ کہاں ہے جو تمہارے لئے از حد شفیق اور مہربان تھا؟

تمہارا وہ باپ کہاں ہے جو تمہیں زمین پر چلنے نہ دیتا تھا اور ہر وقت تمہیں اٹھائے رہتا تھا؟

اب وہ دروازہ پھر کبھی نہ کھلے گا اور پھر تمہارا باپ تمہیں اپنے کندھے پر سوار نہ کریگا۔

رسول خداؐ نے زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بیٹی کے متعلق جو کچھ فرمایا تھا وہ سچ

ثابت ہوا۔ آپ ہر وقت روتی رہتی تھیں۔ کسی وقت وحی کے منقطع ہونے کو یاد کرتیں تو رونے

لگ جاتیں اور کبھی والد کے فراق کو یاد کرتیں تو بین کرنے لگ جاتیں۔ جب رات کا پچھل پہر

ہوتا اور آپ کو اپنے والد کی تلاوت قرآن کی دلنشین آواز سنائی نہ دیتی تو آپ وحشت زدہ ہو

جاتیں اور کبھی آپ اپنی موجودہ زندگی کا موازنہ اپنے والد کے زمانے کی زندگی سے کرتیں جس

میں آپ کو عزت و شہرت حاصل تھی تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھریاں لگ جاتی تھیں۔

آپ اپنے والد کی قبر اطہر پر آتیں اور بابا کے مرثیے میں یہ اشعار پڑھتی تھیں۔

ماذا على من شتم توبة احمد ان لا يشتم مدى الزمان غواليا

صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صون ليا ليا

جس نے زندگی میں تربت احمدؑ کی خوشبو کو سوگتھ لیا تو وہ اگر پوری زندگی کوئی دوسری

خوشبو نہ سونگتھے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھ پر اتنے مصائب آئے کہ اگر وہ مصائب

دنوں پر نازل ہوتے تو وہ راتوں میں بدل جاتے۔

بجانم ریختہ چندان غم و درد و مصیبتا

کہ بر روزہا ریزند درد تیرہ چوں شبہا

کبھی آپ یہ اشعار پڑھتی تھیں:

اذا مات يوما ميت قل ذكره و ذكر ابى مذمات و الله ازيد
تذكرت لما فرق الموت بيننا فعزيت نفسى بالنبي محمداً
فقدت لها ان الممات سبيلنا و من له يمت فى يومه مات فى غد

مرنے کے بعد ہر شخص کا ذکر کم ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم! موت کے بعد میرے والد کا ذکر زیادہ ہو چکا ہے۔ جب موت نے ہمارے درمیان جدائی ڈالی تو میں نے اپنے آپ کو اکرم محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے تسلی دی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ موت ہی ہمارا راستہ ہے اور جو آج نہ مرا وہ کل ضرور مرے گا۔

کبھی آپ یہ اشعار پڑھتی تھیں:

اذا اشتد شوقى زرت قبرك باكيا انوح و اشكو لا اراك مجاوبى
فيا ساكن الغبراء علمتى البكاء و ذكرك انساني جميع المصائب
فان كنت عنى فى التراب مغيبا فما كنت عن قلبى الحزين بغائب

جب میرے شوق دیدار میں اضافہ ہوتا ہے تو میں روتے ہوئے آپ کی قبر کی زیارت کرتی ہوں، آپ کی قبر پر نوحہ پڑھتی ہوں اور جدائی کا شکوہ کرتی ہوں لیکن آپ مجھے جواب نہیں دیتے۔ دامن خاک میں آرام کرنے والے! آپ نے مجھے رونا سکھا دیا اور آپ کے ذکر نے مجھے تمام مصائب فراموش کرا دیئے۔ اگرچہ آپ مجھ سے جدا ہو کر مٹی میں چھپ گئے ہیں لیکن آپ میرے غمگین دل سے غائب نہیں ہیں۔

حضرت امیر المؤمنین نے رسول خدا کے جنازہ اطہر کو ایک پیراہن میں غسل دیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ نے ان سے اس پیراہن کے دیکھنے کی خواہش کی تو حضرت علی نے وہ پیراہن نہیں دکھایا۔ بی بی نے جیسے ہی وہ پیراہن دیکھا تو اسے منہ پر رکھ کر اس سے خوشبوئے نبوت کو سونگھا اور بے ہوش ہو گئیں۔

جب حضرت علی نے ان کی یہ حالت ملاحظہ کی تو آپ نے وہ پیرا بن اٹھا لیا اور بی بی سے چھپا دیا۔

سیدۃ اور اذانِ بلالؓ

رسول خداؐ کی وفات کے بعد بلالؓ صبحی نے اذان دینی چھوڑ دی تھی (تاکہ اس اذان کو کسی کی تائید نہ سمجھا جائے)۔

ایک مرتبہ حضرت سیدۃ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اپنے والد کے مؤذن کی آواز میں اذان سنوں۔

جیسے ہی بلالؓ کو بی بی کی خواہش کا علم ہوا تو انہوں نے اذان دی۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو بی بی کو اپنے والد کا زمانہ یاد آیا۔ آپ بے ساختہ رونے لگیں جب بلالؓ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بی بی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئیں۔

لوگوں نے بلالؓ سے کہا کہ اذان ختم کرو۔ رسول خداؐ کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ بلالؓ نے اذان روک دی اور جب سیدۃ کو ہوش آیا تو آپ نے ان سے اذان کھل کرنے کی خواہش کی۔

بلالؓ نے بڑے ادب سے معذرت کرتے ہوئے کہا: سیدۃ النساء! میں اس خدمت سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میری اذان سن کر آپ کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ حضرت سیدۃ نے بلالؓ کو معاف کر دیا۔

سیدۃ شہدائے احد کی قبور پر

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: حضرت فاطمہؑ، رسول خداؐ کے بعد چھتر دن تک زندہ رہیں اور اس تمام مدت میں کسی نے آپ کو خوش ہوتے اور ہنستے ہوئے نہ پایا۔ آپ ہر ہفتے میں دوبار یعنی پیر اور جمعرات کے دن شہدائے احد کی قبروں پر جاتی تھیں اور وہاں اشارہ کر

کے بتی تھیں ”رسولِ خدا یہاں تھے اور مشرکین ہاں تھے۔“ (احد کی جنگ سے مراد تھی)۔

ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ وہاں نماز پڑھتی تھیں اور وہ مانتی تھیں اور زندگی کے آخری ایام تک آپ کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔

محمود بن لبید کا بیان ہے: رسولِ خدا کی وفات کے بعد فاطمہ شہدائے احد کی قبروں پر آتی تھیں اور حضرت حمزہ کی قبر کے کنارے بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔

ایک دن میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ بی بی، حضرت حمزہ کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ میں نے انہیں ان کے حال پر رہنے دیا۔ جب سیدہ رو پھیں تو میں ان کے حضور حاضر ہوا اور میں نے سیدہ کو سلام کر کے عرض کیا: سیدۃ النساء! آپ کے دردناک بین سن کر میرے دل کے ٹکڑے ہو گئے۔

آپ نے فرمایا: اے ابو عمر! مجھے رونا ہی چاہئے کہ میں دنیا کے سب سے بہتر والد حضرت رسولِ خدا کو کھو چکی ہوں۔ آہ! میں ان کے دیدار کی کس قدر مشتاق ہوں۔

پھر آپ نے یہ شعر پڑھا:

اذ مات میت قل ذکروہ و ذکر ابی مذمات واللہ اکثر
ہر مرنے والا کا ذکر اس کی موت کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے لیکن خدا کی قسم میرے والد کی وفات کے بعد ان کا ذکر بڑھ گیا ہے۔

جناب سیدہ کی دعا اور ان کی وصیت

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: رسولِ خدا کی رحلت کے ساٹھ دن بعد حضرت زہراؑ بیمار ہوئیں اور جب ان کی بیماری میں شدت پیدا ہوئی تو آپ نے یہ دعا پڑھی: یا حی یا قیوم برحمتک استغیثُ فأغنی، اللہم زحزحنی عن النار و ادخلنی الجنة و ارحم الراحمین یا بی مُحَمَّدٌ۔ یعنی اے زندہ و توانا خدا! میں تیری رحمت کی پناہ لیتی ہوں، تو مجھے پناہ دے۔ مجھے

آتش ووزخ سے دور رکھ۔ مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے میرے والد محمد مصطفیٰ سے ملحق فرما۔
 حضرت علی نے سیدہ سے فرمایا: خدا تمہیں عافیت عطا کرے گا اور تمہیں زندگی دے گا۔
 حضرت سیدہ کہتی تھیں: خدا کے حضور پیش ہونے کا وقت بالکل قریب آچکا ہے۔
 حضرت سیدہ نے حضرت علی کو وصیت کی: میری وفات کے بعد ”امامہ“ بنت ابوالعاص
 سے شادی کرنا، وہ میری بہن زینب کی بیٹی ہے اور میری اولاد کے لئے مہربان ثابت ہوگی۔
 ایک اور روایت میں مذکورہ ہے:

حضرت سیدہ نے اپنے شوہر سے عرض کی: میں آپ سے ایک حاجت رکھتی ہوں۔
 حضرت علی نے فرمایا: میں آپ کی حاجت پوری کروں گا۔

حضرت فاطمہ نے عرض کی: آپ کو خدا اور میرے والد محمد مصطفیٰ کی قسم دیتی ہوں کہ
 ابو بکر و عمر میری نماز جنازہ میں شامل نہ ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی چیز
 آپ سے نہیں چھپائی۔ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا تھا:

يا فاطمة انك اول من يلحق بي من اهل بيتي فكنك اكره ان اسونك
 یعنی اے فاطمہ! میرے اہلیت میں سے تو سب سے پہلے مجھ سے ملحق ہوگی۔
 اور میں آپ کو یہ بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔
 امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے:

رسول خدا کی وفات کے پچاس دن بعد حضرت زہرا کی بیماری کا آغاز ہوا۔ اس
 بیماری سے بی بی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مزید زندہ نہ رہ سکیں اسی لئے انہوں نے حضرت علی
 سے وعدہ لیا کہ وہ ان کی وصیت پر ہر صورت میں عمل کریں گے۔ حضرت امیر المومنین نے جو کہ
 حضرت زہرا کی وفات سے فکر مند تھے، وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی وصیت پر عمل کریں گے۔

حضرت فاطمہ نے عرض کی: اے ابوالحسن! رسول خدا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ان کے
 اہلیت میں سے سب سے پہلے میں ہی ان سے ملاقات کروں گی۔ اسی لئے خدا کے حکم پر صبر

کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تقدیر خداوندی پر آپ کو راضی رہنا چاہئے۔ رات کے وقت مجھے غسل و کفن دے کر دفن کر دینا۔

حضرت علیؑ نے حضرت سیدہ کی وصیت پر عمل کیا۔

ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ زہراؑ نے فرمایا: مجھے خواب میں رسوں خدا کی زیارت نصیب ہوئی تو میں نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی ان سے شکایت کی۔ رسول خداؐ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے لئے آخرت کا ابدی گھر ہے جو پرہیزگاروں کے لئے تیار کیا گیا ہے اور تم جلد ہی ہمارے پاس آ جاؤ گی۔

آخری ایام

حضرت زہراؑ کی عمر اور ان کی گفتگو

حضرت سیدۃ کی شیخین سے گفتگو

جب حضرت زہراؑ مرض الموت میں گرفتار ہوئیں تو آپ نے اپنے شوہر سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کی حالت کو پوشیدہ رکھیں اور ان کی شدید بیماری کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائیں۔

چنانچہ حضرت علیؑ اور اسماء بنت عمیسؓ (جو اس وقت حضرت ابو بکر کی زوجیت میں تھیں) ان کی تیمارداری کرتے رہے۔ اس سے قبل پیغمبر اکرمؐ بھی حضرت سیدۃ کو ان کی بیماری کی اطلاع دے چکے تھے اور پیغمبر خداؐ نے آپ کو امت کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بھی باخبر کیا تھا۔

پھر حضرت زہراؑ کی بیماری اور درد میں شدت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کو ان کی تیمارداری کے لئے بھیجا تا کہ سیدۃ ان سے سکون محسوس کریں۔

جب بیماری نے شدت اختیار کی تو شیخین کو بھی سیدۃ کی بیماری کا پتا چل گیا اور وہ دونوں بی بی کی عیادت کے لئے ان کے دروازے پر آئے لیکن بی بی نے انہیں اندر

آنے کی اجازت نہ دی۔

حضرت عمر نے حضرت علی سے ملاقات کی اور ان سے کہا: (آپ جانتے ہیں کہ) ابو بکر بوزھے اور نازک دل شخص ہیں اور پیغمبر اکرمؐ کے یار غار اور صحابی ہیں اور ہم کئی بار یہاں آچکے ہیں اور ہم نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی لیکن ہر بار فاطمہؑ نے ہمیں داخل ہونے سے روک دیا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو فاطمہؑ سے ہمارے لئے اجازت طلب کریں تاکہ ہم ان کی عیادت کر سکیں۔

حضرت علیؑ نے کہا: اچھا میں فاطمہؑ سے اجازت لوں گا۔

امیر المؤمنین حضرت سیدۃ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا: دختر پیغمبر آپ جانتی ہیں کہ یہ دو شخص کئی بار آپ سے اجازت طلب کر چکے ہیں لیکن آپ نے ہر بار انہیں اجازت نہیں دی۔ اب انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ان کے لئے آپ سے اجازت حاصل کروں۔

حضرت فاطمہؑ نے عرض کی: خدا کی قسم! میں انہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی اور ان سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہاں تک کہ میں اپنے والد سے ملاقات کروں گی اور ان سے ان دونوں کے مظالم کی شکایت کروں گی۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: میں نے انہیں اجازت کی ضمانت دی ہے۔

حضرت فاطمہؑ نے عرض کی: ان کنت قد ضمنت لهما شیئا فالہیت بیتک

والنساء تتبع الرجال لا یردوا علیک بشئ فاذن لمن احببت

اگر آپ انہیں ضمانت دے ہی چکے ہیں تو یہ آپ کا ہی گھر ہے اور عورتیں اپنے مردوں کی پیروی کرتی ہیں۔ میں کسی بات میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گی۔ آپ جسے چاہیں اجازت دیں۔

حضرت علیؑ گھر سے باہر آئے اور انہوں نے شیخین کو ملنے کی خبر دی۔ یہ خبر سن کر

آخری ایام

حضرت زہراؑ کی عمر اور ان کی گفتگو

حضرت سیدۃ کی شیخین سے گفتگو

جب حضرت زہراؑ مرض الموت میں گرفتار ہوئیں تو آپ نے اپنے شوہر سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کی حالت کو پوشیدہ رکھیں اور ان کی شدید بیماری کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائیں۔

چنانچہ حضرت علیؑ اور اسماء بنت عمیسؓ (جو اس وقت حضرت ابو بکر کی زوجیت میں تھیں) ان کی تیمارداری کرتے رہے۔ اس سے قبل پیغمبر اکرمؐ بھی حضرت سیدۃ کو ان کی بیماری کی اطلاع دے چکے تھے اور پیغمبر خداؐ نے آپ کو امت کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بھی باخبر کیا تھا۔

پھر حضرت زہراؑ کی بیماری اور درد میں شدت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کو ان کی تیمارداری کے لئے بھیجا تا کہ سیدۃ ان سے سکون محسوس کریں۔

جب بیماری نے شدت اختیار کی تو شیخین کو بھی سیدۃ کی بیماری کا پتا چل گیا اور وہ دونوں بی بی کی عیادت کے لئے ان کے دروازے پر آئے لیکن بی بی نے انہیں اندر

شیخین بی بی کے گھر میں داخل ہوئے اور جب ان کی نگاہ بی بی پر پڑی تو انہوں نے آپ کو سد مہینین بی بی نے سلام کا کوئی جواب نہ دیا اور ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ شیخین کئی بار سامنے آئے لیکن ہر بار بی بی نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پھر آپ نے حضرت علیؑ سے کہا میرے چہرے پر کپڑا ڈال دو۔

پھر آپ نے گھر میں موجود خواتین سے فرمایا کہ وہ ان کا رخ تبدیل کر دیں۔ رخ تبدیل ہونے کے بعد بھی شیخین ان کے سامنے آئے اور انہوں نے بی بی سے راضی ہونے اور سابقہ غلطیوں سے درگزر کرنے کی درخواست کی۔

حضرت سیدۃ نے فرمایا: میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ کیا تمہیں وہ موقع یاد ہے جب میرے والد نے علیؑ کے ایک معاملے کے سلسلے میں تمہیں آدھی رات کے وقت طلب کیا تھا؟

شیخین نے کہا: جی ہاں! ہمیں وہ موقع اچھی طرح سے یاد ہے۔

پھر حضرت سیدۃ نے فرمایا: تمہیں خدا کی قسم! کیا تم نے پیغمبر اکرمؐ سے یہ لفظ نہیں

سنے تھے فاطمۃ منیٰ و انا منها ، من آذاھا فقد آذانی و من آذانی فقد آذی اللہ... یعنی فاطمہؑ مجھ سے ہے اور میں فاطمہؑ سے ہوں، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ جس نے اسے میری وفات کے بعد اذیت دی تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے مجھے زندگی میں اذیت دی ہو اور جس نے اسے میری زندگی میں اذیت دی تو وہ ایسا ہے جس نے اسے میری وفات کے بعد اذیت دی ہو۔

ان دونوں نے کہا: جی ہاں! ہم نے پیغمبر اکرمؐ سے یہ حدیث سنی تھی۔

پھر سیدۃ نے کہا: خدایا! تیری حمد اور شکر ہے۔ اس کے بعد آپ خدا کی طرف متوجہ

ہوئیں اور عرض کی کہ خدایا! میں تجھے گواہ بناتی ہوں اور یہاں پر موجود تمام حاضرین کو گواہ بناتی ہوں اور تم اس کی گواہی دینا کہ ان دو اشخاص نے میری زندگی میں اور میری موت کے وقت

مجھے تکلیف دی ہے۔ خدا کی قسم! میں اپنے خدا کے حضور پیش ہونے سے پہلے ان سے ایک غلط بھی نہ ہوں گی اور میں تمہارے ظلم و ستم کی خدا کے سامنے فریاد کروں گی۔

دوسری روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں:

حضرت سیدہ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا: خدایا! ان دو افراد نے مجھے اذیت دی ہے اور میں تیرے اور تیرے رسولؐ کے سامنے ان کی شکایت کرتی ہوں۔ خدا کی قسم! میں تم دونوں سے ہرگز راضی نہ ہوں گی یہاں تک کہ اپنے والد سے ملاقات کروں اور میں تمہارے طرز عمل کی آنحضرتؐ کو خبر کروں گی اور وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے چیخ کر کہا: مجھ پر افسوس، ہائے عذاب الہی کے سائے افسوس!! ہائے کاش میری ماں نے مجھے ختم نہ دیا ہوتا۔

حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا: مجھے تعجب ہے کہ لوگوں نے تجھے اپنا رہبر کیسے بنا لیا ہے؟ تو ایک پیر فروت ہے اور تیری حالت یہ ہے کہ ایک عورت کی ناراضگی کی وجہ سے بے تاب ہو رہا ہے اور ایک عورت کی رضامندی سے خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی پر عورت ناراض بھی ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر وہ دونوں اٹھے اور چلے گئے۔

اس وقت حضرت سیدہ نے حضرت علیؑ سے کہا: کیا میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے؟ حضرت علیؑ نے فرمایا: جی ہاں۔

حضرت فاطمہؑ نے عرض کی: اب اگر میں آپ سے کچھ طلب کروں تو کیا آپ مجھے وہ چیز دیں گے؟

حضرت علیؑ نے فرمایا: جی ہاں۔

حضرت سیدہ نے عرض کی: میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ یہ دو اشخاص مجھ پر نماز جنازہ نہ پڑھیں اور میری قبر پر نہ آئیں۔

تابوت بنانے کا حکم

روایت ہے کہ حضرت سیدۃ نے اسماء بنت عمیسؓ سے فرمایا: جس طرح سے لوگ عورتوں کے جنازے لے کر جاتے ہیں مجھے وہ طریقہ ناپسند ہے۔ لوگ جنازہ پر کپڑا ڈال دیتے ہیں جبکہ مرنے والے کا جسم کپڑے کے نیچے سے دکھائی دیتا ہے اور ہر دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جنازہ مرد کا ہے یا عورت کا۔ میں انتہائی کمزور ہو چکی ہوں اور میرا گوشت تحلیل ہو چکا ہے، کیا تم میرے لئے کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکتیں جس سے میرا جسم چھپ جائے؟

اسماء نے عرض کی: میں نے حبشہ میں دیکھا تھا کہ لوگ جنازے کے لئے تابوت تیار کرتے تھے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو تابوت بنا کر دکھاتی ہوں۔^۱
حضرت سیدۃ نے فرمایا: ہاں! وہ تابوت بنا کر دکھاؤ۔

اسماء بنت عمیسؓ نے ایک چارپائی منگوائی اور پھر کھجور کی لٹریاں طلب کیں اور چارپائی کے ساتھ انہیں باندھ دیا اور پھر اس پر کپڑا ڈال دیا اور حضرت سیدۃ سے کہا کہ حبشہ میں ایسے ہی تابوت بنائے جاتے ہیں۔

جناب سیدۃ کو تابوت پسند آیا اور فرمایا: خدایا! جس طرح سے اسماء نے میرے جسم کو چھپایا ہے تو بھی اس کے جسم کو دوزخ سے چھپا۔

منقول ہے کہ اس تابوت کو دیکھ کر آپ ہنس دیں جبکہ وفات رسولؐ کے بعد آپ نے بننا چھوڑ دیا تھا اور آپ نے فرمایا: یہ تابوت بہت اچھا ہے اس سے میت کے مرد و عورت ہونے کی پہچان نہیں ہو سکتی۔^۲

۱۔ حضرت جعفر عیارؓ کی زوجہ تھیں۔ تقریباً پندرہ سال حبشہ میں ان کے ساتھ رہیں۔ ان کی وفات کے

بعد حضرت ابوبکر سے شادی کی۔ محمد بن ابی بکر ان ہی کے فرزند تھے۔ ان کی تیسری شادی حضرت علیؓ سے ہوئی

۲۔ کشف الغمہ، جلد دوم، صفحہ ۶۷۔ روایت ابن عباس۔

مستورات مدینہ کی عیادت اور سیدۃ کا خطبہ

کتاب احتجاج طبری (ج ۱- ص ۱۴۸) میں سوید بن غفلہ سے منقول ہے کہ جب حضرت سیدہ بیار ہوئیں تو مہاجرین و انصار کی عورتیں آپ کی عیادت کے لئے آئیں۔ انہوں نے آپ سے احوال پرسی کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیماری کا کیا حال ہے؟

حضرت سیدۃ نے ان کے اس سوال کے جواب میں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں خداوند تعالیٰ کی حمد و ثناء اور پیغمبر اکرمؐ پر درود و سلام کے بعد آپ نے فرمایا: میں نے آج اس حالت میں صبح کی ہے کہ تمہاری دنیا سے بے زار ہوں، تمہارے مردوں کی دشمن ہوں، میں نے انہیں اس صرح سے دور کیا ہے جیسا کہ فاسد خرماتھونک دیا جاتا ہے اور میں نے پوری صرح آزمانے کے بعد ان سے دشمنی کی ہے۔

براہوتلواری دھار کے کند ہونے کا اور محنت و مشقت کے بعد کھیل کود میں لگ جانے کا۔ سب خارا پر سر مارنا کتنا برا ہے اور نیزوں کا ڈھیلا ہو جانا اور آراء کا فاسد ہونا اور خواہشات کی پھسکن سستی بری ہے۔ ان کے نفسوں نے بہت برا توشہ آگے کے لئے روانہ کیا ہے جس کی وجہ سے خدا ان پر ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ مذاب میں رہیں گے۔

بخدا حکومت و سلطنت نے ان کی گردن میں اپنا پھندا ڈال دیا ہے، ان پر اپنا بوجھ ادا دیا ہے اور دنیا نے ان پر اپنی ذلت ڈال دی ہے۔ خدا ظالموں کی ناک کاٹے، انہیں بے دست و پا کرے اور انہیں اپنی رحمت سے دور رکھے۔

ان کے لئے افسوس ہے کہ آخر ان لوگوں نے خلافت کو رسالت کے سنگر سے کیوں دور کر دیا؟ اور ان لوگوں نے خلافت کو نبوت و رہنمائی اور روح الامین کے اترنے کے مقام پر دنیا و دین کے ماہر افراد سے کیوں دور کر دیا ہے؟

آگاہ رہو! تمہارے مردوں کے کردار کا نقصان واضح ہے۔ آخر یہ لوگ ابوالحسن سے

کیوں ناراض ہیں؟

یہ لوگ خدا کی قسم! ابوالحسن کی تنوار کے بے دریغ استعمال سے ناراض ہیں۔ یہ لوگ ابوالحسن سے اس لئے ناراض ہیں کہ وہ اپنی جان کی پروا نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ ان کی سخت جنگ اور ان کے عذاب جیسے حملوں اور خدا کے بارے میں ان کی جرأت و ہمت کی وجہ سے ناراض ہیں۔

خدا کی قسم! اگر یہ لوگ ابوالحسن سے وہ مہار جدا نہ کرتے جو رسول خداؐ نے ان کے حوالے کی تھی تو ابوالحسن بھی اسے کبھی خود نہ چھوڑتے۔ وہ اس مہار کے سہارے لوگوں کو بڑی نرم روی سے لے چلتے، مہار کا چوبی حلقہ زخم نہ پہنچاتا اور ابوالحسن انہیں ایسے گھاٹ پر لے جاتے جس کا پانی آب باراں کی طرح سے صاف و شفاف اور وافر مقدار میں ہوتا اور پانی اپنی کثرت کی وجہ سے دونوں کناروں سے اچھل کر بہتا اور اس کے دونوں کنارے بھی گندے اور مکدر نہ ہوتے۔ پھر ابوالحسن انہیں سیر و سہاگہ کر کے واپس لاتے اور نڈیر و باطن میں ان کی خیر خواہی کرتے اور دولت سے اپنی کوئی زینت نہ کرتے اور دنیا سے کوئی حصہ نہ بیٹے سوائے اتنی مقدار کے جو ایک پیاسے کی پیاس بجھا دے اور بھوکے کو سیر کر دے تب لوگوں کو دنیا سے منہ پھیرنے والے اور دنیا کے طلبگاروں اور بیچ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والے کے فرق کا پتا چل جاتا۔

ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض
ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون (سورہ اعراف آیت ۹۶)

اور اگر اہل قریہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں پکڑ لیا۔

والذین ظلموا من ہولاء سیصیہم سنیات ما کسبوا وما ہم بمعجزین

اسورہ روم (ب ۵۱) ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے ان و اقربان ن برنی کا بدلہ ملے گا اور وہ خدا کو عاجز نہ کر سکیں گے۔

”و اور میری بات غور سے سنو! جب تک تم زندہ رہو گے تب تک زمانہ تمہیں منت ہی چیزیں دکھاتا رہے گا اور اگر تم تعجب کرو تو ان کی باتیں ہیں ہی عجیب۔

ا۔ کاش! میں معلوم کر سکتی کہ ان لوگوں نے علیٰ کو چھوڑ کر کس کا سہارا لیا ہے اور کس ستون پر بھروسہ کیا ہے اور انہوں نے کس حلقہ رکن کو پکڑا ہے اور یہ لوگ اواباد رسوں کو چھوڑ کر کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ لوگ کس سے وابستہ ہوئے ہیں؟ سر پرست کتنا برا ہے اور وہ ساتھی کتنا برا ہے جس کی پناہ میں آئے ہیں اور ظالموں کے لئے برہمہ ہے۔ نسوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہماری مدد سے ہاتھ سے کھینچ لیا ہے۔ خدا کی قسم انہوں نے بازوؤں کے پروں کے بدلے ذم کے پروں کو پکڑا ہے۔ ان لوگوں نے گردن کے قریب پیٹھ کے بائیں حصے کی بجائے پیچھے حصے کو منتخب کیا ہے۔ خدا اس قوم کے خیر خواہ کی ناک کو خاک آلودہ کرے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ آگاہ رہو! یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔

افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدى. الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. (سورہ یونس آیت ۳۵) آیا وہ شخص اتباع کے قابل ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہو یا وہ شخص جو خود ہی ہدایت کا محتاج ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟

مجھے اپنی جان کی قسم! خلافت کی اونٹنی حاملہ ہو چکی ہے، اس کے بچے جننے تک انتظار کرلو، پھر پیالے بھر بھر کر تازہ خون اور مہلک زہر اس کے تھنوں سے دوہ لینا۔ اس وقت باطل پرست گھٹے میں رہیں گے، گمراہ خود اپنے کئے کی سزا پائیں گے اور آنے والی نسلوں کو پتا چلے گا کہ ان کے بزرگوں نے کس چیز کی بنیاد رکھی تھی۔ تم لوگ اپنی دنیا کے سلسلے میں مطمئن رہو اور اس کے ساتھ ساتھ فتنہ کے لئے دلوں کو آمادہ کرلو اور تیز دھار تلوار کی خوش خبری لے لو اور ظالم

بے انصاف افراد کے تسلط اور مستقل بے چینی یعنی برج و مرج اور خالموں کی استبداد، مری کے لئے تمہیں مہارک باد ہو۔ (آئندہ) ایسے ظالم اقتدار پر آئیں گے جو تمہارے ماں کی قیمت کو کم کر دیں گے اور تمہاری جماعت کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اس وقت حسرت کرو گے کہ کیوں صحیح رہیوں سے منحرف ہوئے کہ اس وقت تمہارے دل اندھے ہو رہے ہیں۔

تم پر افسوس ہے، اب تم راہ راست پر کیسے آسکتے ہو جبکہ سیدھی راہ تو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہے، تو ہم زبردستی اسے تمہارے گلے میں ایسے ڈال سکتے ہیں جبکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو۔

مستورات کے ذریعے سے پیغام رسائی

سید بن غفلہ کہتے ہیں

جب حضرت سیدہ کی یہ گفتگو عورتوں نے اپنے خاندان سے مردوں کو سنائی تو مہاجرین و انصار کا ایک گروہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے معذرت طلب کرتے ہوئے کہا: سیدۃ النساء اُمّ ابوالحسن اس خلافت کے قائم ہونے سے پہلے ہم سے اس کا ذکر کرتے تو ہم انہیں چھوڑ کر کسی دوسرے کو اختیار نہ کرتے۔ لیکن اب بگڑنے پیش رفتی کی وجہ سے یہ بیعت کرنی۔

حضرت سیدہ نے ان مذرتراشوں سے فرمایا: تم میرے پاس سے چھ جاؤ۔ تمہاری تقصیر، کوتاہی کے بعد اب معذرت کی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔

ام المومنین سے گفتگو

علامہ مجسی بخارا (۱۱) نواریں میں تفسیر عیاشی کے حوالے سے رقمطراز ہیں

ام المومنین حضرت ام سعد رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ کی عیادت سے تین تینیں اور عرض کی اے دختر رسول! اس بیماری میں میں آپ نے صبح کیسے کی؟

بی بی نے فرمایا میں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے آپ کو دو عظیم صدموں کے درمیان محسوس کرتی ہوں۔ (۱) میرا جگر اپنے والد کی وفات سے داغ داغ ہے اور وہ خون کی مانند ہو چکا ہے۔ (۲) وحی رسول پر لوگوں کے مظالم کو دیکھ کر میرے دل سے شے نھ رہے ہیں۔

خدا کی قسم ان لوگوں نے امیرالمومنین کے مقام کی توہین کی اور امیرالمومنین نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ ان سے مقام خلافت چھیننا چاہکا ہے۔ ان لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت پیغمبر کی مخالفت کی ہے اور اس انحراف کا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں کے سینے جنگ بدر واحد سے سینوں سے بھرے ہوئے تھے۔ علی نے ان جنگوں میں ان لوگوں کے رشتہ داروں اور بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ ان کے دلوں میں وہی انتقام کی آگ جلتی رہی اور اب انہوں نے علی کو خلافت سے محروم کر کے اپنے تئیں اس کا انتقام لے لیا ہے۔

وفات پیغمبر اکرم کے بعد ان کا تیر صحیح نشانے پر لگا اور ان کے پوشیدہ کینے کھل کر سامنے آ گئے انہوں نے ہمیں اپنے انتقام کا ہدف قرار دے دیا ہے اور انہوں نے کچھ مفسدین اور چغص خور قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہم سے دشمنی کی ہے۔ ان لوگوں نے ایمان کی رہی کو پارہ پارہ کر دیا اور کمان ایمان سے ایمان کے چلے کو قطع کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے سید ارسلی کی رسالت اور امیرالمومنین کی کفالت پر ٹھوک ماری ہے۔ ان لوگوں نے صرف دنیا کے فوائد کا تحفظ کیا ہے۔ انہوں نے علی کے استغاثہ پر کوئی توجہ نہیں کی کیونکہ علی نے ان کے آباؤ اجداد اور بھائی بندوں کو جنگوں میں ہلاک کیا تھا۔

سیدۃ کی امیرالمومنین کو وصیتیں

کتاب روضۃ الواعظین (تالیف قتال نیشاپوری) میں مذکور ہے

حضرت سیدۃ چالیس دن ہستہ ملائت پر رہیں اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔

جب سیدہ نے محسوس کیا کہ ان کی موت کا وقت قریب آچکا ہے تو انہوں نے مسیحین، اہل بیت عظیمین اور امیر المومنین کو طلب کیا۔ جب وہ سب آگے تو نبی بی نے حضرت علی سے کہا پسر عمر! مجھے میری موت کی خبر سنائی جا چکی ہے اور میں تمہیں بتاؤں کہ میں تھوڑے ہی عرصے بعد اپنے والد کے حضور پہنچ جاؤں گی۔ میں آپ کو چند چیزوں کی وصیت کرتی ہوں۔

حضرت علی نے فرمایا: آپ جو چاہیں وصیت کریں۔

پھر آپ فاطمہ زہرا کے سر ہانے بیٹھ گئے اور گھر میں موجود افراد کو باہر جانے کے لئے کہا۔ جب لوگ باہر چلے گئے تو حضرت زہرا نے عرض کی: ابن عم! میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی خیانت نہیں کی اور جب سے آپ کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا ہے میں نے کبھی آپ کے فرمان کی مخالفت نہیں کی۔

حضرت علی نے فرمایا: معاذ اللہ! یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ خدا کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہیں۔ آپ سب سے بڑھ کر نیک، پرہیزگار اور قابل احترام شخصیت ہیں۔ آپ سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والی ہیں۔ آپ نے کبھی میری مخالفت نہیں کی۔ آپ کی جدائی اور مفارقت میرے لئے بہت بڑا صدمہ ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ موت سے مفر ممکن نہیں ہے۔ آپ کے صدمہ نے میرے لئے رسول خدا کی موت کے صدمہ کو تازہ کر دیا ہے۔ آپ کی جدائی بہت بڑا سانحہ ہے۔ انا لله وانا اليه راجعون۔

یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس کے بعد آسودگی نصیب نہ ہو سکتی اور دل کو سکون و قرار نصیب نہ ہو سکتے گا۔

اس کے بعد عصمت کی شہزادی اور امامت کا تاجدار کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر امیر المومنین نے حضرت سیدہ کا سر اپنے سینے سے لگا کر فرمایا: آپ کو جو وصیت کرنی ہو ضرور کریں۔ آپ مجھے وفادار پائیں گی اور میں بہ قیمت پر آپ کی وصیت پر عمل کروں گا اور اپنے معاملات پر آپ کی وصیت کو ترجیح دوں گا۔

حضرت سیدۃ نے کہا: خداوند عالم میری طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اس کے بعد یہ وصیتیں کیں۔

۱- میرے بعد آپ میری بھانجی امامہ دختر زینبؓ سے نکاح کریں (کیونکہ وہ میرے
بچوں کے لئے مجھ جیسی ثابت ہوگی)

۲- میرے جنازے کو تابوت میں لے جائیں۔

۳- جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور جن لوگوں نے میرے حقوق پامال کئے ہیں
میرے جنازے میں نہ آئیں میری نماز جنازہ نہ پڑھیں اور ان کے پیر و کار بھی شامل نہ ہوں۔

۴- جب لوگ رات کے وقت محو خواب ہوں تو مجھے دفن کریں۔

مصباح الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے
آباءے طاہرین کی سند سے بیان فرمایا:

حضرت فاطمہؑ نے وفات کے وقت حضرت امیر المومنین کو یہ وصیت کی تھی کہ جب
میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ خود ہی مجھے غسل دینا اور مجھے کفن پہنانا اور میرا نماز جنازہ
خود پڑھنا اور مجھے قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارنا۔ پھر میری قبر کا نشان مٹا دینا اور میری خاک
قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا۔

ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میرے چہرے کے سامنے بیٹھ کر زیادہ
سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا کیونکہ ان لمحات میں میت کو زندہ افراد سے مانوس ہونے کی زیادہ
ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں اور آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میری
اولاد کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہنا۔

پھر آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو گلے لگایا اور حضرت علیؑ سے کہا: جب میری بیٹی
حد بوغ کو پہنچ جائے تو گھر کا سامان اسی کا ہوگا۔ اللہ اس کا مددگار ہو۔

روایت میں ہے وارد ہے:

جب حضرت زہرا کی وفات کا وقت آیا تو آپ تھوڑا سا روکیں۔ امیرالمومنین نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے کہا: میں ان مصائب کا تصور کر کے رو رہی ہوں جو میرے بعد آپ پر وارد ہوں گے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: آپ نہ روئیں کیونکہ وہ مصائب خدا کے دین کے لئے ہوں گے اسی لئے میں انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔

ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ نے اپنی وصیت میں فرمایا:

جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ کسی کو اطلاع نہ کریں سوائے ام سلمہ، ام ایمن اور فضہ کے اور مردوں میں سے میرے بیٹوں کے علاوہ عباس، سلمان، مقداد، ابوذر اور حذیفہ کو اطلاع کرنا۔ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ میری وفات کے بعد میرے بدن کو دیکھ سکتے ہیں۔ (شاید اس سے مراد وہ زخم ہیں جنہیں آپ اپنے شوہر سے چھپائے ہوئے تھیں)۔ اور مذکورہ خواتین کی مدد سے مجھے غسل دینا اور مجھے رات کے وقت دفن کرنا اور عوام الناس کو میری موت کی اطلاع نہ دینا کہ وہ میری قبر پر آ کر کھڑے ہوں۔

عباسؓ کا مشورہ

شیخ طوسی لکھتے ہیں:

حضرت زہرا کی بیماری میں روز بروز شدت پیدا ہوتی گئی۔ عباس بن عبدالمطلب عیادت کے لئے آئے تو انہیں کہا گیا کہ بی بی کی طبیعت سخت ناساز ہے۔ وہ کسی سے بات نہ کر سکیں گی اسی لئے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔

یہ سن کر عباس اپنے گھر چلے آئے اور حضرت علیؑ کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ تم علیؑ سے ملاقات کرو اور میری طرف سے ان سے جا کر کہو کہ عباس کہہ رہے ہیں پیارے بھتیجے! آپ کا چچا آپ کو سلام کہتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ مجھے حبیہ

رسول اور رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت فاطمہ کی بیماری نے غم زدہ کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں وہ سب سے پہلے اپنے والد سے ملاقات کرنے والی ہیں اور رسول خدا انہیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔

اگر خدا نخواستہ ان کی وفات ہو جائے تو آپ مہاجرین و انصار کو جمع کریں تاکہ وہ سیدۃ کی نماز جنازہ میں شرکت کا شرف حاصل کر سکیں اور اسی میں دین کی عزت ہے۔

حضرت عقی نے قاصد (جو راوی کے کہنے کے مطابق عمایا مرتھے) سے کہا: میرے چچا کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ خدا کرے میں آپ کی شفقت سے محروم نہ رہوں میں نے آپ کا مشورہ سن لیا ہے اور آپ کی رائے کی ایک اہمیت ہے لیکن فاطمہ دختر پیغمبر مظلومہ ہیں، انہیں ان کے حق سے محروم کیا گیا، ان کی میراث پھین لی گئی، ان کے متعلق رسول خدا کی وصیت کا خیال نہیں رکھا گیا اور ان کے حق کو نظر انداز کیا گیا اور ان کی میراث کے متعلق فرمان خداوندی کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اللہ ہی فیصلہ کرنے والا اور وہی ظالموں سے انتقام لینے کا فیصلہ ہے۔

بچا جان! معاف رکھنا میں آپ کے مشورے پر عمل نہیں کر سکتوں گا کیونکہ فاطمہ نے مجھے خاموشی سے دفن کرنے کی وصیت کی ہے..... الی آخر۔

سیدہ کی شہادت اور تدفین

لحظہ شہادت

شیعہ و سنی راویوں نے ابورافع کی زوجہ ”سلمیٰ“ سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا: میں حضرت زہرا کی زندگی کے آخری ایام میں ان کی تیمارداری میں مصروف رہی۔ ایک دن ان کی طبیعت وقتی طور پر سنبھل گئی اور ان کی بیماری میں افاقہ سامحوس ہو۔ حضرت علی اپنے کسی کام کے لئے گھر سے باہر چلے گئے۔

حضرت فاطمہ نے مجھ سے فرمایا: کچھ پانی لاؤ میں غسل کرنا چاہتی ہوں اور اپنے بدن کو صاف کرنا چاہتی ہوں۔ میں بی بی کے لئے پانی لائی۔ آپ نے اٹھ کر اچھی طرح سے غسل کیا اور لباس تبدیل کیا۔

پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: گھر کے درمیان میرا بستر بچھاؤ۔ (میں نے بستر بچھایا) آپ قبلہ رو ہو کر بستر پر لیٹ گئیں۔

پھر مجھ سے فرمایا: میں آج دنیا سے جا رہی ہوں۔ میں نے غسل کر لیا ہے۔ اب میرا منہ کوئی نہ کھولے۔ پھر آپ نے اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور آپ کی روح نفسِ غضری سے پرواز کر گئی۔

روایت میں مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ کی وفات مغرب و عشاء کے درمیان ہوئی اور

جب آپ کی زندگی کا آخری لمحہ آیا تو آپ نے (ایک جانب) غور سے دیکھا اور فرمایا

السلام علی جبرئیل، السلام علی رسول اللہ، اللہم مع رسولک، اللہم
 فی رضوانک و جوارک و دارک دار السلام. یعنی جبرئیل پر سلام، رسول خدا پر سلام،
 اے پروردگار! اپنے رسول کے ساتھ محشور کرنا، اے پروردگار! اپنی رضا اور اپنے جوار اور اپنے
 سلامتی کے گھر میں منتقل کرنا۔

پھر آپ نے فرمایا: جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں کیا تم بھی اسے دیکھ رہے ہو؟

گھر میں موجود افراد میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟

آپ نے فرمایا: مجھے اہل آسمان گروہ درگروہ اترتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔
 میں انہیں ان کی اصلی شکل میں دیکھ رہی ہوں۔ میں جبرئیل کو دیکھ رہی ہوں اور میں رسول خدا
 کو دیکھ رہی ہوں۔ آپ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ بیٹی! ہمارے پاس آجائیں آپ کے لئے
 آخرت کی نعمات بہتر ہیں۔

حضرت زید بن علی زین العابدین کا بیان ہے:

حضرت فاطمہ نے جبرئیل اور پیغمبر اکرم اور عزرائیل کو سلام کیا تو ان شخصیات نے
 آپ کے سلام کا جواب دیا جسے گھر میں موجود تمام افراد نے اپنے کانوں سے سنا تھا اور اس
 وقت عمدہ خوشبو پھیل گئی جسے حاضرین نے محسوس کیا تھا۔

اسماء بنت عمیسؓ کی روایت

اسماء بنت عمیسؓ کا بیان ہے:

حضرت سیدہ نے آخری لمحات میں مجھ سے فرمایا: وفات پیغمبر اکرم کے وقت جبرئیل
 امین جنت سے کافور لے کر آئے تھے۔ رسول خدا نے اس کے تین حصے کئے تھے۔ ایک حصہ
 انہوں نے اپنے لئے رکھا تھا اور ایک حصہ علی کے حوالے کیا تھا اور ایک حصہ میرے حوالے کیا

تھا۔ اس کا وزن چالیس درہم ہے۔ میرے حصے کا وہ کافور فلاں جگہ رکھا ہوا ہے۔ تم وہ کافور لے آؤ اور میرے سر ہانے رکھ دو۔

یہ کہہ کر آپ نے منہ پر چادر ڈال دی اور مجھ سے فرمایا: تم کچھ دیر صبر کرنا اور میرا انتظار کرنا۔ پھر مجھے آواز دینا۔ اُس میں جواب نہ دوں تو تم سمجھ لینا کہ میں اپنے والد کی خدمت میں پہنچ چکی ہوں۔

اسماء نے کچھ دیر صبر کیا۔ پھر بی بی کو صدادی لیکن کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے کہا:
یا بنت محمد المصطفیٰ، یا ست اکرم من حملته النساء، یا بنت خیر من وطأ الحصى و یا بست من کان من ربه قاب قوسین او ادنیٰ. یعنی اے دختر محمد مصطفیٰ، اے بہترین انسان کی دختر، اے روئے زمین پر چلنے والوں سے افضل ترین شخص کی دختر اور اے اس کی دختر جو شب معراج مقام قاب قوسین پر پہنچا۔

مگر اس آواز کے بعد بھی بی بی کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔

اسماء نے منہ سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ سیدۃ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو سیدۃ کے اوپر گرا دیا۔ بی بی کا بوسہ لیا اور عرض کی: اے فاطمہ! جب آپ اپنے والد پیغمبر اکرم کی خدمت میں پہنچیں تو انہیں میرا سلام عرض کرنا۔

یتیم بچے ماں کے جنازے پر

اسماء سراسیمہ ہو کر گھر سے نکلیں۔ گھر کے باہر حسن و حسین سے ملاقات ہوئی۔ بچوں نے ان سے اپنی والدہ کی خیریت دریافت کی۔ اسماء نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ بچے گھر کو روانہ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ قبلہ رخ لیٹی ہوئی ہیں۔ امام حسین نے اپنی والدہ کے جسد اطہر کو حرکت دی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی والدہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکی

میں۔ نبیوں نے اپنے بھائی امام حسن کی طرف رخ کر کے کہا۔ اجوک اللہ فی الوالدة۔
یعنی اللہ تمہیں تمہاری والدہ کے صدمے پر اجر عطا فرمائے۔

امام حسن نے اپنے آپ کو ماں پر گرا دیا۔ کبھی والدہ کو چومتے اور کبھی کہتے کہ امی
جان! آپ مجھ سے بات کریں ورنہ میری روح نکل جائے گی۔

پھر امام حسین نے اپنی والدہ طاہرہ کے قدم چومے اور کہا: امی جان! میں آپ کا بیٹا
حسین ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں مرجاؤں، آپ مجھ سے گفتگو کریں۔

حضرت علیؑ کو اطلاع

اس نے حسین کریمین سے کہا کہ تم دونوں اپنے والد کے پاس جاؤ اور انہیں اپنی
والدہ کی موت کی اطلاع دو۔

حسین کریمین گھر سے نکلے تو ان کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے: یا محمد! یا
حمد! الیوم حدد لنا موتک اذ ماتت امنا۔ یعنی آہ اے محمد مصطفیٰ! آہ اے احمد مجتبیٰ!
آج آپ کی موت کا صدمہ ہمارے لئے پھر تازہ ہو گیا ہے کیونکہ آج ہماری والدہ دنیا سے
رخصت ہو چکی ہیں۔

حسین کریمین مسجد میں آئے جہاں حضرت علیؑ پہلے سے موجود تھے۔ بچوں نے
اپنے والد کو اپنی ماں کی موت کی خبر دی۔ اس خبر کو سن کر حضرت علیؑ بے تاب ہو کر زمین پر گر
پڑے۔ آپ کے چہرہ اطہر پر پانی ڈالا گیا۔ جب آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ نے درد
مند نہ لہجے میں کہا: من العزاء یا بنت محمد کنت بک اتعزی لفییم العزاء من
بعدک یعنی اے بنت محمد! اب میں کس سے تسلی حاصل کروں گا، جب تک تم زندہ تھیں تو
تمہیں دیکھ کر مجھے تسلی ہوتی تھی، اب تمہارے بعد مجھے کس سے تسلی ملے گی۔

علیٰ جنازہ سیدہ پر

مشہور مورخ مسعودی نقل کرتے ہیں

جب حضرت سیدہ کی وفات ہوئی تو حضرت علیٰ سخت بے تاب ہوئے اور بہت

روئے اور آپ نے یہ مرثیہ پڑھا

لكل اجتماع من حليلين فرقة و كل الذى دون الممات قديل
و ان افتقادی فاطمة بعد احمد دليل على ان لا يدوم خليل

دو دوستوں کے اجتماع کا انجام جدائی ہے اور موت کے علاوہ ہر مصیبت قابل

برداشت ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد فاطمہ کا دنیا سے رخصت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی

بھی دوست ہمیشہ نہیں رہتا۔

راوی کہتا ہے کہ حضرت علیٰ نے اپنے صاحبزادوں کو اٹھایا اور انہیں لے کر اس کمرے

میں آئے جہاں حضرت سیدہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ جنازے کی پانچویں کی طرف اسما بنت عمیس

رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں اے یتیمان محمد! ہم پیغمبر کے بعد فاطمہ کے ذریعے سے اپنے آپ

کو تسلی دیتے تھے اب ہم کس سے اپنے آپ کو تسلی دیں گے۔

سیدہ کا تحریری وصیت نامہ

امیرالمؤمنین نے سیدہ کے چہرے سے کپڑا بٹایا تو آپ نے سیدہ کے سر کے قریب

ایک خط رکھا ہوا دیکھا۔ آپ نے اسے اٹھا کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا:

بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ ہے فاطمہ کی وصیت

۱۔ فاطمہ گواہی دیتی ہے کہ خدا واحد لا شریک ہے۔

۲۔ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

۳۔ جنت و دوزخ حق ہے اور قیامت قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ

مردوں و قبروں سے اٹھائے گا۔

۴۔ یا علی! میں فاطمہ بنت محمد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے نکاح میں دیا تاکہ میں دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ رہوں۔ آپ میرے لئے دوسروں سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ: حنطنی وغسلی وکفنی باللیل وصل علیٰ ادفنی باللیل ولا تعمم احدًا..... الی آخر

مجھے رات کے وقت غسل وکفن اور حنوط دینا اور میری نماز جنازہ پڑھنا۔ رات کے وقت مجھے دفن کرنا اور کسی کو اطلاع نہ دینا۔ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں اور میری واد کو روز قیامت تک میرا سلام پہنچے۔

مسلمانوں پر سیدۃ کی موت کا اثر

روایت ہے کہ اہل مدینہ کو جیسے ہی حضرت سیدۃ کی وفات کا علم ہوا تو ان کے نالہ و بکا کی صدائیں بلند ہوئیں۔ بنی ہاشم کی خواتین حضرت سیدۃ کے گھر آئیں اور انہوں نے اتنا گریہ و بکا کیا کہ شہر مدینہ لرزتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ خواتین بنی ہاشم بار بار کہتی تھیں یا سیدتاہ! یا بنت رسول اللہ! یعنی ہائے سیدۃ! ہائے دختر خیمبر۔

مدینہ کے مرد بہت بڑی تعداد میں جمع ہو کر حضرت علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جہاں حضرت علیٰ فرش عزا پر بیٹھے تھے اور ان کے آگے حسن و حسین بیٹھے رو رہے تھے۔ لوگ بھی شہزادوں کو روتا دیکھ کر رونے لگے۔

حضرت ام کلثومؓ اس حالت میں گھر سے نکلیں کہ ان کے چہرے پر نقاب تھا اور ان کے سر پر چادر تھی اور چادر کا پلو زمین پر گھسٹتا جاتا تھا ان کا گریہ انہیں بیتاب کر رہا تھا بی بی سیدھی نانا کے مزار پر گئیں اور قبر مطہر پر رو رو کر کہا:

یا ابتاہ! یا رسول اللہ! الان حقا فقدناک فقدنا لقاہ بعدہ ابدًا۔ اے

تاجان! آج ہم نے آپ کو پوری طرح کھو دیا ہے جس کے بعد ملاقات کا کوئی امکان نہیں۔

شہزادی کے یہ جملے سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور ہر طرف سے رُیہ و بکا کی آوازیں بند ہونے لگیں۔ تمام حاضرین بے تابلی سے بی بی کے جنازے کے باہر آنے کے منتظر تھے تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھ سکیں۔

اتنے میں حضرت ابوذرؓ گھر سے باہر آئے اور لوگوں سے کہا: آپ حضرات چھ جائیں ابھی جنازہ کے باہر آنے میں دیر ہے۔

یہ اعلان سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

غسل و کفن اور نماز جنازہ

جیسے ہی رات ہوئی تو حضرت علیؓ نے دختر بیغمبر کو غسل دیا اور غسل کے وقت امام حسن و حسین اور شہزادی زینب و ام کلثوم کے علاوہ فضہ اور اسماء بنت عمیس کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔

اسماء بنت عمیس کا بیان ہے کہ حضرت سیدہ کو غسل حضرت علیؓ نے دیا اور میں ان کی مدد کرتی رہی۔

روایت میں مذکور ہے کہ غسل دیتے وقت حضرت علیؓ یہ الفاظ دہراتے رہے:

اے پروردگار! فاطمہؓ تیری کنیز اور تیرے منتخب رسولؐ کی بیٹی ہے۔ خدایا! اسے اپنی حجت تلقین فرما اور اس کی برہان کو عظیم بنا اور اس کے درجہ کو بلند و بالا فرما اور اسے اس کے والد محمد مصطفیٰؐ کا ہم نشین بنا۔

روایت میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ کے جسد اطہر کو اسی کپڑے سے خشک کیا گیا تھا جس سے رسول خداؐ کے جسم اطہر کو خشک کیا گیا تھا۔ جب غسل مکمل ہوا تو حضرت علیؓ نے (اپنی زدہ جاہرہ کو کفن پہنایا پھر) بی بی کے جنازے کو تابوت نما چارپائی پر رکھ دیا گیا اور آپ نے

ام حسن سے فرمایا کہ تم ابوذرؓ کو اطلاع دو۔ ابوذرؓ آئے۔ بی بی کا جنازہ اٹھایا گیا اور وہاں یہ
 گیا جہاں نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔ حسن و حسینؑ ماں کے جنازے میں شریک تھے۔ حضرت عی
 نے بی بی کی نماز جنازہ پڑھائی۔

بچے ماں کا آخری دیدار کرتے ہیں

ورقہ کی روایت میں ہے کہ امیرالمؤمنین علیہ السلام کا بیان ہے:

میں نے فاطمہ زہراؑ کو غسل دیا اور میں نے غسل کے لئے ان کے پیراہن کو جدا نہیں
 کیا تھا۔ خدا کی قسم! فاطمہ پاک و پاکیزہ تھیں۔ غسل کے بعد رسول خداؐ کے بچے ہوئے کا فور
 سے میں نے انہیں حنوط کیا، انہیں کفن پہنایا اور کفن کے بند باندھنے سے قبل میں نے اپنے
 بچوں اور فضہؑ کو آواز دے کر کہا:

یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم یا فضة هلموا و تزودوا من امکم
 فهذا الفراق و اللقاء فی الجنة۔ یعنی اے حسن، اے حسین، اے زینب، اے ام کلثوم اور
 فضہ! آؤ ماں کا دیدار کرلو۔ ماں تم سے جدا ہوتی ہے، پھر جنت میں اس سے ملاقات ہوگی۔
 حسن و حسین آگے بڑھے اور رورو کر کہا:

وا حسرتاه لا تنطفی ابداً من فقد جدنا محمد المصطفیٰ و انا فاطمة
 الزهراء۔ یعنی ہائے ہمارے نانا محمد مصطفیٰ اور ہماری ماں فاطمہ زہراؑ کی جدائی ایک ایسی حسرت
 ہے جس کے شعلے نہیں بجھیں گے۔

پھر بچوں نے ماں کو مخاطب کر کے کہا: امی جان! جب ہمارے نانا سے آپ کی
 ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ ہم دنیا میں یتیم ہو چکے ہیں۔

امیرالمؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں:

انی اشهد الله انها حنت و انت و مدت ידיها و ضمتهما الی صدرها ملياً.

یعنی میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس وقت بنت پیغمبرؐ کے کفن سے آدہ و نالہ کی آواز آئی اور زہرا نے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالے اور حسن و حسینؑ کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس وقت باتف نے آسمان سے یہ صدا دی:

يا ابا الحسن! ارفعهما عنها فلقد ابكيا و الله ملائكة السماء وقد اشتاق الحبيب المي حبيبہ. یعنی اے علی! ان دونوں بچوں کو ماں کی میت سے جدا کرو۔ نبیوں نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے جبکہ حبیب اپنی حبیبہ کا مشتاق ہے۔

حضرت علیؑ یہ آواز سن کر آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے بچوں کو تسلی دی اور انہیں ماں سے جدا کیا۔

سیدۃ کا کفن

روایت ہے کہ کثیر بن عباس نے حضرت زہراؑ کے کفن کے ایک کونے پر یہ عبارت لکھی تھی:

ان فاطمة تشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله. یعنی فاطمہؑ گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمدؐ مصطفیٰ، اللہ کے رسول ہیں۔

کتاب ”مصباح الانوار“ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زہراؑ سلام اللہ علیہا کا کفن موٹے اور کھر درے کپڑے کے ٹکڑوں پر مشتمل تھا کیونکہ اس کتاب میں مروی ہے کہ حالت احتضار میں حضرت سیدۃ نے پانی کا ایک برتن طلب کیا اور اس پانی سے غسل کیا پھر انہوں نے خوشبو طلب کی اور اس سے حنوط کیا۔ (یعنی اسلام کے حکم کے مطابق آپ نے سات اعضاء سجدہ پر خوشبو لگائی) آپ نے لباس طلب کیا تو آپ کی خدمت میں موہ اور کھر درا لباس پیش کیا گیا۔ آپ نے وہ لباس زیب تن فرمایا..... تا آخر روایت۔

ایک روایت میں مذکور ہے کہ حضرت سیدۃ کو سات کپڑوں کا کفن دیا گیا۔

نماز جنازہ اور تدفین

کتاب روضۃ الواعظین میں منقول ہے:

رات ہوئی اور لوگ سو گئے۔ رات کا ایک حصہ گزارا تو حضرت علیؓ، حسنؓ، حسینؓ، عمرؓ، مقدادؓ، عقیلؓ، زبیرؓ، ابو ذرؓ، سلمانؓ اور بریدہؓ کے علاوہ بنی ہاشم کے چند خاص افراد بی بی کے جنازے کو گھر سے باہر لائے، بی بی کی نماز جنازہ پڑھی اور آدھی رات کے وقت بی بی کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت علیؓ نے بی بی کی قبر کے ارد گرد دوسری سات قبریں بنائیں تاکہ حضرت سیدہ کی قبر پہنچانی نہ جاسکے۔

مصباح الانوار میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا:

امیر المؤمنین نے حضرت سیدہ کے جنازے میں کتنی تکبیریں کہی تھیں؟

آپ نے فرمایا: امیر المؤمنین جب ایک تکبیر کہتے تھے تو آپ کے بعد جبرئیلؑ ایک تکبیر کہتے تھے، پھر ملائکہ مقررین تکبیر کہتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے پانچ تکبیریں مکمل کیں۔ ایک اور شخص نے پوچھا: حضرت سیدہ کی نماز جنازہ کس جگہ پڑھی گئی؟

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: سیدہ کی نماز جنازہ ان کے گھر میں ادا کی گئی،

اس کے بعد جنازہ کو باہر لایا گیا۔

دفن زہرا کے بعد علی کا رسول خدا پر سلام

شیخ طوسی رقم طراز ہیں:

جب حضرت علیؓ علیہ السلام حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو دفن کر کے فارغ ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی جھاڑی تو آپ کے آنسو آپ کے رخساروں پر بہنے لگے اور آپ کا منہ قبر رسولؐ کی طرف پھر گیا اور آپ نے کہا:

السلام علیک یا رسول اللہ عنی، و عن ابنتک النازلة فی جوارک و

السريعة اللحاق بك، قل يا رسول الله تجلدى آلا ان فى الناسى لى بعظيم فرقتك
و فادح مصيبتك موضع تعز... الى آخره يا رسول الله! آپ کو میری جانب سے اور آپ
کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔

یا رسول اللہ! آپ کی بڑزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیبہ جاتا رہا، میری ہمت
و توانائی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن آپ کی مفارقت کے حادثہ عظمیٰ اور آپ کی رحلت کے
صدمہ جانگاہ پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر صبر و شکیبائی ہی سے کام لینا پڑے گا۔
میں نے آپ کو لحد میں سلایا، آپ کا جسم اطہر میرے سینے اور گردن کے درمیان تھا جب آپ
کی روح نے پرواز کی تھی، قرآن مجید کا حکم میرے لئے کافی ہے۔ انا لله و انا الیہ راجعون
آپ کی امانت مجھ سے واپس لے لی گئی۔ آپ نے اپنے جس پارہ جگر کو میرے پاس چھوڑا تھا
اسے مجھ سے لے لیا گیا ہے اور میرے جنم کا پھول توڑ لیا گیا۔ اب زمین و آسمان میرے لئے
اندھیر ہو چکے ہیں۔ اب میرا غم دائمی ہے اور میری راتیں نیند و آرام سے خالی ہیں یہاں تک کہ
خداوند عالم مجھے بھی اس مقام پر بلا لے جہاں آپ رہتے ہیں۔ میرے دل کے زخم پیپ آلود
ہو چکے ہیں اور غم کی موجیں جوش میں آچکی ہیں۔ کتنی جلدی ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے
ہیں اور جدائی کی شکایت میں خدا سے کرتا ہوں۔

آپ کی بیٹی آپ کو آگاہ کریں گی کہ آپ کی امت نے آپ کی دختر کے حق کو
غصب کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ آپ ان سے سوال کریں، وہ آپ کو سارا حال
بتائیں گی۔ ان کے سینے میں شدید غم و الم بھرا ہوا ہے جس کے ظاہر کرنے کا انہیں س دنیا میں
موقع نہیں ملا۔ اب وہ آپ کو بتائیں گی اور خدا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

آپ دونوں پر میرا سلام ہو و داغ کرنے والے کا سلام، اگر میں یہاں سے چد جاؤں
تو وہ اس وجہ سے نہ ہوگا کہ میں یہاں ٹھہرنے سے طویل ہوں اور اگر میں اس قبر پر ٹھہر جاؤں تو
وہ اس وجہ سے نہ ہوگا کہ جو وعدہ صابریں کے ساتھ خدا نے کیا ہے اس پر میرا یقین نہیں ہے۔^۱

۱۔ یہاں تک کہ کتب صحیح ابانہ خضہ نمبر ۲۰۰ سے لی گئی ہے۔ (ترجمہ مفتی جعفر حسین)

ہائے صبر ہی بہتر ہے اور اگر چاہر اور ظالم لوگوں کو غلبہ نہ ہوتا تو میں آپ کی قبر پر مقیم ہو جاتا، یہاں اعتکاف کرتا اور اس مصیبت عظمیٰ پر اس ماں کی طرح سے رُبیہ و زاری کرتا جس کا بیٹا مر گیا ہو۔ پس خدا کے سامنے آپ کی دختر چُھپا کے دفن کی گئیں اور ان کا حق تلف کر لیا گیا اور ان کو میراث سے محروم رکھا گیا جبکہ آپ کی یاد لوگوں میں پرانی نہیں ہوئی تھی۔

یا رسول اللہ! اس بے داد بڑی کی ہم خدا سے شکایت کرتے ہیں اور آپ کی ذات سے ہی صبر کا بہترین درس لیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور فاطمہ زہرا پر درود بھیجے اور اپنی رضا نازل کرے۔

ایک شاعر نے کیا ہی اچھے انداز سے درودوں کا اظہار کیا تھا:

ولای الامور تدفن سراً بصعة المصطفى و يعفى ثراها
فمضت وهي اعظم الناس شجوا في فم الدهر غصة من حواها
و ثوت لا ترى الناس لها مثوى ای قدس يضمه مشواها
رسول خدا کے جگر گوشہ کو کس وجہ سے مخفی طور پر دفن کیا گیا اور اس کا نشان قبر کیوں
منیا گیا۔ فاطمہ دنیا سے بہت ہی رنجیدہ ہو کر روانہ ہوئیں اور تمام لوگوں سے ان کے غم زیادہ
تھے۔ بے بی بی کی قبر ناشناختہ ہوگئی، لوگ بی بی کی قبر کو دیکھ نہیں سکتے اور لوگوں کو یہ بھی علم نہیں
ہے کہ بی بی کا وجود اطہر کس مقدس زمین میں دفن ہے۔

اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک
ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں

قبر سیدۃ پر حضرت علی کی ایک اور گفتگو

کتاب مصباح الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے:
جب حضرت علی نے حضرت سیدۃ کا جسم اطہر قبر میں رکھا تو آپ نے فرمایا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ عَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ
 بنِ عَبْدِ اللّٰهِ . . . اے صدیقہ! میں تمہیں اس کے حوالے کرتا ہوں جو مجھ سے بھی زیادہ تم پر
 مہربان ہے۔ جو کچھ تمہارے لئے خدا نے پسند کیا ہے میں بھی اسے تمہارے لئے پسند کرتا ہوں۔
 پھر آپ نے یہ آیت مجیدہ پڑھی:

مِنهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نَعِيْدُكُمْ وَ مِنهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخِرٰی (سورہ طہ
 آیت ۵۵) ہم نے تمہیں اسی زمین سے ہی پیدا کیا اور ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے اور ہم
 تمہیں دوبارہ اسی سے باہر نکالیں گے۔

قبر کو ہموار کر کے آپ نے اس پر کچھ پانی چھڑکا اور گریہ کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔
 آپ کے چچا عباسؓ نے آپ کے بازو سے پکڑا اور آپ کو گھر لے گئے۔

ناکام جستجو

روایت ہے کہ حضرت سیدۃ کو دفن کرنے کے بعد حضرت علیؓ نے اس کے ارد گرد مزید
 چالیس قبریں بنائی تھیں۔ بہر نوع شب غم ختم ہوئی اور صبح ہوئی تو مسلمان بی بی کا جنازہ پڑھنے
 کے لئے جمع ہوئے۔ انہیں بتایا گیا کہ بی بی کو راتوں رات دفن کیا جا چکا ہے تو وہ قبرستانِ قبیع
 میں آئے اور وہاں انہیں چالیس تازہ قبریں دکھائی دیں تو وہ حیران رہ گئے اور حضرت سیدۃ کی
 قبر کو پہچان نہ سکے تو انہوں نے زور زور سے آہ و بکا شروع کر دی اور ایک دوسرے کو ملامت کر
 کے کہنے لگے کہ رسول خداؐ نے اپنے بعد ایک ہی تو بی بی چھوڑی تھی لیکن وہ بھی دنیا سے رخصت
 ہو گئی اور ہم اس کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے اور ہمیں اس کی قبر کا علم تک نہیں ہے۔

اہل حکومت نے کہا: جاؤ چند مومن خواتین کو لے آؤ جو ان قبروں کو شناخت کریں تاکہ ہمیں
 معلوم ہو سکے کہ بنت پیغمبر کس قبر میں آسودہ خواب ہیں۔ جب ہمیں بی بی کی قبر معلوم ہو جائے گی تو
 ہم ان کے جسد اطہر کو باہر نکال کر ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کی قبر کی زیارت کریں گے۔

جب حضرت علیؑ کو حکام کے ارادے کی خبر ہوئی تو غیظ و غضب کی حالت میں باہر نکلے۔ آپ کی ایک زرد رنگ کی قباحتھی جسے آپ جنگوں میں پہنا کرتے تھے، آپ نے اپنی وہ زرد قباحت اپنی اور ذوالفقار ہاتھ میں لی۔ شدت غضب سے آپ کی آنکھیں سرخ تھیں اور آپ کی رگ گردن غصہ سے پھولی ہوئی تھی۔ اس حالت میں آپ بقیع کی طرف روانہ ہوئے۔ تاکہ لوگوں کو قبر کھولنے سے روکیں۔

اس عالم میں انہیں آتا ہوا دیکھ کر ایک شخص نے پکار کر کہا: دیکھو! آج علیؑ کس حالت میں تمہارے پاس آئے ہیں اور وہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان قبروں کا ایک پتھر بھی اکھاڑنے کی جسارت کی گئی تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔

حضرت عمرؓ نے کچھ اور اصحاب کے ساتھ حضرت علیؑ سے کہا: اے ابوالحسن! آخر آپ کو کیا ہوا ہے اور اگر ہم نماز جنازہ کی نیت سے قبر کشتائی کریں تو آپ کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حضرت علیؑ نے اس کے گریبان کو پکڑ کر کھینچا تو وہ زمین پر گر پڑا اور آپ نے اس سے فرمایا: سیاہ چشمی عورت کے فرزند! میں نے اپنے حق کے لئے محض اس لئے تلوار نہ اٹھائی کہ کہیں لوگ مرتد نہ ہو جائیں۔ فاطمہؑ کی قبر کشتائی کے متعلق سن لو مجھے اس قادر مطلق کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علیؑ کی جان ہے اگر تو یا تیرے ساتھیوں میں سے کسی نے قبر سے ایک ڈھیلا بھی اٹھایا تو میں تمہارے خون سے زمین سرخ کر دوں گا۔ اور ایسا نہ ہوگا جیسا کہ تم بدر سے اپنی جان سلامتی سے لے آئے تھے۔

یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکرؓ حضرت علیؑ کے پاس آئے اور آپ سے کہا: اے ابوالحسن! آپ کو رسول خداؐ کے حق اور صاحب عرش کے حق کی قسم! آپ اسے چھوڑ دیں، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو آپ کی ناراضگی کا موجب ہو۔

آپ نے حضرت عمرؓ کو چھوڑ دیا اور لوگ واپس چلے گئے۔ پھر کسی و قبر کشتائی کا نام لینے کی جرأت نہ ہوئی۔

شیخین کے سامنے حضرت علیؑ کی وضاحت

شیخ صدوق کتاب علل الشرائع میں رقم طراز ہیں

ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا لوگوں نے سیدۃ کی قبر کھولنے کا فیصلہ کیا تھا؟

آپ نے فرمایا: حضرت علیؑ نے رات کے وقت سیدۃ کا جنازہ گھر سے برآمد کیا۔ آپ نے روشنی کے لئے کھجور کی چند شاخوں کو آگ لگا لی اور اس کی روشنی میں راہ چننے لگے۔ پھر آپ نے بی بی کی نماز جنازہ پڑھی اور رات کو ہی انہیں سپرد خاک کر دیے۔

صبح کے وقت ایک قریشی سے شیخین کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا اس وقت کہاں سے آ رہا ہے؟

اس نے بتایا: میں حضرت فاطمہؑ کی تعزیت کے لئے علیؑ کے گھر گیا تھا اور اب وہیں سے واپس آ رہا ہوں۔

انہوں نے کہا: تو کیا فاطمہؑ کا انتقال ہو گیا ہے؟

اس نے کہا: جی ہاں! نہ صرف انتقال ہوا ہے بلکہ نصف شب کے وقت انہیں سپرد خاک بھی کر دیا گیا ہے۔

یہ اطلاع سن کر دونوں اشخاص بڑے پریشان ہوئے اور انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ بوگ انہیں ملامت کریں گے۔

چنانچہ وہ حضرت علیؑ کے پاس آئے اور آپ سے کہا: خدا کی قسم! آپ نے آج تک دشمنی اور عناد کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور آپ نے یہ سب کچھ س نئے کیا ہے کہ آپ کے دل میں ہمارے لئے کینہ چھپا ہوا ہے۔ اس لئے پہلے بھی آپ نے رسول خداؐ کو تہہ ہی غلٹس دیا تھا اور ہمیں اس کی اطلاع نہ دی تھی اور آپ نے اپنے بیٹے حسنؑ کو مسجد میں بھیجا جس نے ابو بکر سے کہا کہ میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر۔ (آخر یہ سب کچھ کیوں؟)

حضرت علی نے فرمایا۔ اُر میں قسم کھا کر وضاحت کروں تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟
حضرت ابو بکر نے کہا: جی ہاں۔

آپ نے فرمایا۔ رسول خدا نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں ان کے غسل میں کسی اور سے کو شریک نہ کروں اور آنحضرت نے فرمایا تھا کہ میرے ابن عم علیؑ کے علاوہ کوئی بھی میرے بدن پر نظر نہ ڈالے۔ میں نے آنحضرت کو غسل دیا اور فرشتے غسل کے وقت آنحضرت کے جسم کو حرکت دیتے رہے۔ اس اثناء میں فضل بن عباس مجھے پانی دیتا رہا۔ مگر اس کی آنکھوں پر بھی پتی بندھی ہوئی تھی۔

غسل کے دوران میں نے آنحضرت کے پیرا بن کو اتارتا چاہا تو ایک باتف کی مجھے آواز سنائی دی لیکن آواز دینے والا مجھے دکھائی نہ دیا۔ اس نے کہا کہ رسول خدا کی قمیض مت اتاریں۔ یہ آواز سننے کے بعد میں نے آپ کی قمیض اتارنے کا ارادہ بدل دیا اور میں نے آپ کی قمیض میں ہی غسل دیا۔ غسل سے فارغ ہو کر میں نے آپ کو کفن دیا اور کفن دینے کے بعد میں نے آپ کی غسل والی قمیض اتاری۔

جہاں تک حسن کا مسکہ ہے کہ اس نے مسجد میں آ کر ابو بکر سے کہا کہ ”میرے والد کے منبر سے اتر اور اپنے والد کے منبر پر جا کر بیٹھ“ تو اس سلسلے میں حقیقت یہ ہے کہ جسے تمام اہل مدینہ بخوبی جانتے ہیں کہ حسن رسول خدا کی زندگی میں ان کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے۔ جب رسول خدا سجدے سے سر اٹھاتے تو بڑے آرام سے حسن کو اپنے کندھے پر سوار کر دیتے تھے ایک ہاتھ سے حسن کی کمر کو پکڑے رکھتے تھے اور ایک ہاتھ سے اس کے پیچ کو درخود نماز پڑھنے میں مصروف رہتے تھے اور اس حالت میں آنحضرت نمازت فارغ ہوتے تھے۔ (یہ یہ سچ ہے؟)

انہوں نے کہا: جی ہاں! ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے۔

پھر حضرت علی نے فرمایا: تو تمام اہل مدینہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ابھی حسن مسجد

میں جاتے تو رسول خدا اپنا خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے آتے تھے اور حسن کو اٹھا کر دوبارہ منبر پر تشریف لےتے تھے اور حسن کو اپنی گردن پر بٹھا لیتے تھے۔ حسن کے پاؤں کے خنجر کی چمک مسجد میں بیٹھے ہوئے آخری شخص تک کو دکھائی دیتی تھی۔

حسنؑ، رسول خداؐ کی اس شفقت و محبت کے عادی ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے رسول خداؐ کے منبر پر ان کی جگہ کسی اور کو دیکھا تو وہ برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ”میرے بابا کے منبر سے اتر جا اور اپنے باپ کے منبر پر جا کر بیٹھ۔“ خدا کی قسم! میں نے حسن کو ہرگز نہیں کہا تھا کہ وہ تم سے منبر سے اترنے کا مطالبہ کرے۔

جہاں تک (حضرت) فاطمہؑ کا مسئلہ ہے تو تم تو یہ بات جانتے ہی ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ان کے پاس لے کر گیا تھا۔ تم نے ان کی زبان سے ہی ان کی ناراضگی کا اظہار سن لیا تھا۔

خدا کی قسم! فاطمہؑ نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں تمہیں ان کے جنازے میں شریک نہ ہونے دوں اور میں ان کی وصیت کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا۔

حضرت عمرؓ نے کہا: علیؑ! ان باتوں کو رہنے دو میں جا کر فاطمہؑ کی قبر کھوتی ہوں اور ان کے جنازے کو باہر نکال کر نماز جنازہ پڑھتا ہوں۔

حضرت علیؑ نے فرمایا: خدا کی قسم! اگر تو نے ایسا کیا تو میں تیرے بدن سے تیری گردن اڑا دوں گا اور اس صورت میں تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔

حضرت علیؑ اور ان کے مخالف کے درمیان کافی تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا اور قریب تھا کہ فریقین آپس میں ٹکرا جائیں، مگر اس دوران بہت سے مہاجرین و انصار نے جمع ہو کر بیچ بچاؤ کرایا اور صحابہ نے کہا کہ ہم اس بات پر ہرگز خوش نہیں ہو سکتے کہ اس طرح کے سخت سست جملے رسول خداؐ کے ابن عم اور ان کے وصی سے کہے جائیں۔

اس دن فتنہ و آشوب ہونے کو ہی تھا کہ لوگوں نے اس کو بڑھنے سے روک دیا۔

قاضی ابوبکر کے اشعار

محدث کبیر علی بن عیسیٰ اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ (جلد دوم صفحہ ۶۹) میں رقم

طراز ہیں:

میرے ایک دوست نے اہلسنت عالم قاضی ابوبکر بن ابی قریبہ (باقلانی) کے یہ اشعار

مجھے سنائے جو میں یہاں درج کر رہا ہوں:

یا من یسائل دائبا عن کل معضلة سخيفة
لا تکشفن مغطنا فلر بما کشففت جيفة
و لرب مستور بدا کالطبل من تحت القطفية
ان الجواب لحاضر و لکنتی اخفیه خيفة
لولا اعتداء رعية القی سیاستها الخليفة
و سیوف اعداء بها ما تنا ایدا نسقيفة
لنشرت من اسرار ال محمد جملا طريقة
یغنیکم عمار واه مالک و ابوحنيفة
و اریتمک ان الحسین اصیب فی یوم السقيفة
ولای حال لحدث باللیل فاطمة الشریفة
و لما حمت شیخیکم عن وطی حجرتها المنيفة
اوہ لبنت محمد ماتت بغصتها اسيفة

۱۔ علی بن عیسیٰ اربلی قرن ہفتم کے مشہور شیعہ عالم تھے۔ وہ کئی کتابوں کے مؤلف اور صاحب دیوان تھے۔
"کشف الغمہ فی معرفة الانسہ" ان کی ہی تالیف لطیف ہے جو کہ تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔
(الکلی والعتاب، جلد دوم، صفحہ ۱۹۔ مترجم فارسی)

۱۔ ہمیشہ مشکل مسائل پوچھنے والے! پوشیدہ اشیاء کو ظاہر مت ہونے دو ممکن ہے کہ پوشیدہ مسئلہ کسی مردار کی طرح سے قابل نفرت ہو۔

بعض اوقات کچھ پوشیدہ مسائل اگر ظاہر ہو جائیں تو یوں لگتا ہے کہ چادر اٹھانے پر طلب ظاہر ہوا ہو۔ البتہ جواب حاضر ہے لیکن میں اس کے بیان کرنے کو کچھ مخفی رکھوں گا۔ اگر رعیت کی زیادتی اور خیفہ کی سیاست اور سزا کا خطرہ نہ ہوتا اور دشمنوں کی ان تلواروں کا خوف نہ ہوتا جو ہمیشہ سے ہمارے سروں پر چلتی رہی ہیں تو میں تم سے آل محمدؐ کے وہ اسرار بیان کرتا جو تمہیں امام مالک اور امام ابوحنیفہ کی روایات سے بے نیاز کر دیتے۔

اور میں تمہیں یہ بھی دکھا دیتا کہ حسینؑ سقیفہ کے دن ہی قتل ہوئے تھے اور میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا کہ فاطمہ زہراؑ کو رات کی تاریکی میں کیوں دفن کیا گیا۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا کہ شیخین کو بی بی کے حجرے میں داخل ہونے سے روکا کیوں گیا تھا۔ ہائے افسوس محمد مصطفیٰؐ کی بیٹی شدت غم سے وفات پا گئیں۔

سیدۃ کے اوقاف و صدقات

مفتی الاسلام شیخ کلینی نے اپنی اسناد سے ابوبصیر سے روایت کی کہ اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا:

کیا پسند نہیں کرتے کہ میں حضرت زہراؑ کا وصیت نامہ تمہیں سناؤں؟
میں نے کہا: کیوں نہیں؟

امام علیہ السلام نے صندوق طلب کیا، اس میں سے آپ نے ایک تحریر نکالی جس میں یہ عبارت تحریر تھی:

• بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فاطمہ بنت محمدؐ کی وصیت ہے کہ اس کے سات باغ (۱) عواف۔ (۲) دلال۔ (۳) برقہ۔ (۴) سمیت۔ (۵) حسنی۔ (۶) صافیہ۔ (۷) مشربہ ام

ابراہیم وقف ہیں۔ جن کا متولی میں امیر المؤمنین علیؑ کو قرار دیتی ہوں۔ عیٰ کی وفات کے بعد اس کے متولی میرے بیٹے حسن ہوں گے اور حسن کے بعد اس کے متولی حسین ہوں گے۔ حسینؑ کے بعد میری اولاد میں سے جو سب سے بڑا ہو وہ اس کا متولی ہوگا اور یہ تولیت ہمیشہ کیلئے ہوگی۔ اس تحریر پر خدا گواہ ہے اور مقدادؑ اور زبیرؓ بھی گواہ ہیں۔ اس تحریر کو علی بن ابی طالب نے لکھا۔^۱

عالم بزرگوار سید ابن طاووس (متوفی ۶۶۴ھ) اپنی کتاب کشف الحجج میں اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت پیغمبر اکرمؐ اور حضرت امیر المؤمنینؑ غریب نہیں تھے اور زہد کی خصلت کے لئے مغلص ہونا شرط نہیں ہے۔

تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”فدک و عوالی“ کی جائیداد تیری دادی کو بہہ کی تھی اور فدک اور عوالی کی سالانہ آمدنی شیخ عبداللہ بن حماد انصاری کے قول کے مطابق چوبیس (۲۴) ہزار دینار تھی۔

ایک اور روایت میں فدک و عوالی کی سالانہ آمدنی ستر ہزار دینار کے برابر بیان کی گئی ہے۔ (آئینی کلام سید ابن طاووس)

پیغمبر اکرمؐ کے بعد سیدۃ کتنے دن زندہ رہیں

مؤلف کہتا ہے کہ رحلت پیغمبرؐ کے بعد حضرت زہراؑ کی زندگی کے متعلق راویوں اور مورخین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔

بعض مورخین نے زیادہ سے زیادہ چھ ماہ لکھا ہے اور بعض مورخین نے کم از کم چالیس

۱۔ حضرت سیدۃ نے فدک اور عوالی کا مطالبہ کیا تھا۔ غالباً لفظ ”عوالی“ سے مذکورہ سات باغ مراد ہیں۔ (مترجم فارسی)

دن لکھے ہیں۔ لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ حضرت سیدہ اپنے والد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحلت
 کے بعد پچانوے دن زندہ رہیں اور آپ نے تین جمادی الثانی اللہ کو وفات پائی۔
 محمد بن جریر طبری امامی سند معتبر سے ابو بصیر سے نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق
 علیہ السلام نے فرمایا: حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بروز بدھ تین جمادی الثانی اللہ کو
 وفات پائی اور ان کی وفات کا سبب یہ تھا کہ عمر بن خطاب کے غلام قنفذ نے اپنے آقا کے حتم
 سے بی بی کو تلوار کی نیام ماری تھی جس سے ان کے بیٹے محسن کا استقاط ہوا۔ یہی ضربت سیدہ کی
 شدید بیماری کا سبب بن گئی۔ حضرت سیدہ نے اپنی بیماری کے ایام میں کسی بھی ظلم کرنے والے
 کو اپنی عیادت کی اجازت نہیں دی تھی۔

تمت بالخیر



۷۸۶
۹۲-۱۱۰
یا صاحب الزماں اور کنی



لیک یا حسین

نذر عباس
خصوصی تعاون:
رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

www.ziaraat.com

SABEEL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad

Sindh, Pakistan.

www.sabeelesakina.co.cc

sabeelesakina@gmail.com

NOT FOR COMMERCIAL USE